

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

غم نہ کریں

- ☆ نام کتاب: غم نہ کریں
- ☆ مصنف: ڈاکٹر عائشہ القرنی
- ☆ ترجمہ عربی کتاب ”لا تحزن“ بارہواں ایڈیشن ۱۴۲۵ھ / ۲۰۰۳ء
- ☆ اردو ایڈیشن: پہلا ۲۰۰۶ء
- ☆ مترجم: غطریف شہباز ندوی
- ☆ ایڈیٹنگ: محمود عالم / نظر ثانی: پروفیسر یوسف ریاض
- ☆ کمپوزنگ: آئی آئی پی ایچ
- ☆ کورڈیناٹن: آئی آئی پی ایچ

ڈاکٹر عائض القرنی کی عربی کتاب ”لا تحزن“ کا اردو ترجمہ

غم نہ کریں

مصنّف

ڈاکٹر عائض القرنی

مترجم

عطر یف شہباز ندوی

الدار العالمیة للکتاب الاسلامی

ڈاکٹر عائض القرنی کی عربی کتاب ”لا تحزن“ کا اردو ترجمہ

غم نہ کریں

مصنّف

ڈاکٹر عائض القرنی

مترجم

عطر یف شہباز ندوی

الدار العالمیة للکتاب الاسلامی

عرض ناشر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین
المدار العالمیہ للکتاب الاسلامیہ کو دنیا کی ستر زبانوں میں اسلامی کتب شائع اور تقسیم کرنے کا شرف حاصل ہے
اور یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی سعادت نصیب فرمائی کہ ہم اس کے دین کی خدمت
اور اس کی اشاعت کا فریضہ انجام دے سکیں۔ اردو زبان میں اسلامی لٹریچر کا بڑا ذخیرہ موجود ہے پھر بھی محسوس ہوا کہ
بعض اہم موضوعات پر اس زبان میں کتابوں کی سخت ضرورت ہے۔ ہم نے جنوبی ایشیائی زبانوں میں اہم کتب کے
ترجموں کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ اس اہم سلسلے کی کڑی ہے۔

ڈاکٹر عائشہ القرنی کی کتاب 'لائقون' وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا حزن و ملال، رنج و غم
اور پریشانی و قلق میں مبتلا ہے۔ اس صدی میں انسان مادی اعتبار سے جس قدر ترقی کرتا جا رہا ہے اس کے اخلاقی
اور روحانی مسائل اتنے ہی زیادہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔

یہ کتاب ذہن و فکر کی تربیت، انسانی نفسیات کو بالیدہ اور انسانی شعور کو بیدار کرتی ہے۔ اس کا موضوع
اسلامیات، نفسیات، سماجیات، نفس انسانی اور مداوائے غم سبھی کچھ ہے، انتہائی آسان زبان، رواں، شگفتہ اور دل نشیں
اسلوب میں قاری کے سامنے وہ مباحث پیش کرتی ہے جن سے اس کے ذہن کو جلا ملے، رنج و فکر دور ہوں، حزن و ملال
کے بادل چھٹیں، ماضی کی یاد میں کھوئے رہنے سے نجات ملے اور انسان مستقبل کی تعمیر کے لئے تازہ دم ہو جائے۔ تلمیحوں
اور رکاوٹوں کو فراموش کرے اور مسائل و مشکلات کا سامنا خندہ پیشانی سے کر سکے۔

یہ کتاب بتاتی ہے کہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، یہ چند روزہ ہے، قرآنی آیات، احادیث، واقعات، عالم اور
واقعات سلف کے ذریعہ دنیا کی بے ثباتی واضح کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ چند روزہ زندگی انسان کو نپس کھیل کے گزرنی
چاہئے نہ کہ رنج و غم اور تفکرات کے سایے میں۔ یہ تقدیر پر ایمان کے ساتھ اپنی تقدیر آپ بنانے کا گڑ بھی سکھاتی ہے
کامیاب و بامراد زندگی جینے کے ڈھنگ بتاتی ہے، وہ توکل کی حقیقت بتاتی ہے کہ توکل نکلے پن بے عملی اور بے کاری کا
نام نہیں۔ بلکہ اللہ پر کامل توکل اور دعا و مناجات کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کے پیدا کردہ وسائل، امکانات، مواقع، اور
صلاحتوں سے فائدہ اٹھا کر عمل کی دنیا میں سرگرم ہو۔ دنیا چند روزہ اور آنی جانی ہے آخرت کی جاوداں زندگی کے لئے
کام کرو۔ یہ کتاب سچ کی عادت، جھوٹ کی برائی، علم کے ساتھ عمل، غم و درگزر، توکل اور صبر و شکر، حق پر استقامت،

غم نہ کریں

سخاوت اور خیرات کی ترغیب، بخل اسراف اور فضول خرچی سے پرہیز، میانہ روی کی تاکید، قرابت مندوں، قبیہوں، پڑوسیوں، مسافروں، سالکوں اور غریبوں کی امداد، امانت داری، ایقائے عہد، معاہدوں کا لحاظ رکھنا اور بھلائی کا تذکرہ، باہمی محبت نہ کسی کو برا کہنا، نہ کسی کا منہ چڑانا نہ برے ناموں سے یاد کرنا وغیرہ جیسی اچھی عادتوں کو اختیار کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس کتاب میں کثرت سے قرآنی آیات احادیث نبویؐ، آثار صحابہؓ اور اقوال ائمہ و بزرگان نیز حکماء و دانشوروں کے خیالات و افکار نقل کئے گئے ہیں۔ مگر اس میں صدق بیانی کا پورا خیال رکھا گیا ہے اور تاریخ کے غیر ثابت شدہ قصوں، تصوفین کے تذکروں اور ملفوظات کی من گھڑت داستانوں سے اجتناب کیا گیا ہے۔ یہ کتاب خوش نما رنگوں کی ایک حسین قوس و قزح، گلہائے رنگ رنگ کا ایک حسین گلہ سبز، ایک خوبصورت مرقع، ایک دل کش انتخاب ہے۔

الدار العالمیہ نے کتابوں کی اشاعت کی دنیا میں اپنا ایک معیار قائم کیا ہے۔ ترجمہ میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ وہ با محاورہ، سلیس اور رواں ہو اور اس کا ادبی معیار اس قدر بلند ہو کہ کتاب پر ترجمہ کا گمان نہ ہو سکے۔ اصل کتاب میں جو ادبی معیار ہے اس کو ترجمہ میں منتقل کرنا تو ممکن نہیں لیکن کوشش کی گئی ہے کہ اردو زبان کے قاری کو کتاب پڑھتے وقت ادبی ذائقہ محسوس ہو۔ فاضل مترجم جناب غطریف شہباز ندوی عربی کے فاضل ہیں اور اردو اور عربی دونوں پر یکساں عبور رکھتے ہیں۔ عبارت کی نوک پلک درست کرنے کے لئے الدار العالمیہ نے اردو کے کہنہ مشق صاحب طرز ادیبوں کی خدمات حاصل کی ہیں۔ البتہ قرآنی آیات کے ترجمے میں مجمع ملک فہد کے شائع کردہ مولانا محمد جونا گڑھی کے ترجمہ سے استفادہ کیا گیا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو عوام و خواص کے لئے مفید بنائے اور ہمارے لئے اور مصنف و مترجم اور ان تمام احباب کے لئے جنہوں نے اس کی تیاری میں کسی قدر بھی اپنا کردار ادا کیا ہے صدقہ جاریہ بنائے اور جزائے خیر سے نوازے۔ آمین

محمد بن عبدالمحسن التویجری

جنرل منیجر

الدار العالمیہ للکتاب الاسلامی

مقدمہ ثانیہ

(۱۰ لاکھ نسخوں والا ایڈیشن)

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد:

خدا کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس عاجز مصنف کی اس کتاب کی زبردست پذیرائی ہوئی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ اپنے قارئین کے دنیاوی رنج و غم، مشکلات زندگی اور آلام حیات کی تخفیف میں ان کا ساتھ دوں۔ میں اپنے پیارے قارئین کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے کتاب کے مطالعہ کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس طرح میری تکریم و حوصلہ افزائی کی۔ اس سے قبل بھی میری متعدد کتابیں آئی ہیں لیکن اس کتاب (لا تحزن) کی بات ہی کچھ اور ہے وہ میرے لئے ایسے ہی محبوب ہے جیسے دس بیٹوں میں چہیتا بیٹا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ”برادران یوسف“ نے اپنے آپ میں کہا تھا کہ ”یوسف اور اس کا بھائی والد صاحب کے ہم سے زیادہ چہیتے ہیں جب کہ زور بازو ہم رکھتے ہیں۔“

ناظرین! کتاب کے ایڈیشن کی دس لاکھ سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو گئیں۔ یہ مالغہ کی بات نہیں بلکہ اطلاعاً عرض ہے۔ اس میں کوئی نمود و نمائش بھی نہیں واقعہ یہی تعداد ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ میں نے کوئی نئی بات ایجاد کر دی ہو جس سے مجھ سے پہلے لوگ عاجز و سرگشتہ رہ گئے ہوں، بلکہ اس قبولیت عامہ کا بس ایک ہی راز ہے کہ میں نے اس کی کوشش کی کہ رنج و فکر کے ماروں کا ساتھ دوں، مغموموں کے غم میں حصہ بناؤں، مصیبت زدوں کے ساتھ روؤں اور تکلیف میں مبتلا لوگوں کی تکلیف کم کروں تاہم اس میں بھی ان ہی کا احسان ہے کہ اصل احساس غم تو انہیں کا ہے میں نے تو صرف ترجمانی کی ہے۔ بقول عربی شاعر۔

”اگر اس کے عشق میں آنسو بہانے سے پہلے میں رویا ہوتا تو مجھے آرام ملتا اور ندامت نہ ہوتی۔ لیکن وہ مجھ سے پہلے رو پڑی اور اس کی اشک باری نے مجھے بھی رلا دیا۔ بہر حال سبقت تو اسی کو حاصل ہوئی۔“

ڈاکٹر عائض القرنی

کچھ اس کتاب کے بارے میں

یہ کتاب ایک سنجیدہ تحقیقی اور جاذب نظر مطالعہ ہے۔ انسانی زندگی کا المیہ اس کا موضوع ہے، جس میں انسان کو اضطراب و قلق، حیرانی و سرگشتگی، عدم اعتماد و بدشگونی، رنج و فکر، تنگ دلی و مایوسی، ناکامی اور نامرادی جیسی نفسیاتی کیفیات سے سابقہ پڑتا ہے۔

یہ کتاب وحی الہی کے نور، سنت کی رہنمائی اور انسانی فطرت سلیمہ کے بہترین تجربوں، زندہ مثالوں خوشگوار قصوں اور دل فریب ادب کی روشنی میں زمانہ کی مشکلات و مسائل کا حل پیش کرتی ہے۔ اس میں صحابہ کرامؓ کے اقوال، تابعین عظامؓ کے نصائح، بڑے شعراء کے لطیف اشعار، نامور طبیبوں و حکماء کے مشوروں اور سائنس دانوں کی رہنمائی سے بھی فیض اٹھایا گیا ہے۔ سچ سچ میں مشرق و مغرب اور قدیم و جدید کی وہ باصواب تحقیقات بھی پیش کر دی گئی ہیں جو ذرائع ابلاغ، اخبارات و رسائل، خبر ناموں، ضمیموں اور سہ ماہی مجلوں میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب ایک لطیف مجنوں مرکب ہے جسے آزمودہ نسخوں کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ اختصار کے ساتھ قاری کے لئے اس کا پیام یہ ہے کہ

”مطمئن و شاداں رہیں، خوش ہوں امید رکھیں اور غم نہ کریں۔“

انسانی زندگی کو خوشگوار کیسے بنایا جائے اس پر بہت لکھا جا رہا ہے اس کتاب کے ساتھ ہی سینکڑوں رسالے منظر عام پر آچکے ہوں گے تاہم اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہر صاحب عقل سلیم اور اہل دل کے لئے کھلا خط ہے۔ ایک ٹوٹے اور درمند دل سے یہ صدائیں نکلی ہیں جو الفاظ میں ڈھل گئی ہیں۔ یہ تنبیہ کے اس شعر کے مطابق ہوگئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے:

”تم عاشق زار کو ملامت کا حق اس وقت تک نہیں رکھتے جب تک اس کی طرح عشق پیچاں تمہاری بھی رگ رگ میں نہ اتر جائے۔“

بارالہ! اس چھوٹے سے کام اور معمولی سی محنت کو قبول فرما تو عظیم و جلیل ہے تو ہی معبود برحق

ہے۔

عائض بن عبداللہ القرنی

مقدمہ طبع اول

الحمد لله! والصلوة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و بعد:
عزیز قاری! آپ اس کتاب (لائحزن) کو پڑھیں گے اس سے استفادہ کریں گے۔ ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ آپ عقل صحیح منطقی سلیم اور قرآن و سنت کی کسوٹی پر اسے جانچنے پر کھنے سے پہلے ایک بار پورا پڑھ ڈالیں۔ کیونکہ کسی چیز کو چھونے، چکھنے اور سونگھنے سے پہلے اس پر حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ یہ غلط ہوگا کہ مسئلہ سے پوری واقفیت و غور و فکر سے پہلے، دعویٰ کو قبول کر لیا جائے اور دلیل و حجت کو دیکھے بغیر فتویٰ صادر کر دیا جائے۔

یہ کتاب میں نے ان لوگوں کے لئے لکھی ہے جنہوں نے مصائب و آفات کا سامنا کیا ہے، جنہیں کوئی اندیشہ و فکر لاحق ہے، کسی پریشانی نے جن کی نیند اڑا دی ہے، کسی تلخی نے جن کی زندگی کو مگر کر دیا ہے۔ اور ہم میں سے کون ہے جسے ناخوشگوار یاں پیش نہیں آتیں؟

یہاں آپ کے سامنے آئیں گی آیات قرآنی، ابیات شعر، عبرت انگیز قصے، مفید نکتے، مثالیں اور کہانیاں، ٹوٹے دل پریشان و غمگین نفس اور مضطرب روح کے لئے تجربہ کاروں نے اب تک جتنے نسخے لکھے ہیں ان کا جوہر اس میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ تحریر آپ کو خوشی و خوش بختی اور سکون و اطمینان کا پیغام دے گی یہ آپ سے کہے گی کہ زندگی زندہ دلی کے ساتھ ہنس کھیل کر گزارے۔ یہ آپ کو بتائے گی کہ زمان و مکان، سنن حیات، اشیائے کائنات اور لوگوں کے ساتھ تعامل میں فطرت کی مخالفت کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔

یہ کتاب آپ کو صراطِ مستقیم سے انحراف کرنے، زندگی سے ٹکرانے اور فطرت سے متصادم ہونے سے سختی کے ساتھ روکے گی۔ وہ آپ کے دل و روح میں اتر کر آواز دے گی کہ اچھے انجام پر نظر رکھیں اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کریں ان کو مزید بڑھائیں۔ زندگی کے تکرار، آلام حیات اور غم دوران کو بھولنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلہ میں ابتداء ہی میں بعض اہم امور پر دھیان دینے کی ضرورت ہے:

☆ کتاب کا مقصد زندگی کو خوشگوار، سکون و اطمینان، انشراح صدر اور تابناک مستقبل کی امید

غم نہ کریں

سے سرشار کر دینا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اس پر توکل، حسن ظن، قضاء و قدر پر ایمان کی یاد دہانی ہے۔ یہ سبق ہے کہ آج کی فکر کریں مستقبل کے لئے پریشان نہ ہوں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیں۔

☆ وہ زندگی کورنج و محن، غم گیتی، تنگ دلی، حزن و یاس، قنوطیت و مایوسی، قلق و اضطراب، شکست خوردگی اور افسردہ دلی سے نجات دلانے کی کوشش ہے۔

☆ اس میں موضوع سے متعلق قرآنی آیات، احادیث نبویہ، مثالیں، عبرت انگیز قصے، مؤثر شعری ابیات، حکماء، ادباء اور اطباء کے اقوال اور روزمرہ کے تجربوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ سنجیدہ گفتگو ہے، نہ محض وعظ خوانی ہے نہ فکری عیاشی اور نہ سیاسی نظریہ بازی بلکہ انسانی زندگی کو خوشگوار بنانے کی پرزور دعوت ہے۔

☆ یوں تو کتاب مسلم و غیر مسلم سب کے لئے ہے لیکن انسانی احساسات و نفسیات پر گفتگو میں نے دین فطرت اور منج ربانی یعنی اسلام کے نقطہ نظر کو ہی سامنے رکھا ہے۔

☆ کتاب میں مشرق و مغرب کے لوگوں کے اقوال ہیں جو میں نے اس نقطہ نظر کے اعتبار سے اختیار کئے ہیں کہ ”حکمت مومن کی گم شدہ متاع ہے جہاں بھی ملے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے۔“

☆ قاری کی سہولت کی خاطر کتاب میں الگ سے حواشی نہیں دئے گئے ہیں بلکہ جہاں ضرورت محسوس کی متن میں مرجع کا ذکر کر دیا ہے تاکہ قاری کے مطالعہ کا تسلسل ٹوٹنے نہ پائے۔

☆ اسی طرح مراجع کے حوالہ میں جز یا صفحہ نمبر وغیرہ کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ یہی طریقہ مجھے زیادہ آسان اور مفید معلوم ہوا ہے کیونکہ کہیں کہیں تو پوری عبارت لی ہے کہیں تصرف کے ساتھ اور کہیں کتاب یا مقالہ کا مفہوم بیان کیا ہے۔

☆ آیات کے نمبر یا احادیث کی تخریج سے کتاب کی ضخامت بڑھانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اگر حدیث میں کچھ ضعف ہے تو اسے میں نے بیان کر دیا ہے اور اگر صحیح یا حسن ہے تو کبھی بیان کیا اور کبھی سکوت اختیار کیا ہے۔ اس کا مقصد محض اختصار ہے اور یہ کہ قاری کو تکرار سے بچایا

جائے تاکہ وہ اکتانہ جائے۔

☆ قاری کو بعض معانی و مضامین کی تکرار کا بھی احساس ہوگا۔ ایک ہی بات کو مختلف اسالیب اور مختلف و متنوع صورتوں میں بیان کیا گیا ہے ایسا اس لئے کیا گیا ہے کہ بات قاری کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے قرآن میں بھی اس اسلوب کو اختیار کیا گیا ہے۔

یہ چند باتیں تھیں جو قاری کے سامنے رکھنی ضروری سمجھی گئیں۔ اگر ان کو ملحوظ خاطر رکھا گیا تو اُمید ہے کہ کتاب سے پورا فائدہ حاصل ہوگا اور یہ قاری کی معلومات میں اضافہ کرے گی اس کی بصیرت، رائے اور معرفت میں ترقی ہوگی، کتاب کی خوبی و خامی کے بارے میں وہ بہتر طور پر فیصلہ کر سکے گا۔

کتاب کے مخاطب سب ہیں کوئی خاص گروپ، خاص نسل یا خاص شہر کے لوگ ہی مخاطب نہیں بلکہ ہر وہ شخص ہے جو زندگی کو خوشگوااری و خوش بختی کے ساتھ جینا چاہتا ہے۔
بقول شاعر:

”میں نے اس میں موتی اس طرح پرو دیئے ہیں کہ وہ اپنے آپ چمکتے ہیں انہیں سورج چاند کی ضرورت نہیں اس کی آنکھوں میں جادو ہے اور پیشانی ہندی تلوار کی طرح چمکتی ہے۔“
عائض القرنی

یا اللہ

اسی سے سوال کرتے ہیں سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ ہر روز اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ جب سمندر میں ہل چل ہوتی ہے پانی موجیں مارتا ہے تیز ہوا نہیں چلتی ہیں تو کشتی والے اسی سے فریاد کرتے اور یا اللہ! یا اللہ! کہتے ہیں۔ جب مسافر صحراء میں بھٹک جاتا ہے قافلہ راستہ سے ہٹ جاتا ہے اس کی راہ گم ہو جاتی ہے تو وہ پکاراٹھتے ہیں یا اللہ!۔ جب طلب گاروں پر راستے بند ہو جاتے ہیں مانگنے والوں کو نہیں دیا جاتا تو ان کی پکار ہوتی ہے 'یا اللہ!۔ جب تدبیریں ناکام ہو جائیں، اُمیدیں ساتھ چھوڑ جائیں، ذرائع مسدود اور راستے بند ہو جائیں تو لوگ اللہ ہی سے فریاد کرتے ہیں۔

جب زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو جائے اور رنج و الم سے دم گھٹنے لگے تو اللہ کو پکارو۔ بقول عربی شاعر :

”تنگ و تاریک زمانہ اور مصیبتوں کے بادلوں میں، میں نے دعائے نیم شبی میں تیرا نام لیا تو ہر صبح روشن و تابناک ہو گئی۔“

اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں اچھے کلمے، خالص دعاء، سچی پکار، معصومانہ آنسو اور درد انگیز نالے، ضرورت مندی میں دعائے نیم شب میں اس کی طرف ہاتھ اٹھتے ہیں۔ مصیبتوں میں آنکھیں اسی کی طرف دیکھتی ہیں۔ حادثات میں اسی سے فریاد کی جاتی ہے۔

فریاد، پکار اور سوال میں اسی کا نام زبانون پر ہوتا ہے، قلب و روح اسی سے سکون پاتے ہیں۔ احساسات اور اعصاب ٹھنڈے پڑتے ہیں، عقل لوٹ آتی اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ ”اللہ اپنے بندوں سے رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔“

اللہ: کیا پیارا نام ہے کتنے خوبصورت حروف ہیں کتنے قیمتی کلمے اور صحیح ترین تعبیر ہے ”کیا اس کا کوئی اور ہم نام ہے؟ اللہ کہئے فوراً ہی ذہن میں غنا، بقا، قوت و نصرت، عزت و قدرت اور حکمت کا سراپا گھوم جائے گا ”اس دن کس کی بادشاہی ہوگی؟، اللہ واحد و قہار کی“ اللہ کا لفظ نکالنے، لطف و عنایت، مدد و فریاد کی محبت اور احسان کا جلوہ دکھائی دے گا۔ تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی

طرف سے ہے۔ اللہ: جلال و عظمت والا ہیبت و جبروت سے متصف۔ بقول عربی شاعر:

”تیرے جلال و قدوسیت کے بیان کے لئے کتنے ہی الفاظ ڈھالے جائیں۔ الفاظ و معانی کے سارے ذخیرے تیرے جلال کی تعبیر سے قاصر ہیں“

بارالہ! حسرت کو خوشی، غم کو سرور اور خوف کو امن میں بدل دے اے اللہ دل کی آگ کو یقین کی شہنشاہ سے بجھا دے، نفس کے شعلوں کو ایمان کے پانی سے سرد کر دے، یارب! جاگتی آنکھوں کو نیند، مضطرب نفوس کو سکینت عطا کر انہیں جلد ہی کامیابی سے نوازا یارب کریم! بے بصیرتوں کو اپنا نور دے کشتگان راہ ضلالت کو اپنا راستہ دکھا دے۔

بارالہ! وسوسوں کو نورانی شعاعوں سے زائل کر دے۔ باطل پرست نفس کا گلا حق کے لشکر سے گھونٹ دے۔ شیطان کی چالوں اور تدبیروں کو اپنی مدد و نصرت سے تباہ کر دے۔ اے اللہ! ہمارے غم، رنج و فکر اور قلق کو دور فرما دے۔ ہم خوف اور پست ہمتی سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں تجھی سے مانگتے ہیں، تو ہی ہمارا سرپرست ہے تو کیا خوب سرپرست اور مددگار ہے۔

سوچیں اور شکر بجالائیں

مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو آپ کو سر تا قدم نعمت ہی نعمت دکھائی دے گی، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنے لگو تو گن نہ پاؤ گے، جسمانی صحت، وطن میں امن، سکون، کھانا کپڑا، پانی ہوا۔ یعنی پوری دنیا آپ کے پاس ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں، زندگی کے مالک ہیں لیکن اس کا شعور نہیں۔ ”اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر انڈیل دی ہیں“ آپ کے پاس آنکھیں ہیں، زبان ہے، دو ہونٹ ہیں، دو ہاتھ دو پیر ہیں:

”تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔“ (سورۃ الرحمن)

کیا یہ آسان بات ہے کہ آپ اپنے پیروں پر چل پھر رہے ہیں جب کہ کتنے ہی پاؤں کاٹ دیئے گئے؟ آپ پنڈلی کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں جب کہ کتنی ہی پنڈلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں؟ کیا آپ اس کے مستحق ہیں کہ پرسکون نیند سونیں جب کہ آلام زندگی نے کتنوں کی نیند اڑا دی ہے؟ اور پیٹ بھر کر

غم نہ کریں

کھائیں، سیراب ہو کر بیٹیں جب کہ کتنے ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا، بیماریوں نے انہیں کھانے پینے سے روک رکھا ہے؟ کان کے بارے میں سوچیں آپ کی سماعت درست ہے، آنکھ کے بارے میں سوچیں آپ اندھے نہیں، اپنی جلد کو دیکھئے جو برص و جذام سے محفوظ ہے، اپنی عقل کے بارے میں سوچئے کہ آپ عقل والے ہیں آپ پر جنون یا دیوانگی طاری نہیں۔

کیا آپ اُحد پہاڑ جتنا سونا لے کر اپنی آنکھ دے دیں گے کیا آپ شہلان پہاڑ کے برابر چاندی لے کر اپنی سماعت دے دیں گے؟ کیا آپ زبان کے بدلے قصر زہراء لینا اور گونگا ہونا پسند کریں گے؟ کیا آپ یا قوت اور موتی لے کر اپنے ہاتھوں کا سودا کر لیں گے؟ کتنی نعمتیں ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں کتنے انعامات ہیں جن سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں لیکن آپ کو اس کا ادراک نہیں۔ آپ کو گرم روٹی، ٹھنڈا پانی، میٹھی نیند اور عافیت حاصل ہے لیکن پھر بھی پریشان و مغموم ہیں۔ رنجیدہ اور اداس ہیں۔ جو مفقود ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں جو موجود ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ مالی نقصان پہنچ جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں حالانکہ خوش بختی، خیر، صلاحیت، نعمتیں اور اشیاء سبھی کچھ تو آپ کے پاس ہے ان کے سلسلہ میں آپ سوچیں اور خدا کا شکر ادا کریں

”تمہارے نفوس میں بھی تمہارے لئے نشانیاں ہیں تو کیا تم سوچتے نہیں۔“

اپنی جان اپنے گھر والوں، اپنے کام اپنی صحت، اپنے دوستوں اور ارد گرد کی دنیا کے بارے

میں سوچیں۔

”اللہ کی نعمت جانتے ہیں پھر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔“ (۸۳:۱۶)

جو گزر گیا سو گزر گیا

ماضی میں جینا، اس کے غموں اور المیوں کو یاد کرتے رہنا اور ان پر رنج کرنا بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اس سے ارادہ مضحل اور موجودہ زندگی مکدر ہو جائے گی حکماء کہتے ہیں کہ ماضی کی فائل لپیٹ کر رکھ دی جائے اسے کھولا نہ جانا چاہئے بلکہ ہمیشہ کے لئے بھلا دینا چاہئے۔ اسے کسی درجہ میں ڈال کر بند کر دیا جائے۔ کیونکہ جو گزر گیا وہ گزر چکا نہ اس کی یاد اُسے لوٹائے گی نہ کوئی غم یا رنج و فکر اسے زندہ کر سکتی

ہے، کیونکہ ماضی کا مطلب ہے عدم، ماضی پرستی کے مرض میں مبتلا مت رہئے، جو چھوٹ گیا اس کی پرچھائوں سے پیچھا چھڑائیے۔ کیونکہ آپ دریا کو اصل کی طرف، سورج کو مطلع کی طرف بچہ کو ماں کے پیٹ میں، دودھ کو چھاتی میں اور آنسو کو آنکھ میں واپس نہیں لاسکتے۔

ماضی کے سایہ میں رہنا، اسے یاد کرتے رہنا، اس کی آگ میں جلنا، ایک افسوسناک، المناک اور مرعوب کن بات ہے۔ ماضی کی کتاب پڑھنے سے حاضر کی بربادی اور وقت کا زیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گزشتہ اقوام کا اور ان کے کاموں کا تذکرہ کیا ہے اور کہا کہ ”یہ ایک قوم تھی جو گزر چکی“، یعنی ان قوموں کا معاملہ ختم ہوا۔ ماضی کے گڑے مردے اکھاڑنے اور تاریخ کے پیسے کو پلٹانے سے کیا حاصل۔ ماضی کی بات دہرانے والا تو ایسا ہے کہ کوئی پے ہوئے آٹے کو پھر پیسے یا کٹی لکڑی کو پھر سے کاٹے، ماضی کا رونارونے والوں کے بارے میں پچھلوں کا کہنا ہے کہ ”تم مردوں کو قبروں سے نہ نکالو“

ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم حال سے عاجز اور ماضی سے چمٹے ہوئے ہیں اپنے خوبصورت محلات کو یونہی چھوڑ کر ماضی کے بوسیدہ قلعوں کو روتے رہتے ہیں حالانکہ ماضی کو واپس لانے پر توجہ و انس جمع ہو کر بھی قادر نہیں ہو سکتے۔ لوگ پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے، ہوا آگے کو چلتی ہے، پانی آگے کو بہتا ہے، کاررواں آگے چلتا ہے یہ سنتِ حیات ہے آپ اس کی مخالفت نہ کریں۔

آج پر نظر رکھیں

صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کریں۔ بس آج اور ابھی پر نظر رکھیں نہ کل پر جو اچھا برا گزر چکا اور نہ آئندہ پر جو ابھی آیا ہی نہیں۔ آپ کی عمر تو بس ایک دن ہے اسی دن کا سورج آپ کو ملا ہے۔ اس لئے دل میں سوچئے کہ بس آج ہی تو جینا ہے گویا آج ہی آپ پیدا ہوئے۔ آج ہی مرجائیں گے۔ اس صورت میں آپ کی زندگی ماضی کے سایوں اور تفکرات اور مستقبل کی اُمیدوں اور توقعات کے بیچ لٹکی نہ رہے گی۔ آپ اپنی پوری توجہ، ساری صلاحیت، خلافت و ذہانت صرف آج پر لگا دیں۔ آج کی آپ کی نماز خشوع و خضوع والی ہو۔ تلاوت کریں تو تدریک کے ساتھ کریں۔ جانکاری حاصل کریں تو تامل کے

غم نہ کریں

ساتھ۔ ذکر کریں تو جی لگا کر، معاملات تو ازن کے ساتھ پٹائیں۔ اپنے اس دن کے اوقات تقسیم کر لیں اس کی منٹوں کو سال سمجھیں اس کی سکندوں کو مہینوں کے مانند خیال کریں۔ خیر کے بیج بوئیں احسان کریں، گناہوں سے توبہ کریں، خدا کو یاد کریں، اور سامان سفر تیار کرتے رہیں، اس طور پر آپ کا دن فرحاں و شاداں گزرے گا اس میں امن چین ہوگا۔ آپ اپنی روزی روزگار، اپنی بیوی بچوں، گھر، علم اور معیار زندگی سے خوش رہیں گے

”جو میں نے تجھے دیا سے لے اور شکر بجالانے والوں میں سے ہو جا“ (۷: ۱۴۴)

آپ کا یہ دن رنج و غم، گھبراہٹ وڑکھڑاہٹ اور کینہ کپٹ و بغض و حسد سے خالی گزرے۔ اپنے دل کی سختی پر ایک ہی عبارت لکھ لیں ”آج آج“ آج آپ کو اچھی گرم اور لذیذ روٹی مل گئی ہے تو کل کی سرد اور روکھی سوکھی روٹی یا آئندہ کی روٹی سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ جب آج آپ ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی لیں تو کیوں غم کریں کل کے نمکین کھاری پانی پر یا آئندہ کے گرم سڑے پانی پر۔ اگر عزم مصمم اور فولادی ارادے کے مالک ہوں تو اپنے آپ کو اس نظریہ کا عادی بنا دیں کہ ”میں بس آج ہی زندہ رہوں گا۔“ تب آپ دن کا لمحہ لمحہ اپنے آپ کو بنانے سنوارنے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور کام آگے بڑھانے کے لئے استعمال کریں گے۔ اس وقت آپ کہیں گے۔ آج کے لئے میں اپنی زبان کی تہذیب کروں گا کوئی فحش بات، گالی یا غیبت نہ کروں گا، آج کے لئے اپنا گھر، آفس مرتب کروں گا، نہ کوئی بے ترتیبی نہ بد نظمی، بلکہ نظام و ترتیب ہوگا۔ آج کے لئے میں اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کروں گا۔ ظاہر کی تحسین اور وضع قطع پر توجہ دوں گا۔ اپنی چال، حرکات اور بات چیت میں توازن پیدا کروں گا آج اپنے رب کی اطاعت کروں گا، نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، کتابیں دیکھوں گا، مطالعہ کروں گا، چونکہ صرف آج ہی جینا ہے اس لئے اپنے دل میں فضائل کا پودا لگاؤں گا شر، مکروہ، حسد، غرور، بدظنی اور برائیوں کی تمام جڑیں کاٹ پھینکوں گا۔ فقط آج ہی زندگی گزاروں گا اس لئے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا ان کے ساتھ احسان و سلوک کروں گا۔ مریض کی عیادت کروں گا، جنازہ کے ساتھ چلوں گا، گم کردہ راہ کی رہنمائی کروں گا، بھوکے کو کھلاؤں گا، مصیبت زدہ کی تکلیف دور کروں گا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا کمزور کے لئے سفارش کروں گا غمزدہ کی غم

گساری کروں گا۔ عالم کا اکرام کروں گا، کمزور پر رحم کروں گا، بڑوں کی عزت کروں گا۔
 آج ہی مجھے رہنا ہے، اس لئے اے ماضی! جا اپنے سورج کی طرح ڈوب جا، میں ہرگز تجھ پر نہ
 روؤں گا میں تجھے پل بھر کے لئے بھی یاد نہ کروں گا کیونکہ تو جا چکا ہم سے دور ہو گیا اور اب کبھی واپس نہ
 آئے گا۔ اور اے مستقبل تو ابھی عالم غیب میں ہے، میں خواب و خیال کا اپنے کو عادی نہ بناؤں گا جو چیز
 ابھی پیدا نہیں ہوئی اس کے پیچھے کیوں پڑوں کیونکہ کل تو کوئی چیز ہی نہیں اس کا ابھی وجود ہی نہیں، اے
 انسان! آج کا دن ہی خوش بختی کی لغت میں سب سے اچھا کلمہ ہے۔ اس کا خیال کرنے والا ہی زندگی کی
 رعنائیوں اور شادمانیوں سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔

مستقبل کو آنے دیجئے

”اللہ کا حکم ہو کر رہے گا اس کی جلدی نہ مچاؤ“ (۱:۱۶)

مستقبل کے بارے میں اندازے نہ لگائیں، وضع حمل اپنے وقت پر ہی ہوگا جلدی کیوں
 چاہتے ہیں، پھل کو پکنے سے پہلے کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ کل ایک مفقود شئی ہے جس کا ابھی نہ وجود ہے نہ
 کوئی مزائیدہ رنگ تو ہم اس کے مصائب، آرزوؤں و توقعات، امکانی حوادث و واقعات کے بارے میں
 سوچ سوچ کر اپنے کو ہلکان کیوں کریں جب کہ ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ آئے گا بھی یا نہیں اور خوش
 کن ہوگا یا نہیں؟ ہم یہ ہے کہ وہ ابھی عالم غیب میں ہے عالم وجود میں نہیں آیا تو ہم پہلے ہی سے اس کو
 پانے کی کوشش کیوں کریں جب کہ ممکن ہے کہ ہم اس تک پہنچیں یا نہ پہنچیں۔ مستقبل کے بارے میں
 ذہنی لڑائی لڑنا غیب کی کتاب کھول کر اس میں متوقع پریشانیوں پر کراہنا شرعاً اس لئے ناپسندیدہ ہے کہ وہ
 خواہشات کا لامتناہی سلسلہ ہے اور عقلاً اس لئے مذموم ہے کہ وہ سایہ سے کشتی لڑنا ہے۔ بہت سے لوگ
 دنیا کے مستقبل کو تاریک، بھوک، پیاس، بیماریوں اور مصیبتوں سے بھرا سمجھتے ہیں۔ یہ سب شیطانی دوسو سے
 ہیں:

”شیطان تمہیں فقر کا خوف دلاتا اور برائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا

ہے۔“ (۲۶۸:۲)

غم نہ کریں

کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ کر دوتے ہیں کہ کل وہ بھوکے رہیں گے ایک سال بعد بیمار ہو جائیں گے اور ۱۰۰ سال بعد دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ جب عمر دوسرے کے اختیار میں ہے تو پھر وہ انہونی کے بارے میں کیوں سوچے جبکہ نہیں معلوم کہ کب مرے گا غیر موجود چیز کے سلسلہ میں مضطرب کیوں رہے؟ کل کو آنے دیجئے اس کی خبروں اور یلغاروں کے سلسلہ میں پوچھ تاچھ مت کیجئے۔ آپ کو آج سے فرصت کہاں ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ لوگ کل کے تفکرات کو نقد لے رہے ہیں کس دن اسے ادا کریں گے؟ اس دن جس کا سورج بھی ابھی نہیں نکلا؟ لہذا لمبی اُمیدوں سے دور رہیں۔

بے جا تنقید کا سامنا کیسے کریں

کچھ بے وقوف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی برا بھلا کہہ دیتے ہیں جو خالق و مالک اور پالنہار ہے، جو سب کو روزی دیتا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ہم اور آپ، جو خطا کار ہیں غلطیاں کرتے رہتے ہیں، کی کیا حیثیت۔ ہمیں تو لوگوں کی بے جا برائی اور تنقید کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ہمیں برباد کرنے کے منصوبے بنیں گے، جان بوجھ کر اہانت کی جائے گی۔ جب تک آپ دے رہے ہیں، بنا رہے ہیں، مؤثر ہیں، ترقی کر رہے ہیں تب تک لوگ آپ پر تنقید سے نہ چوکیں گے سوائے اس کے کہ آپ زمین میں سما جائیں یا آسمان پر چڑھ جائیں اور ان کی نظروں سے دور ہو جائیں۔ جب تک آپ ان کے بیچ ہیں آپ کو اذیت پہنچتی رہے گی، آنسو نکلیں گے، نینداڑے گی۔ جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں گرتا:

گرتے ہیں شہہ سوار ہی میدان جنگ میں

لوگ آپ پر اسی لئے تو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ علم، صلاحیت، اخلاق یا مال میں ان سے بڑھ گئے ہیں وہ آپ کو معاف کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی صلاحیتیں ختم نہ ہو جائیں اور اللہ کی نعمتیں آپ سے چھین نہ جائیں، آپ ساری اچھائیوں اور خوبیوں سے تہی دامن نہ ہو جائیں۔ پلید و کند ذہن، بے کار اور صفر ہو کر نہ رہ جائیں۔ یہی وہ چاہتے ہیں، لہذا آپ کو ان کی بے جا تنقید ناروا باتوں اور تحقیر کو برداشت کرنا ہوگا۔ 'احد پہاڑ' کی طرح جم جائیے، ایسی چٹان بن جائیے جس پر اولے پڑتے ہیں اور

ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، چٹان اپنی جگہ جمی رہتی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کی تنقیدوں کو اہمیت دے دی تو آپ کی زندگی کو مکدر کر دینے کی ان کی منہ مانگی مراد پوری ہو جائے گی لہذا بہتر طور پر درگزر کیجئے ان سے اعراض کیجئے اور ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ ان کی فضول برائی سے آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ پھر جتنا بھی آپ کا وزن ہوگا اتنا ہی ہنگامہ اور شور و شغب آپ کے خلاف ہوگا۔ آپ کس کس کے مونہہ کو بند کریں گے لیکن اگر ان سے صرف نظر کریں گے، ان کے حال پر چھوڑ دیں گے تو آپ ان کی تنقیدوں سے بچ سکتے ہیں۔

”آپ کہہ دیں اپنے غیظ و غضب میں مرجاؤ“ (۱۱۹:۳)

یہی نہیں بلکہ آپ اپنے فضائل و محاسن میں اور اضافہ کر کے اپنی خامیوں کو دُور کر کے ان کی زبانوں میں تالا ڈال سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ یہ چاہیں گے کہ دنیا کے نزدیک تمام عیوب سے بری ہو جائیں اور سبھی لوگوں میں مقبول ہو جائیں تو یہ ناممکن کی آرزو ہے لہذا دور کی امید۔

کسی کے شکریہ کا انتظار نہ کریں

اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا۔ انہیں روزی دی کہ اس کا شکر ادا کریں لیکن اکثر نے عبادت کی تو غیر اللہ کی، شکر کیا تو غیر اللہ کا۔ مطلب یہ ہے کہ انکار، زیادتی، جفا اور کفرانِ نعمت انسانی فطرت پر غالب ہے۔ لہذا آپ کو بالکل حیرانی نہ ہو اگر لوگ آپ کے احسان کو فراموش کر دیں، بھلائی کا انکار کر دیں، حسن سلوک کو بھول جائیں بلکہ آپ سے دشمنی شروع کر دیں اور احسان کے بدلے بغض و حسد رکھیں۔

”وہ ناراض نہ ہوئے مگر اس بات پر کہ اللہ و رسول نے اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دیا تھا“
دنیا کا کھلا دفتر سامنے ہے اسے پڑھئے وہ تمام کا تمام اس باپ کا قصہ ہے جس نے بیٹے کو پالا پوسا، کھلایا پلایا، تعلیم و تربیت دی، اسے سلانے کے لئے خود جاگا، اسے کھلانے کے لئے خود بھوکا رہا اس کے آرام کے لئے خود تھکا مگر جب یہ بیٹا جوان ہو گیا، تو انا ہوا تو باپ کے لئے کٹ کھنا سستا ثابت ہوا۔ استہزاء، نفرت، نافرمانی کسی چیز میں بھی تو کسر نہیں چھوڑی، عذاب بن کر رہ گیا۔ لہذا وہ لوگ جن کے

غم نہ کریں

احسانات کم ظرفوں نے بھلا دیئے ہوں وہ مضطرب نہ ہوں انہیں مژدہ ہے کہ ایسی ہستی کے انعام کے مستحق بنیں گے جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔

ہمارا مطلب یہ نہیں کہ احسان و سلوک کرنا چھوڑ دیں بلکہ یہ ہے کہ آپ ”نیکی کر دریا میں ڈال“ کے عادی ہو جائیں، کفران نعمت پر رنجیدہ و مایوس نہ ہوں، بھلائی کے کام کریں لَوْجِه اللہ ایسا کریں گے تو ہر حال میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کو کسی کی ناشکری سے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ آپ احسان کرنے والے ہوں گے۔ آپ کا ہاتھ اونچا ہوگا جو نیچلے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔

”ہم تمہیں اللہ کے لئے کھلاتے ہیں تم سے کسی بدلے اور شکریہ کی تمنا ہمیں نہیں۔“ (۹:۷۶)

عام لوگوں میں انکار و ناشکری کی جبلت کو بہت سے باشعور بھی بھول جاتے ہیں گویا انہوں نے ناشکروں کے سلسلہ میں وحی الہی کی یہ بات نہ سنی:

”اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی بیٹھے بھی کھڑے بھی پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لئے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا، ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لئے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے“ (۱۲:۱۰)

آپ مضطرب نہ ہوں اگر کسی کم ظرف کو قلم دے دیں جو اس سے آپ ہی کی جھو لکھنے لگے یا اگر کسی جاہل کو ڈنڈا اٹھا دیا جس سے اُس نے آپ ہی کا سر پھوڑ دیا، آدمی کی نفسیات یہی ہے۔ جب یہی سلوک ان کا خدا کے ساتھ ہے تو پھر ہاوشما کی کیا بات؟

دوسروں پر احسان سے انشراح صدر ہوتا ہے

خیر بھلائی اور معروف کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے، لوگوں پر احسان کرنے والا سب سے پہلے خود اس احسان سے مستفید ہوتا ہے، اس کے دل اخلاق اور ضمیر کو سکون و طمانیت، انشراح اور انبساط محسوس ہوتا ہے۔ لہذا جب کوئی رنج و غم کی بات پیش آئے تو دوسروں کے ساتھ کوئی نیکی کر دیں، کوئی احسان کر دیں، آپ کو سکون و اطمینان حاصل ہوگا۔ کسی محروم کو دیں، کسی مظلوم کی مدد کریں، کسی کو مصیبت سے نکال

دیں، کسی بھوکے کو کھلا دیں، کسی مریض کی عیادت کریں، خوشی و خوش بختی آپ پر چھا جائے گی، خیر کا کام ایک خوشبو کی مانند ہے، اس کا لانے والا بیچنے والا اور خریدار سب اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ نفسیاتی بھلائیاں وہ بابرکت جڑی بوٹیاں ہیں جو نیکیوں کے دواخانہ میں استعمال کی جاتی ہیں۔ حسن اخلاق کے بھوکوں پر مسکراہٹیں لٹانا دنیائے اخلاقیات میں صدقہ جاریہ شمار ہوتا ہے کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے، چہرہ کی اداسی و تاریکی دوسروں کے خلاف اعلان جنگ ہے جس کے نتائج کا علم علام الغیوب ہی کو ہے۔ ایک طوائف نے پیاس سے مر رہے کتے کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا اور جنت کی مستحق بن گئی کیونکہ مالک دو جہاں غفور رحیم بھی ہے وہ محسن بھی ہے احسان سے محبت رکھتا ہے، غنی و حمید ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو جنہیں بد بختی، بے چینی اور خوف نے جکڑ رکھا ہو نیکی اور بھلائی کے باغ کی طرف آنا چاہئے۔ دوسروں کی مدد، نمکساری، اعانت اور خدمت کرنی چاہئے انہیں خوش بختی پورے طور پر مل جائے گی۔ ”وہ کسی کے ساتھ جو بھی احسان کرتا ہے اپنے رب کی خوشنودی کے لئے ہی کرتا ہے جو یقیناً اس سے خوش ہوگا۔“

خالی نہ بیٹھیں

دنیا میں خالی بیٹھنے والے وہ ہوتے ہیں جو افواہ باز ہوں، کیونکہ ان کے ذہن و دماغ بٹے

ہوتے ہیں

”وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوں“ (۸۷:۹)

آدمی کا بے کار بیٹھنا نہایت خطرناک ہے۔ اس کا ذہن شیطان کا مسکن بن جائے گا۔ وہ شتر بے مہار کی مانند ادھر ادھر بھٹکے گا۔ جب آپ کام سے خالی بیٹھے تو غم و فکر اور الجھنیں آ کر رہیں گی ماضی، حال اور مستقبل کی فائلیں کھل جائیں گی اور آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میری آپ سب کو یہ نصیحت ہے کہ بے کاری کے بجائے کچھ اچھے کام شروع کر دیں، بے کار رہنا اپنے کو زندہ درگور کرنا ہے، سکون کا کپسول لے کر خودکشی کرنا ہے۔ بے کاری کی مثال تو اس سلوٹار چرکی ہے جو چین کے قید خانوں میں ہوتا تھا کہ قیدی کو اس نالی کے نیچے کر دیتے جس سے ہر منٹ پر ایک قطرہ گرتا ہے۔ ان قطروں کے

غم نہ کریں

انتظار میں قیدی یا گل ہو جاتا ہے۔ آرام طلبی غفلت کا نام ہے، فرصت ایک پیشہ ور چور ہے، اس حالت میں آپ کی عقل موہوم جنگوں کی شکار ہو جائے گی۔ لہذا جب خالی ہوں تو نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، تلاوت کریں، مطالعہ کریں، لکھیں یا تیراکی کریں یا آفس کو درست کریں، گھر کی صفائی کریں، دوسروں کا کوئی کام کر دیں۔ کام کے چاقو سے فرصت کو کاٹ دیں دنیا کے طبیب و ڈاکٹر اس کے بدلے ۵۰ فیصد خوشی کی گارنٹی دیتے ہیں، کسانوں، مزدوروں اور کامگاروں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح چڑیوں کی طرح مستی سے گاتے اور خوش رہتے ہیں جب کہ آپ بستر پر پڑے آنسو پونچھتے رہتے ہیں کیونکہ بے کاری نے آپ کو ڈس لیا ہے۔

نقال نہ بنیں

دوسروں کی نقل نہ کیجئے، اپنی شخصیت کو گم نہ کیجئے، بہترے لوگ مستقل عذاب کا شکار رہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی حرکات و سکنات، آواز اور کلام ہر چیز میں دوسروں کی ایسی نقل کریں کہ انہیں جیسے ہو کر رہ جائیں ان کی اپنی شناخت ختم ہو جائے، تکلف، تکبر، جلن وغیرہ ان کے روگ ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ شکل و صورت میں دو آدمی برابر نہیں ہوتے تب وہ اپنے اخلاق اور صلاحیتوں میں کیسے یکساں ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی جگہ بالکل الگ چیز ہیں۔ تاریخ میں آپ کا کوئی مثل نہیں، نہ دنیا میں آپ کا کوئی ہم شکل، آپ زید، عمر وغیرہ سے بالکل الگ ہیں لہذا دوسروں کی تقلید و نقل کی کوشش کیوں کریں۔ اپنی ہیبت اور کردار کے مطابق چلئے۔ ”ہر آدمی اپنے مشرب کو جانتا ہے“ ”ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔“ تب جیسے آپ ہیں ویسے ہی رہیں آپ کو اپنی آواز، لہجہ اور چال ڈھال میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ وحی کی روشنی میں چلیں تاہم اپنے وجود کی نفی نہ کریں۔ آپ کا اپنا مزہ اور اپنا رنگ ہے، ہم آپ کو اسی رنگ ڈھنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے لئے فطری ہے، اسی پر ہم آپ کو جانتے ہیں لہذا آپ نقال نہ بنیں۔“ انسانوں کی طبائع عالم نباتات جیسی ہیں کھٹے بھی ہیں، بیٹھے بھی، لمبے بھی، پست قد بھی، ایسے ہی انہیں رہنا بھی چاہئے تو جو کیلا ہے وہ ناشپاتی کیوں بنے اس کا جمال اور قیمت تو کیلے پن میں

ہے۔ ہماری زبانوں، رنگوں، صلاحیتوں اور طاقتوں کا اختلاف تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے ہمیں اس کی نشانیوں کا انکار نہ کرنا چاہئے۔

قضاء و قدر کو مانے بغیر چارہ نہیں

”تمہیں زمین میں یا تمہارے نفسوں میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی ایک ریکارڈ میں درج کر لی گئی ہے۔“ قلم سوکھ چکا، صحیفے اٹھائے گئے معاملہ طے پا گیا تقدیر لکھی جا چکی ”وہی ہمیں پہنچتا ہے جو ہمارے لئے لکھا جا چکا“ اور جو ہمارے ساتھ ہوا وہ نلنے والا نہ تھا، جس سے ہم بچ گئے وہ ہمیں لاحق ہونے والا نہ تھا۔ جب یہ عقیدہ آپ کے دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے تو تکلیف عطیہ اور مصیبت انعام بن جائے۔ جو گزرے اسے آپ اچھا سمجھیں ”اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اسے اس میں حصہ ملتا ہے اب جو بھی آپ کو تکلیف پہنچے، بیماری لاحق ہو، کوئی عزیز مر جائے، مالی نقصان ہو جائے، گھر جل جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے یہی مقدر میں لکھا تھا:

لکھا کب مٹے کلک تقدیر کا

اس میں سارا اختیار صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں صبر کرنے پر اجر ملے گا۔ اس کا انکار کفر ہے، لہذا جو مصائب کا شکار ہیں وہ خوش ہو جائیں کہ سب کچھ خدائے برتر کے حکم سے ہو رہا ہے جو دیتا بھی ہے لیتا بھی، عطا بھی کرتا ہے، چھینتا بھی ہے ”اس سے اس کے کاموں کا حساب نہیں لیا جاسکتا دوسروں سے لیا جائے گا“ قضاء و قدر پر جب تک ایمان نہ ہوگا آپ کے اعصاب کو سکون نہ ملے گا۔ نفسیاتی الجھن نہ جائے گی دل کے دوسو سے دور نہ ہوں گے۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا لہذا حسرت و ندامت سے کیا فائدہ؟ یہ مت سوچئے کہ گرتی دیوار کو آپ بچالیں گے، پانی کو بہنے سے روک دیں گے، ہوا کو چلنے سے منع کر دیں گے، شیشہ کو ٹوٹنے سے بچالیں گے، یہ نہیں ہو سکتا آپ کو اور مجھے اچھا لگے یا برا، جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، فیصلہ الہی نافذ ہوگا۔ ”جو چاہے مان لے جو چاہے نہ مانے“ ناراضگی، افسردگی اور چیخ و پکار کی بجائے قضائے الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیجئے تب آپ کو ندامت نہ ہوگی۔ آپ نے اگر اسباب سے کام لیا ہوگا، تدبیریں اپنائی ہوں گی، پھر بھی وہ ہو جائے جس کا اندیشہ تھا تو

کہنے کہ یہی مقدر تھا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ نہ کہیں کہ کاش میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا۔

عسر کے ساتھ یسر ہے

اے انسان! بھوک کے بعد شکم سیری، پیاس کے بعد سیرابی، جاگنے کے بعد نیند، مرض کے بعد صحت ہے۔ گم کردہ منزل پائے گا، مشقت اٹھانے والا آسانی حاصل کر لے گا۔ اندھیرے چھٹ جائیں گے، قریب ہے کہ اللہ اپنی فتح یا اور کسی بات کو لے آئے، رات کو بشارت و صبح صادق کی جو اس کو پہاڑوں کی طرف دھکیل دے گی وادیوں کی جانب بھگا دے گی، غمزدہ کو بشارت دوروشنی کی طرح تیزی سے آنے والی آسانی کی، مصیبت زدہ کو مژدہ سنا دو مخفی لطف و کرم اور مہربان ہاتھوں کا، جب آپ دیکھیں کہ صحرا دراز سے دراز تر ہوتا جاتا ہے تو جان لیں کہ اس کے بعد سرسبز و شاداب نخلستان ہے۔ رسی لمبی یہ لمبی ہوتی جاتی ہے تو یاد رکھئے کہ جلد ہی وہ ٹوٹ جائے گی۔

آنسو کے ساتھ مسکراہٹ ہے، خوف کے بعد امن، گھبراہٹ کے بعد سکون، آگ نے ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں جلایا کیونکہ حکم ربانی سے وہ ”ابراہیم کے لئے ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی“ سمندر نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو نہیں ڈبوایا کیونکہ انہوں نے بلند اور سچی آواز میں کہا کہ ”نہیں! میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے راستہ دکھائے گا۔“ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار کو ڈھارس بندھائی کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ لہذا امن و سکینت اور نصرت حاصل ہوئی۔ موجودہ برے حالات کے شکار، مایوس کن صورت حال کے گرفتار صرف تنگی، عبرت اور بدبختی ہی کا احساس کرتے ہیں ان کی نظر کمرہ کی دیوار اور دروازے تک ہوتی ہے، اس کے آگے ان کی رسائی نہیں۔ کاش وہ پردہ کے پیچھے بھی دیکھتے ان کی فکر و رائے پس دیوار تک پہنچ پاتی۔ لہذا تنگ دل نہ ہوں ہمیشہ یکساں حالت نہیں رہے گی، بہترین عبادت اللہ کی رحمت اور آسانی کا انتظار ہے، زمانہ الفتا پلٹتا ہے، گردش دوراں جاری رہتی ہے۔ غیب مستور ہے، اور مدبر عالم کی ہر روز نئی شان ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی معاملہ پیدا کرے گا عسر کے ساتھ یسر ہے تنگی کے بعد آسانی ہے۔

لیمون سے میٹھا شربت بنائیے

ذہین و ہوشیار نقصان کو فائدہ میں بدل لیتا ہے جب کہ جاہل غبی ایک مصیبت کو دو آفتیں بنا دیتا ہے۔ رسول اکرم مکہ سے نکالے گئے تو آپ نے مدینہ میں مملکت قائم فرمادی کہ جس نے آج تک تاریخ کو انگشت بدنداں کر رکھا ہے۔ احمد بن حنبلؒ کو جیل میں ڈالا گیا، کوڑے لگائے گئے تو وہ اہل سنت کے امام بن گئے، ابن تیمیہؒ گرفتار کئے گئے جیل سے جب چھوٹے تو ان کے ساتھ زبردست علم تھا۔ سرحسی کو اندھے کنویں میں بند کر دیا گیا تو دو جلدوں میں فقہ کی کتاب لکھ دی۔ ابن الاثیرؒ کو گھر میں بیٹھا دیا گیا تو انہوں نے جامع الاصول اور النہایہ لکھیں جو علم حدیث کی بہترین و مفید ترین کتابیں ہیں۔ ابن الجوزیؒ کو بغداد سے نکال دیا گیا انہوں نے قرأت سبعہ کی تجوید تیار کر دی۔ مالک ابن الریب کو بخار چڑھا، جو ان کا مرض الموت ثابت ہوا تو اس نے وہ زبردست قصیدہ لکھا جو عباسی شعراء کے پورے پورے دیوانوں کی برابری کرتا ہے۔ ابو ذیب الہذلی کے بیٹے مرگے تو اس نے ان کا وہ شاہ کار مرثیہ کہا کہ ایک زمانہ مہبوت ہو کر سنتا رہ گیا، لوگ حیران رہ گئے، تاریخ نے داد دی۔ لہذا کوئی آفت آئے تو اس کا روشن پہلو دیکھئے۔ کوئی آپ کو لیموں کی پیالی دے تو اس میں تھوڑی سی شکر ڈال کر شربت بنا لیجئے، کوئی آپ کو مردہ سانپ دے اس کی قیمتی کھال لے کر بقیہ کو پھینک دیجئے۔ بچھو جسے کاٹ کھاتا ہے اس پر سانپ کا زہر اثر نہیں کرتا۔ کیسے بھی سخت حالات ہوں اپنے کو ان کے مطابق ڈھالنے کہ آپ کو پھول ہی پھول حاصل ہوں۔

”بہت ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور وہ تمہارے لئے اچھی ہو“ (۲۱۶:۲)

فرانس کے مشہور انقلاب سے پہلے ملک کے دو بہترین شاعروں کو قید کر دیا گیا ان میں ایک نیک شگون دیکھتا تھا، دوسرا منفی رخ۔ ایک دن دونوں نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا۔ مثبت رخ والا ستارے دیکھ کر ہنس پڑا۔ منفی نقطہ نظر کے حامل نے پاس کی سڑک پر گردوغبار اڑتے دیکھا اُسے رونا آ گیا۔ زندگی کے دو نقطہ نظروں میں اتنا بڑا فرق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں محض شر ہی شرنہیں ہوتا اس لئے ہر مصیبت میں خیر کا پہلو بھی ڈھونڈئے۔

پریشان حال کی پکار کون سنتا ہے

کون ہے جسے پریشان حال پکارے اور مصیبت زدہ فریاد کرے۔ کائنات اس کی طرف جھکے، ساری مخلوق جس سے مانگے، زبانوں پر اس کا ذکر ہودلوں میں وہ گھر کرے؟ وہ اللہ اور صرف اللہ ہے۔ ہم پر آپ سب پر یہ فرض ہے کہ آسانی و ترشی سختی اور تنگی میں اسے پکاریں، اسی کے سامنے گڑگڑائیں اس کا وسیلہ چاہیں، اس کی چوکھٹ پر سر جھکائیں، روئیں مانگیں اس کے ہو جائیں، اس وقت اس کی مدد آئے گی، نصرت کے دروازے کھلیں گے

”اس کے علاوہ کون ہے جو مصیبت زدہ کی پکار سنے“ (۶۲:۲۷)

ڈوبتے کو بچائے، غائب کو لوٹائے، ہتلا کو نجات دے، مظلوم کی مدد کرے، گمراہ کو ہدایت دے، مریض کو شفا دے، مظلوم کو آسانی فراہم کرے۔

”جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اطاعت کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے۔“ (۶۵:۲۹)

یہاں میں وہ دعائیں تو نہیں دہراؤں گا جن میں حزن و ملال، اور غم و فکر کو دور کرنے کی دعا کی گئی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں وہ آپ کو ملیں گی۔ آپ خدا سے بات کریں، اس سے سرگوشی کریں اس سے دعا کریں، اسے پکاریں اس سے امید کریں۔ اسے آپ پا جائیں تو ہر چیز کو پا جائیں گے۔ اس پر ایمان میں کمزوری آئے تو سمجھو کہ ہر چیز کھو گئی۔ رب سے دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے اور وہ عظیم اطاعت ہے جو مشکل سے حاصل ہوتی ہے، جو بندہ اچھی دعا کر سکتا ہے وہ نہ غمگین ہوگا نہ پریشان کیونکہ خدا کی رشتی کے علاوہ سب رسیاں ٹوٹ جائیں گی، اس کے دروازے کے علاوہ تمام دروازے بند ہیں، وہ قریب ہے، سنتا اور دیکھتا ہے اور جب مصیبت زدہ اسے پکارتا ہے تو وہ سنتا ہے۔ جو مالک و احد قوی اور غنی ہے۔ جو لوگ محتاج کمزور اور ناتواں ہیں، حکم ہے کہ وہ اس سے دعا کریں: ”مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا“ (۶۰:۳۰)

میرے پیارے! جب تمہیں کوئی آفت پیش آئے۔ مصیبتوں سے سامنا ہو تو اس کا نام لو، اسے

یاد کرو اس سے مدد و نصرت مانگو اس کی تقدیر کے لئے پیشانی زمین پر رکھو ناک رگڑو تاکہ تمہیں حریت حقیقی یعنی اس کی عبودیت حاصل ہو جائے۔ ہاتھ بڑھاؤ، ہتھیلیاں پھیلاؤ، زبان کھولو اور خوب خوب مانگو اس کے در سے چمٹ جاؤ اس کے لطف و کرم کے طالب بن جاؤ اس کے نام کا ورد کرو، اس سے حسن ظن رکھو اس کے لئے یکسو ہو جاؤ، سب سے کٹ کر اس سے جڑو، تاکہ کامیاب و کامران ہو جاؤ۔

گھر میں رہا کریں

یہ مشروع اور مسنون ہے کہ اہل شر، بے کار فضول آوارہ اور ناکارہ لوگوں سے دور رہ کر آپ گھر میں گوشہ نشین رہیں۔ اس صورت میں آپ کو قلبی اطمینان اور روحانی سکون ملے گا آپ کا ذہن تیز کام کرے گا آپ کی معلومات بڑھیں گی۔

خیر و طاعت کے کاموں سے روکنے والی مشغولیات سے دور رہنا ایک ایسی دوا ہے جس کو اہل دل نے استعمال کیا ہے اور کامیابی حاصل کی ہے۔ یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ برائی، لغویات اور گنواروں سے الگ رہیں تو عقل بڑھے گی عزت کی حفاظت ہوگی، خدا سے لو لگانے کا موقع ملے گا۔ وہ جگہ ہیں جہاں جمع ہونا اور لوگوں سے بات چیت اچھی سمجھی جاتی ہے وہ نمازیں، جماعت و جمعہ، علم کی مجلسیں اور خیر پر تعاون کے مواقع ہیں۔ کاہلی اور بے کاری کی جگہوں سے دور رہیں۔ اپنی کھال بچائیے۔ اپنی خطا پر رویے، اپنی زبان پر قابو رکھیں اور گھر میں بیٹھیں۔ بے کار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنے خلاف جنگ کرنا ہے، اپنے اندر کے اسن و امان کو تباہ کرنا ہے، کیونکہ یہ گنوار افواہ باز ہوتے ہیں، فضولیات پھیلاتے ہیں۔ فتنوں اور حادثات میں نمک مرچ لگا کر پھیلاتے ہیں اور ایسا آپ کو ڈرا دیں گے کہ آپ موت سے پہلے دس مرتبہ مرجائیں ”اگر یہ تمہارے درمیان نکل آئیں تو تمہیں بہکانے میں کوئی کمی نہ کریں۔“

مجھے پوری امید ہے کہ آپ کمرہ میں بیٹھیں گے اپنے کام سے کام رکھیں گے۔ ہاں اگر بھلی بات یا خیر کا کام ہو تو اس میں شریک ہوں، ایسا کریں گے تو دل پر سکون رہے گا، وقت ضائع ہونے سے بچے گا، عمر برباد نہ ہوگی، زبان غیبت سے بچے گی، کان بری بات نہ سنیں گے، نفس میں سوء ظن پیدا نہ ہوگا جو اس کا تجربہ کرے گا جان لے گا۔ جو اوہام کی سواری پر بیٹھے، گنواروں میں وقت گزارے اسے دور

سے ہی سلام!

بدلہ صرف اللہ دیتا ہے

اللہ جو بھی چیز آپ سے لے گا اس کا بہتر بدلہ عنایت کرے گا اگر آپ صبر کریں اور ثواب کی اُمید رکھیں

”جس شخص کی آنکھیں لے لی جائیں اور وہ صبر کرے میں ان کے بدلے جنت دوں گا۔ دنیا والوں میں جس شخص کا دوست میں لے لوں پھر وہ صبر کرے اور ثواب کی اُمید رکھے تو میں اس کے بدلے جنت دوں گا۔“

جو شخص بیٹے سے محروم ہو جائے اور صبر کرے تو اس کے لئے جنت میں بیت الحمد بنایا جاتا ہے۔ اس پر مزید قیاس کر لیجئے..... لہذا کسی مصیبت پر افسوس نہ کریں، جس نے مصیبت مقدر کی ہے اس کے پاس جنت ہے، ثواب ہے اور اجر عظیم ہے۔ اللہ کے نیک صالح بندے جو بتلائے مصیبت ہوں، ان سے جنت میں کہا جائے گا ”تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا، پس تمہیں کیا بہتر ٹھکانہ ملا ہے۔“

ہمیں چاہئے کہ مصیبت پر صبر کے اجر اور اس کے اچھے نتیجہ کو دیکھیں

”یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمتیں ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں“ (۱۵۷:۲)

مصیبت زدوں اور آفت کے ماروں کو خوشخبری ہو۔ دنیا کی عمر بہت کم ہے اس کا خزانہ حقیر ہے۔ آخرت بہتر اور بقاء کا گھر ہے۔ جسے یہاں مصیبت کا سامنا ہوا اُسے وہاں بدلہ دیا جائے گا جو یہاں تھکے گا وہ وہاں آرام پائے گا۔ رہے وہ جو دنیا سے چٹے ہوئے ہیں، اس کے عاشق ہیں انہیں دنیاوی عیش و آرام کا چھوٹ جانا بڑا شاق گزرتا ہے، کیونکہ وہ بس دنیا کے طلب گار ہیں، اس لئے مصیبتیں انہیں بڑی لگتی ہیں۔ یہ مصائب سے سخت مضطرب ہوتے ہیں وہ صرف اپنے پیروں کو دیکھتے ہیں۔ جہاں بس دنیائے فانی ہی دکھائی دیتی ہے۔

مصیبت زدو! جو بھی تم سے کھویا گیا ہے تم فائدہ میں ہو تمہارے پاس اللہ کا وہ پیغام ہے جس کا لفظ لفظ لطف و کرم محبت، ثواب اور حسن انتخاب ہے۔ اس لئے مصیبت زدہ کو نتیجہ پر نظر رکھنی چاہئے۔

”ان کے بیچ ایک دیوار اٹھادی گئی ہے جس میں ایک دروازہ ہے۔ اس کا اندرون رحمت ہے اور ظاہر کی طرف عذاب ہے۔“ (۱۳:۵۷)

اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر باقی رہنے والا بڑا اور خوشگوار ہے۔

ایمان ہی زندگی ہے

اصل اور واقعی بد نصیب وہ ہیں جو نورا ایمان سے محروم ہیں۔ جن کے پاس یقین کی دولت نہیں۔ وہ ہمیشہ نامرادی، ذلت اور غیظ و غضب کا شکار رہتے ہیں

”جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، ان کے لئے تنگ زندگی ہے“ (۱۲۳:۲۰)

اللہ رب العالمین پر ایمان ہی نفس کا تزکیہ و تطہیر ہے۔ یہ نعم مایوسی اور حزن و ملال کو دور کرتا ہے۔ ایمان کے بغیر زندگی میں کوئی واقعی مزہ ہوتا ہی نہیں۔ طہرین جو ایمان سے محروم ہیں انہیں اپنے بوجھ، تاریکیوں اور بیڑیوں سے نجات پانے کے لئے کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ بغیر ایمان کی زندگی بد بختی کی زندگی ہے۔ اللہ کے نظام کے باغیوں پر ابدی لعنت ہوتی ہے۔ ”ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو پلٹ دیں گے جیسے وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے ہم انہیں سرکشی میں اوندھا چھوڑ دیں گے۔“

آج لمبے زمانوں اور صدیوں کے شاق تجربہ کے بعد عقل اس نتیجہ پر پہنچ چکی ہے کہ بت خرافات ہیں، کفر لعنت ہے، الجاد جھوٹ ہے، رسول سچے ہیں، ساری بادشاہت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ جتنا آپ کا یہ ایمان قوی یا کمزور، گرم یا سرد ہوگا اتنی ہی آپ کو خوش بختی، سکینیت اور راحت حاصل ہوگی۔

”جو بھی مومن، مرد یا عورت، نیک کام کرے گا ہم اسے اچھی زندگی دیں گے اور ان کے عمل کا پورا پورا اچھا بدلہ دیں گے۔“ (۹۷:۱۶)

یہ اچھی زندگی اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ ان کے دلوں میں استتقرار ہوگا۔ خدا کی محبت سے دل سرشار ہوں گے۔ ان کے ضمیر انحراف سے پاک ہوں گے ان کے اعصاب حادثات کے وقت پرسکون ہوں گے۔ وہ قضا و قدر پر راضی ہوں گے کیونکہ وہ اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی

درسول مان چکے ہیں۔

شہد لیجئے لیکن چھتہ نہ توڑیئے

نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اسے زینت دے گی، جس چیز سے نکال لی جائے گی اس میں عیب پیدا ہوگا، گفتگو میں نرمی، چہرہ پر مسکراہٹ، گفتگو کے وقت اچھی بات یہ وہ بہترین اوصاف ہیں جو خوش نصیبوں کے حصے میں آتے ہیں یہ مومنوں کی صفات ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے شہد کی مکھی پاک چیزیں کھا کر پاک چیز بناتی ہے۔ وہ پھول پر بیٹھتی ہے لیکن اسے توڑتی نہیں۔ ”نرمی سے اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے جو سختی سے نہیں ملتی“ نرم مزاج والوں کا لوگ استقبال کرتے ہیں، نگاہیں انہیں دیکھتی ہیں، دل مائل ہوتے ہیں روحیں سلام کرتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا مزاج، گفتگو، لین دین میل جول اور خرید و فروخت ہر جگہ انہیں محبوب بنا دیتا ہے۔ دوست بنانا ایک فن ہے۔ شرفاء اور اچھے لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کا اپنا اخلاقی دستور ہوتا ہے جو اس آیت پر مبنی ہے:

”برائی کا جواب بھلائی سے دو، اس صورت میں آپ کے اور جس کے بیچ عداوت ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔“ (۳۴:۴۱)

وہ اپنے جذبہ پر جوش، بردباری اور درگزر کی صفات سے بغض و حسد کو دفن دیتے ہیں اپنے ساتھ برائی کو بھول جاتے، بھلائی کو یاد رکھتے ہیں، گندے اور چبھتے جملوں کی طرف وہ کان ہی نہیں لگاتے اسی لئے وہ خود بھی آرام سے رہتے ہیں لوگ بھی ان کی طرف سے مامون محفوظ اور پرسکون رہتے ہیں۔

”مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے مسلمان محفوظ ہوں۔ مومن تو وہ ہے کہ لوگ اپنی جانوں اور مالوں پر اس سے مطمئن ہوں۔“

”اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے کلمے میں اُس سے جڑوں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں، جو مجھے نہ دے میں اسے دوں۔“

”اہل ایمان اپنا غصہ پی جاتے ہیں لوگوں کو عافیت دیتے ہیں۔“ (۱۳۴:۳)

”ان لوگوں کو سکون و اطمینان کی دولت ملے گی اور رب غفور رحیم کے ہاں اخروی اجر عظیم کی بشارت بھی ان کے لئے ہے، صدق کی جگہ میں زبردست شہنشاہ کے پاس۔“

اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے

صدق اللہ کو محبوب ہے، صداقت دلوں کو دھودیتی ہے تجربہ دلیل ہے کہ قوم کارہنما ان کی غلط رہنمائی نہیں کرتا، ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز دلوں کو کھولنے والی اور زیادہ ثواب والی نہیں، ”تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا“

اللہ کا ذکر دنیا میں مثل جنت ہے جو اس میں داخل نہ ہوگا وہ جنت میں بھی نہ جائے گا۔ ذکر الہی سے نفس انسانی اضطراب قلق، بیماری اور بے چینی سے نجات پاتا ہے۔ بلکہ وہ ہر کامیابی کا سیدھا راستہ ہے۔ وحی ربانی کو پڑھئے آپ کو ذکر کے فوائد ملیں گے، اس کے مرہم کو آزماتے شفا ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے خوف، تنگی اور حزن و ملال کے بادل چھٹ جاتے ہیں، مایوسی و دل شکستگی سے نجات ملتی ہے۔ اس میں تعجب کیا کہ ذکرین سکون پاتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی چاہئے۔ اس سے بڑی اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ خدا کو یاد نہ کرنے والے جی کیسے لیتے ہیں

”مردے ہیں زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔“ (۲۱:۱۶)

اے وہ شخص جسے رات کو نیند نہ آتی ہو، رنج و الم سے دوچار ہو اور مصائب کا شکار ہو، اللہ کا مقدس نام لے کر ”کیا اس کا کوئی ہم نام تم جانتے ہو“ جتنا بھی اللہ کو یاد کریں گے اتنا ہی دل کو راحت، قلب کو اطمینان اور دل کو سکون ملے گا کیونکہ اللہ کے ذکر کا مطلب ہے اس پر توکل، بھروسہ اور اعتماد اس کی طرف رجوع اس سے حسن ظن یہ امید کہ وہ مشکل دور کر دے گا۔ کیونکہ اسے پکارا جائے تو قریب ہے آواز دی جائے تو سنتا ہے۔ مانگا جائے تو دیتا ہے۔ اس سے لوگ ایسے اس کا خشوع اختیار کیجئے اس کے آگے جھک جائیے، زبان کو اس کے ذکر سے ترک رکھئے، توحید، حمد، دعا، سوال اور استغفار کی کثرت کیجئے اس کے بعد ان شاء اللہ آپ کو خوش نصیبی، انعام، امن و سکون اور مسرت و شادمانی ملے گی۔

”اللہ نے انہیں دنیا میں اچھا بدلہ اور آخرت میں بہترین اجر و ثواب عنایت فرمایا۔“ (۱۲۸:۳)

کیا یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر حسد کرتے ہیں

حسد ایسا نمکین تیزاب ہے جو ہڈیوں کو کھوکھلا کر ڈالتا ہے۔ حسد ایک مزمن مرض ہے جو جسم کو فاسد کر دیتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ حسد کرنے والا ظالم ہوتا ہے مگر اپنے کو مظلوم ظاہر کرتا ہے، وہ دوست کے لبادہ میں دشمن ہوتا ہے۔ ویسے یہ حسد بھی کیا چیز ہے کہ سب سے پہلے حاسد کو ہی مار ڈالتا ہے۔ میں اپنے کو اور آپ کو حسد سے اس لئے منع کرتا ہوں کہ دوسروں سے پہلے ہم اپنے آپ پر رحم کریں۔ حسد کے ذریعہ ہم فکر کے مارے گھل جاتے ہیں، رنج و فکر ہمارا خون پیتا ہے ہماری آنکھوں کی نیند چرائی جاتی ہے۔ حاسد آگ کا گڈھا کھودتا ہے اور خود ہی اس میں گر پڑتا ہے۔ تکدر، مستقل غم، رنج و اندوہ وہ بیماریاں ہیں جنہیں حسد پیدا کرتا ہے، وہ ان کے ذریعہ اچھی خاصی آرام کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ حاسد کی آفت یہ ہے کہ وہ باری تعالیٰ سے جھگڑا کرتا ہے اس کے انصاف میں شک کرتا، شرع کے ساتھ بے ادبی اور پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتا ہے۔ حسد کیا عجیب بیماری ہے کہ حاسد کو اجر نہیں ملتا۔ یہ ایسی تکلیف ہے کہ اس میں بتلا کو ثواب بھی نہیں ملتا۔ اور موت تک وہ حسد کی آگ میں جلتا رہے گا یا جب تک کہ لوگوں سے نعمتیں نہ چھین جائیں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے آپ دست بردار ہو جائیں، اپنے خصائص، امتیازات اور اخلاق کو خیر باد کہہ دیں، آپ ایسا کر لیں تو شاید وہ خوش ہو جائے، حسد کرنے والے کے شر سے ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ اس کی تو صبح ہوتی ہی نہیں جب تک کہ کالے سانپ کی مانند اپنا زہر کسی معصوم کے جسم میں نہ اتار دے۔ لہذا حسد سے دور رہیے، حاسد سے اللہ کی پناہ مانگئے جو ہر وقت آپ کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے۔

زندگی جیسی ہے ویسی ہی قبول کریں

دنیا کی لذتوں میں کدورت آتی ہے، یہاں کے بوجھ بہت ہیں۔ دنیا کا چہرہ ترش رو ہے، یہ تملون مزاج ہے، یہاں آدمی مستقل حادثوں اور المیوں سے دوچار رہتا ہے، باپ ہو، بیوی ہو، دوست ہو یا ساتھی، گھر ہو یا دفتر ہر جگہ کدورت پیدا ہوتی ہے اور آپ اکثر اوقات پریشان ہو جاتے ہیں لہذا

زندگی کی دھوپ چھاؤں میں گرمی کو ٹھنڈک سے بچھائیے تاکہ آپ تلخیوں سے بچ جائیں۔ یہ مشیت کا فیصلہ ہے کہ یہاں گرم سرد، خیر و شر دونوں ہوں۔ اچھائی ہو، برائی ہو، خوشی کے ساتھ غم بھی ہو، پوری پوری خوشی اور خیر تو جنت میں اور پورا پورا شر و دوزخ میں ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے

”دنیا ملعون ہے اس کے اندر کی ہر چیز ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس کے متعلقات

کے اور پڑھنے پڑھانے والوں کے۔“

اس لئے حقائق کے ساتھ رہئے، خواب و خیال میں زندگی نہ گزارئے آئیڈیلم کے پیچھے نہ رہئے۔ دنیا جیسی ہے ویسی قبول کیجئے۔ اپنے آپ کو اس میں رہنے اور اس سے تعامل کا عادی بنائیے۔ یہاں کوئی مکمل دوست نہیں ہوتا، نہ کوئی بات پوری ہوتی ہے کیونکہ کمال دنیا کی صفت ہے ہی نہیں۔ یہ نہ چاہیں کہ بیوی بہر طور آپ کی پسندیدہ ہو۔ حدیث میں ہے ”ایک مومن مرد مومن عورت کو برا نہ سمجھے کہ اگر اُس کی کوئی عادت اسے بری لگے گی تو کوئی دوسرا پہلو بھاجائے گا۔“ لہذا ضروری ہے کہ ہم مصالحت کا رویہ اختیار کریں، ایک دوسرے کے قریب ہوں، معافی اور درگزر سے کام لیں، آسان کو لیں مشکل کو چھوڑ دیں، اقدامات درست کریں اور بہت سے معاملات میں درگزر سے کام لیں۔

مصیبت زدوں سے حوصلہ پائیے

دائیں بائیں دیکھئے ہر طرف مصیبت زدہ دکھائی دیں گے، ہر گھر میں ہنگامہ برپا ہے، ہر خسار پر آنسو ہیں، ہر وادی میں ماتم پنا ہے۔ کتنے ایسے اور کتنی مصیبتیں ہیں، آپ دیکھیں گے کہ مصیبت زدہ آپ تنہا نہیں بلکہ دوسروں کے مصائب کے مقابلہ میں آپ کی مصیبت کم ہے۔ کتنے ہی مریض ہیں جو سالہا سال سے بستر پر کروٹ بدلتے ہیں درد سے کراہتے رہتے ہیں، شفا یاب نہیں ہوتے۔ کتنے جیلوں میں بند ہیں سالوں سے انہوں نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی، جیل خانے کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے۔ کتنی عورتیں ہیں جن کے جگر کے ٹکڑے نوخیزی اور عنفوان شباب میں چھن گئے، کتنے ہیں جو پریشان ہیں، مقروض ہیں، مصیبت میں ہیں، آپ ان کے ذریعہ تسلی حاصل کریں اور یقینی طور پر یہ جان لیں کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے، غموں اور آفتوں کی جگہ ہے، یہاں صبح میں بھرے پرے محل شام ہوتے ہوتے

غم نہ کریں

اوندھے منہ گر جاتے ہیں۔ گھر کے سب لوگ جمع ہوتے ہیں ان کی صحت ٹھیک ہوتی ہے، مال اور اولاد کی کثرت ہوتی ہے کہ اچانک موت، فقر وفاقہ، جدائی اور بیماریاں انہیں گھیر لیتی ہیں
 ”اور تمہارے لئے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے معاملہ کیا اور ہم نے تمہارے لئے مثالیں بیان کر دی ہیں۔“ (۴۵:۱۴)

تو آپ اپنے کو مصیبتوں کا سامنا کرنے کا ایسا عادی بنا لیں جیسے اونٹ صحرا میں چلنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ زندگی کے سفر میں توازن برقرار رکھئے اپنے ارد گرد کے اور پہلے کے لوگوں کے نمونے سامنے رکھئے اور ان کے بیچ اپنا موازنہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ آپ ان کی بنسبت زیادہ بہتر ہیں۔ آپ کو ہلکے سے جھٹکے لگے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو اُس نے لے لیا اس پر ثواب کی اُمید رکھئے اور اپنے ماحول کے لوگوں کو دیکھ کر تسلی حاصل کیجئے۔ اس سلسلہ میں اللہ کے رسولؐ اچھی مثال ہیں کہ آپؐ کے سر پر اونٹ کا اوجھ رکھا گیا قدم زخمی ہوئے، چہرہ پر چوٹیں آئیں، گھاٹی میں بند کیا گیا حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھانے پڑے، مکہ سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ جنگ احد میں سامنے کے چار دانت ٹوٹ گئے، آپ کی حرم طاہرہ پر بہتان لگایا گیا، ساتھیوں میں خاصے لوگ شہید ہو گئے، آپ کا بیٹا اور اکثر بیٹیاں آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئیں۔ آپؐ نے پیٹ پر بھوک کے مارے پتھر باندھے، آپؐ پر ساحر، کاذب، کاہن، مجنوں اور جھوٹے ہونے کے الزامات لگائے گئے جو جسمانی اذیتوں سے بھی بڑھ کر تھے۔ لیکن یہ اذیتیں تو پیش آتی ہی ہیں۔ اس سے پہلے حضرت زکریاؑ قتل کر دیئے گئے، حضرت یحییٰؑ کو ذبح کر دیا گیا، حضرت موسیٰؑ کو ستایا گیا، حضرت ابراہیمؑ کو آگ میں ڈالا گیا، صحابہ کرامؓ بھی اسی راستہ پر چلے، حضرت عمرؓ خون میں نہلائے گئے، حضرت عثمانؓ شہید کئے گئے، حضرت علیؑ کو نیزہ مارا گیا۔ ائمہ و صالحین کو کوڑے لگائے گئے۔ جیل میں ڈالا گیا، سزائیں دی گئیں۔

”کیا تم نے سمجھا ہے کہ تم جنت میں یونہی داخل کر دیئے جاؤ گے ابھی تو پہلے گزرے ہوؤں کی مثال بھی نہیں جن کو تنگی و ترشی لاحق ہوئی زلزلوں میں ڈالے گئے۔“



نماز *** نماز

”اے ایمان والو! صبر اور نماز سے اللہ کی مدد چاہو“

جب آپ پر خوف طاری ہو غم گھیر لے، تفکرات محاصرہ کر لیں، تو فوراً نماز کی طرف لپکنے، روح سرشار ہو جائے گی، دل کو اطمینان حاصل ہوگا۔ نماز انشاء اللہ غم و فکر اور حزن و ملال کے بادل چھانٹ دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو فرماتے ’اے بلال! ہمیں نماز کے ذریعہ آرام پہنچاؤ، نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، خوش بختی اور شادمانی کا ذریعہ تھی۔ بہت سے لوگوں کے حالات میں نے پڑھے، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی آفتیں پڑتیں تو وہ نماز کی طرف دوڑتے نماز سے ان کے قوی لوٹ آتے، ارادہ و ہمت میں تازگی آ جاتی۔

صلوٰۃ خوف کا فلسفہ یہی ہے کہ جب دلوں پر خوف طاری ہوتا ہے، جانیں تلوار کی دھار پر رکھی ہوتی ہیں تو ایسے میں دل کو جمانے اور ڈھارس بندھانے والی سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ آج نفسیاتی الجھنوں کی شکار نسل کو مسجد سے واقف ہونے کی ضرورت ہے اور الجھنوں سے نجات کے لئے اور خوشنودی رب کے لئے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ورنہ آنسو آنکھوں کو جلادیں گے، حزل و ملال اعصاب کو توڑ دیں گے۔ نماز کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جو انہیں ان مسائل سے نجات دلا سکے۔ اگر ہم عقل سے سوچیں تو پتہ چلے کہ دن رات میں پانچ وقت کی نمازیں بہت بڑی نعمت ہیں۔ یہ گناہوں کا کفارہ ہیں! اللہ کے ہاں درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہیں، آلام و مشکلات کو کم کرنے کا سبب ہیں۔ یہ ہمارے امراض کی کامیاب دوا ہے۔ ضمیر کو یقین عطا کرتی اور قلوب کو رضا بالقضاء سے بھرتی ہے۔ جو لوگ مسجد سے دور بھاگتے ہیں نمازیں چھوڑتے ہیں تو ان کی آفتیں کم نہیں ہوتیں! ابھی ایک بد بختی ابھی دوسری۔ ایک مسئلہ ختم ہوا نہیں کہ دوسرا سر پر کھڑا، یعنی کبیدہ خاطر کی گھیرے میں رہتے ہیں۔

”تو بد بختی ہے ان کے لئے اور ان کے اعمال اکارت گئے۔“

کافی ہے اگر ایک خدا میرے لئے ہے

اللہ پر بھروسہ کرنا اس پر اعتماد رکھنا اس کے وعدوں پر یقین اُس کے ساتھ حسن ظن رکھنا اس

غم نہ کریں

کے فیصلہ کو مان لینا، یہ یقین کرنا کہ وہ آسانی پیدا کرے گا۔ یہ چیزیں ایمان کے بڑے ثمرات اور مؤمنین کی بہترین صفات میں سے ہیں۔ جب بندہ حسن عاقبت سے مطمئن ہو جاتا ہے اور اپنے ہر معاملہ میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد، حمایت اور تائید و نصرت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو فرمایا: ہمیں اللہ کافی ہے جو بہترین سہارا ہے، چنانچہ اللہ نے آگ ان کے لئے گلزار بنا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو کفار کے لشکروں سے ڈرایا گیا تو فرمایا: ہمیں اللہ کافی ہے وہ بہترین سہارا ہے، چنانچہ اللہ نے اپنی نعمت و فضل سے سرفراز فرمایا انہیں تکلیف نہیں پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انسان اکیلا حادثات سے نہیں لڑ سکتا نہ مصائب و مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے کیونکہ وہ فطری طور پر کمزور اور ناتواں پیدا کیا گیا ہے۔ ہاں اگر وہ اپنے رب پر توکل کرے، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اس عاجز و لاچار بندے کے کام کوئی تدبیر آئے گی جب اس پر مشکلات و مصائب آن پڑیں۔

”اور صرف اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔“ (۲۳:۵)

جو لوگ اپنا بھلا چاہتے ہیں انہیں اللہ پر توکل کرنا چاہے جو قوی و غنی ہے، زبردست قوت والا ہے، وہی انہیں مشکلات و مسائل سے نکال سکتا ہے۔ اذیتوں سے بچا سکتا ہے لہذا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کو حرز جان بنا لیجئے، اگر آپ کا مال کم ہو جائے، قرض بڑھ جائے، آمدنی کم ہو جائے تو پکاریئے: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جب آپ کو کسی دشمن کا خوف ہو، کسی ظالم سے ڈر لگے، کسی افتاد سے گھبرا جائے تو پکاریئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور کفی بربك هادياً و نصيراً (تمہارا رب کافی ہے نصرت و کار سازی کے اعتبار سے)

”قل سیر وافی الأرض“

سیر و تفریح، گھومنا پھرنا اور سفر و سیاحت سینہ کو کھولتے اور رنج و الم کے بادلوں کو دُور کر دیتے ہیں، خدا کی کتاب کائنات کو پڑھئے جو کھلی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قدرت کے بہت سے قلم

صفحات وجود پر آیات جمال لکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دلکش باغات، خوبصورت باغیچے اور بارونق پارک مہک رہے ہیں۔ گھر سے نکلنے اپنے اردگرد دیکھئے پہاڑوں پر چڑھئے، وادیوں میں اترئیے، درختوں پر چڑھئے، صاف ستھرے پانی میں ڈبکی لگائے، یا سمین کی شاخوں پر ناک رکھئے تب آپ پائیں گے کہ روح آزاد و سرشار ہو گئی ہے جیسے پرندہ آزادی سے فضاؤں میں چھپاتا پھرتا ہے۔ گھر سے نکلئے، آنکھوں سے کالا چشمہ ہٹائیے، پھر اللہ کا ذکر و تسبیح کرتے ہوئے اللہ کی زمین میں چلئے پھرئیے، اگر آپ خالی ہیں اور پھر بھی کمرہ میں بند ہیں تو آپ خود کشتی کے راستے میں ہیں، آپ کا کمرہ دنیا نہیں ہے، نہ آپ اکیلے تمام انسان ہیں۔

پھر آلام و تفکرات کے سامنے آپ کیوں سر جھکا ئیں؟ آنکھیں کھولئے، کانوں سے سنئے، دل کی آواز پر لبیک کہئے کہ کہا گیا ہے: ”تم لوگ بوجھل ہو کر اور ہلکے ہو کر نکل پڑو۔“ آئیے نہروں، تالابوں، پرندوں کے بیچ قرآن کی تلاوت کریں، پرندے جو محبت کے نغمے گارہے ہیں اور پانی پہاڑوں سے اپنے نکلنے کی کہانی کہہ رہا ہے۔ جو شخص نفسیاتی و روحانی طور پر بوجھل پن محسوس کر رہا ہو، ڈاکٹر اور طبیب بتاتے ہیں کہ زمین میں چلنا پھرنا اور سفر کرنا اُس کے لئے مسرت افزا اور صحت بخش ہے، لہذا آئیے سفر کریں سعادت اور خوشی حاصل کریں، سوچیں اور تدبر کریں۔

”یہ لوگ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں اور پکاراٹھتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اس کائنات کو یونہی نہیں پیدا کر دیا ہے۔“ (۱۹۱:۳)

صبر جمیل اختیار کریں

صبر و تحمل اولوالعزم لوگوں کی صفت ہے۔ یہ لوگ کشادہ ظرفی قوت ارادی اور غیرت و خودداری کے ذریعہ آفات و مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اور اگر ہم یا آپ صبر نہ کریں تو کیا کر سکتے ہیں؟ کیا صبر کے علاوہ اور کچھ چارہ ہے کیا اس کے علاوہ اور کوئی زاہد راہ ہے؟ ایک بڑے آدمی کا قصہ ہے کہ وہ مصائب کی آماجگاہ اور المیوں و حادثات کی فرودگاہ بنا ہوا تھا لیکن اس نے صبر و توکل علی اللہ کی ڈھال اختیار کئے رکھی۔ بڑوں اور شرفاء کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ بلاؤں و تکالیف کا مقابلہ کرتے اور حادثات

کو دھول چٹا دیتے ہیں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیماری میں لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کیا ہم آپ کے لئے طبیب کو نہ بلا لیں؟ فرمایا طبیب تو دیکھ چکا ہے، کہنے لگے: اس نے کیا کہا؟ فرمایا اُس نے کہا کہ ”میں جو چاہوں کروں“

صبر اللہ کے واسطے ہونا چاہئے، صبر ایسا ہو کہ خلاصی کا یقین ہو حسن انجام کی توقع ہو اجر کی طلب ہو یہ نیت ہو کہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ صبر کریں خواہ کیسی ہی شدید مشقتیں لاحق ہوں، چاہے سب راستے تاریک ہو جائیں۔ صبر ہو گا تو نصرت آئے گی کہ تکلیف کے ساتھ آسانی ہے عمر کے ساتھ یسر ہے۔ دنیا کے بہت سے مشاہیر کے حالات میں نے پڑھے، ان کی شدت صبر اور قوت برداشت دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ مشکلات ان پر ایسی آتی تھیں جیسے سر پر اُلے پڑ رہے ہوں لیکن وہ صبر و عزیمت سے حق کی راہ میں جبرے، پہاڑوں کی طرح ثابت قدم رہے۔ چنانچہ کچھ ہی مدت بعد ان کے سامنے نئی صبح روشن تھی، فتح مل گئی، نصرت آگئی۔ ان لوگوں نے صرف صبر ہی نہیں کیا بلکہ حادثات کا مقابلہ کیا اور مصائب کو چیلنج دیا تھا۔

سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں بستر پر سوتے ہوئے عالمی جنگ ہوتی رہتی ہے۔ جنگ کے نتیجے میں ان کے معدہ میں زخم پیدا ہو جاتا ہے، انہیں بلڈ پریشر اور شوگر کے آزار لاحق ہو جاتے ہیں، واقعات سے وہ جھلستے رہتے ہیں۔ قیمتوں میں بڑھوتری ہوئی انہیں غصہ آیا۔ بارش نہ ہوئی، وہ دہاڑنے لگے، کرنسی کی قیمت میں کمی آئی وہ مضطرب ہو گئے، اس طرح وہ مستقل حزن و ملال اور قلق کی حالت میں رہتے ہیں۔

”ہر آواز کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں“ (۴:۶۳)

میرا مشورہ یہ ہے کہ سارے جہاں کا درد لے کر مت پھرے۔ حادثات زمین پر ہوں آپ کی آنتوں میں نہ ہوں۔ بعض لوگوں کا دل گویا آستین ہوتا ہے جو ہر قسم کی انواہوں اور گپ بازیوں کو پیتا رہتا

ہے۔ چھوٹی باتوں پر پریشان، معمولی خوشی پر دل باہر نکلا جاتا ہے، ہر بات پر مضطرب۔ ایسا دل جس کا ہوتا ہے اس کی شخصیت منہدم ہو جاتی اور وجود خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔ اہل حق کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ عبرتیں اور نصیحتیں ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ تھڑکوں کے خوف میں زلزلوں سے زبردست اضافہ ہو جاتا ہے۔ حادثات اور ٹریجڈیوں کے سامنے تو ایک شجاع دل ہی ٹھہر سکتا ہے، بہادر اور اقدام کرنے والا ہی خطرات سے کھیلتا ہے۔ اس کا سینہ چوڑا، ظرف بڑا، یقین راسخ، اعصاب ٹھنڈے ہوتے ہیں اور انہیں انشراح صدر حاصل ہوتا ہے۔ جہاں تک بزدل کی بات ہے تو وہ بے چارہ توقعات، افواہوں اور خواب و خیال کی تلوار سے روزانہ بار بار قتل ہوتا ہے۔

لہذا اگر آپ زندگی میں استقرار چاہتے ہیں تو حالات کا شجاعت و پامردی سے مقابلہ کریں تاکہ جو اہل ایمان نہیں وہ آپ کو بے وزن نہ سمجھیں اور ان کی چالوں سے آپ تنگی میں نہ پڑیں۔ حادثات سے مضبوط تر بنیں۔ بحرانوں کی آندھیوں اور طوفان کے جھکڑوں سے زیادہ سخت ثابت ہوں۔ کمزور اور تھڑکے دل لوگ قابل رحم ہیں کہ گردش ایام انہیں کتنا ہلا مارتی ہے۔ ”آپ انہیں زندگی کا بہت ہی حریص پائیں گے۔“ جو غیرت مند اور خوددار ہیں وہ اللہ کی طرف سے مدد و نصرت کے مستحق ہیں ”اللہ نے ان پر سکینت نازل کی۔“

چھوٹی باتوں پر آپ ٹوٹ نہ جائیں

کتنے ہی لوگ ایک حقیر اور معمولی سبب کے باعث مغموم ورنجور رہتے ہیں! منافقین کو دیکھو، ہمتیں پست، عزائم حقیر، کہتے کیا ہیں

”دھوپ میں جہاد کے لئے نہ نکلو۔“ مجھے جانے کی اجازت دیجئے مجھے نہ آزمائیے، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ہمیں خوف یہ ہے کہ کوئی مصیبت نہ آجائے۔“ اللہ ورسول نے ہمارے ساتھ بس دھوکہ کا وعدہ کیا ہے“

کیسی پستی ہے ان کی باتوں میں کیا ہی احساس کمتری ہے! ان کی نظریں بس پیٹ، صحن اچھے گھر اور محلات تک ہی دیکھ پاتی ہیں، اعلیٰ قدروں کے آسمان تک ان کی نگاہیں اٹھتی ہی نہیں، فضائل

غم نہ کریں

کے ستاروں کو یہ دیکھتے ہی نہیں، ان کی سوچ اور فکر بس گھوڑا، کپڑا، جوتا اور کھانا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی تعداد ان کی بھی ہے جن کا صبح و شام کا مشغلہ بس بیوی، بچوں یا رشتہ داروں سے جھگڑا، گالم گلوچ اور ایسی ہی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کے لئے یہی باتیں اہم ہیں۔ ان کے پاس کوئی بڑا مقصد، کوئی بلند ارادہ ہی نہیں جو ان کا وقت لے اور مشغول رکھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب برتن سے پانی نکل جاتا ہے تو اس میں ہوا بھر جاتی ہے۔ لہذا سوچئے کہ جس مسئلہ میں آپ پریشان اور مغموم ہیں وہ کیسا ہے۔ کیا آپ کی یہ پریشانی اس لائق ہے کہ آپ اسے اپنی عقل، گوشت، خون، راحت، اور وقت سب دے دیں۔ یہ تو ٹوٹے اور گھائے کا سودا ہے۔ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہر چیز کو معقول حد میں رکھئے، اس سے زیادہ صحیح ارشاد الہی ہے کہ ”اللہ نے ہر چیز کی قدر و قیمت رکھی ہے۔“ (۳:۶۵)

جیسا اور جس طرح کا مسئلہ ہے اتنا ہی اسے وزن اور قیمت دیجئے، کمی زیادتی نہ کیجئے۔ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم درخت کے نیچے بیعت کرتے ہیں اور انہیں اس بیعت کو بھانے کی فکر ہے۔ عین اسی وقت ایسا شخص بھی تھا جسے اپنے اونٹ کی فکر تھی حتیٰ کہ بیعت بھی اس سے چھوٹ گئی۔ صحابہ کرامؓ کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی اور اس شخص کے حصہ میں محرومی آئی۔ لہذا چھوٹی اور معمولی باتوں کی فکر چھوڑ دیجئے آپ شاداں اور فرحاں رہیں گے، نقلرات سے نجات مل جائے گی۔

قسمت پر راضی رہیں

اس سلسلہ میں چند باتیں اوپر آچکی ہیں لیکن یہاں ان کی تفصیل بیان کروں گا، آپ کو جیسا بدن، مال، اولاد، گھر اور جو صلاحیت ملی ہو اسی پر قناعت کرنی چاہئے، قرآن بھی یہی کہتا ہے ”جو میں نے تمہیں دیا ہے، اسے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ“ (۱۴۴:۷)

علماء سلف میں اکثر اور پہلی نسل کے لوگ غریب فقیر تھے۔ نہ ان کے پاس عطیے تھے نہ شاندار مکانات، نہ گاڑیاں نہ غلام، اُس کے باوجود وہ معاشرے پر اثر انداز ہوئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اور انسانیت کو زبردست فائدے پہنچائے۔ کیونکہ انہیں اللہ نے جو بھی خیر کی توفیق دی اسے انہوں نے صحیح راستہ میں لگایا۔ اس لئے ان کے اعمال اور اوقات اور صلاحیتوں میں برکت دی گئی۔ ان کے

مقابلے میں ایسے مالدار اور اہل ثروت تھے کہ سیدھے اور فطری راستہ سے انحراف کے نتیجے میں یہ مال و دولت ان کے کچھ کام نہ آئی اور وہ بدبختی اور نحوست کی زندگی گزارتے رہے۔ اشیاء ہی سب کچھ نہیں، یہ اس کی دلیل ہے۔ بہتیرے آپ کو ملیں گے، جن کے پاس عالمی ڈگریاں ہیں لیکن اپنے فہم، اثر اور دین کے لحاظ سے ان کا کوئی شمار نہیں، جب کہ بہتیرے ایسے بھی ہیں جن کا علم تو محدود ہے لیکن اسی کو انہوں نے فائدہ اصلاح اور تعمیر کا اُبلتا چشمہ بنا دیا ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو جیسی کچھ شکل و صورت اللہ نے آپ کو دی، جس خاندان میں پیدا کیا، جو آواز دی اپنے فہم اور آمدنی کے معیار پر خوش رہئے۔ دیکھیں تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو کم پر راضی ہوئے اور نام کمایا۔ عطاء بن رباح اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم تھے۔ وہ آزاد کردہ غلام تھے، کالے چھٹی ناک والے، مشلول البدن اور گنجنے تھے۔ احف بن قیس عربوں میں سب سے بردبار و حلیم تھے، دبلے پتلے، کمزور، کبڑے تھے اور ان کی پنڈلیاں نیچی تھیں۔ الاعمش اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے۔ یہ آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے۔ نگاہ کمزور تھی بالکل محتاج فقیر اور پھٹے حال۔ بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ کر انبیاء علیہم السلام کی مثال ہے ان میں بہتیروں نے بکریاں چرائیں۔ حضرت داؤدؑ لوہار تھے، حضرت زکریاؑ بڑھتی تھے۔ حضرت ادریسؑ درزی تھے، یہ وہ لوگ تھے جو خیر البشر اور تمام انسانیت کا مکھن تھے۔ آپ کی قدر و قیمت آپ کی صلاحیتیں اور نیک کام ہیں۔ یہ بات کہ آپ نفع پہنچائیں، حسن اخلاق سے کام لیں۔ جمال، مال یا عیال میں کچھ کمی ہوگئی ہو تو اس میں رنج و افسوس کی کوئی بات نہیں اللہ جو دے اس پر خوش رہئے۔

”ہم نے ان کے درمیان دنیاوی زندگی کی روزی تقسیم کر دی ہے۔“ (۳۲:۴۳)

اس جنت کو یاد کرتے رہئے جس کا عرض زمین و آسمان ہے

دنیا میں اگر آپ محتاج یا غمگین ہوں یا مرض لاحق ہو جائے یا آپ کا کوئی حق مار لے یا کوئی ظلم آپ پر ہو تو آپ ہمیشگی کی جنت کو یاد کر لیں۔ جب آپ ایسا کرنے لگیں گے اور اس کے حصول کے لئے کام کریں گے تو آپ کے نقصانات فائدوں میں بدل جائیں گے۔ مصیبتیں عطایا ثابت ہوں گی۔ سب سے عقل مند وہی ہے جو آخرت کے لئے کام کرے، کیونکہ آخرت ہی بہتر اور باقی رہنے والی

غم نہ کریں

ہے۔ مخلوقات میں سب سے اہمق وہ ہیں جو دنیا کو اپنی آرامگاہ، اپنا گھر اور امیدوں کا مرکز سمجھتے ہیں۔ اسی لئے جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو بہت گھبراتے اور بہت مضطرب ہوتے ہیں کیونکہ انہیں بس اسی دنیا کی حقیر زندگی نظر آتی ہے۔ وہ اسی فانی زندگی کے لئے کام کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ کچھ نہ سوچتے نہ کام کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ان کے آرام میں کوئی خلل نہ پڑے، نہ کوئی کدورت پیش آئے۔ حالانکہ اگر ان کے دلوں سے رنگ دور ہو جاتا اور آنکھوں پر پڑی جہالت کی پٹی اتر جاتی تو وہ جنت، اس کی نعمتوں، اس کے مخلوق اور حیات جاوداں کو یاد کرتے اور اس کے جو اوصاف قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان کو سنتے اور سمجھتے۔ بلاشبہ اسی گھر کے لئے تگ و دو اور محنت و مشقت کرنی چاہئے۔ کیا ہم نے اس پر غور کیا کہ اہل جنت نہ بیمار ہوں گے نہ غمگین، نہ مریں گے نہ ان کا شباب ختم ہوگا، نہ کپڑے پرانے ہوں گے، کمرے ایسے ہوں گے کہ باہر کا اندر اور اندر کا باہر نظر آئے گا۔ وہ نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی فرد بشر کی آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل میں ان کا خیال گزرا، اس کے ایک درخت کے سایہ میں سو سو سال تک چلتا رہے تب بھی وہ ختم نہ ہو۔ خیمے اتنے بڑے کہ ۶۰ میل لمبے، اس کی نہریں جاری، اس کے محلات شاندار، اس کے پھل قریب لٹکے ہوئے، اس کے چشمے رواں، اس میں مسہریاں آراستہ، جام جا بجا رکھے ہوئے، گدے اور قالین و تکیے قرینے سے بچھے ہوئے، اس کی خوشی مکمل، ہر طرف خوشبو، ہر جا شادابی، اس کا وصف ناقابل بیان۔ پھر ہماری عقلوں کو کیا ہوا؟ اس کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں، جب کہ انجام کار اس گھر میں داخلہ ہے تو پھر مصیبت زدوں، غم زدوں اور محتاجوں کو کوئی غم نہ ہونا چاہئے بلکہ انہیں خوشی ہونی چاہئے کہ عاقبت خوش انجام ہوگی، انہیں فقر وفاقہ کا رونا نہ روکر، مصیبتوں کا دکھ نہ سنا کر عمل صالح کرنا چاہئے تاکہ اللہ کی نعمتوں اور اس کی جنت کے مستحق بن جائیں

”تم نے جو صبر کیا اس پر تمہیں سلامتی ہو کیا بہتر ٹھکانہ تمہیں ملا ہے۔“ (۲۳:۱۳)

”ہم نے تمہیں اُمتِ وسط بنایا ہے“

اعتدال عقلاً و شرعاً مطلوب ہے، نہ غلو ہو نہ زیادتی نہ افراط و تفریط۔ جو شخص شادماں رہنا

چاہے وہ اپنے جذبات، رجحانات اور خیالات کو کنٹرول کرے۔ اپنی ناراضگی، رضامندی، خوشی و غمی ہر چیز میں اعتدال اختیار کرے۔ کیونکہ حالات سے تعامل میں مبالغہ یا کمی نفس پر ظلم ہے۔ میانہ روی ہر حال میں بہتر ہے۔ شریعت میزان کے ساتھ اتری ہے، زندگی اعتدال و انصاف پر قائم ہے۔ جو آدمی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اپنی خواہشات و جذبات کے پیچھے چلتا ہے وہ سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ چھوٹی باتیں اسے بڑی لگتی ہیں، روشن پہلو بھی تاریک ہو جاتے ہیں اس کے دل میں کینہ کپٹ اور بغض و حسد کے معرکے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اوہام و خیالات کے گرداب میں پھنس جاتا ہے۔ بعض لوگ تو یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ سب ان کے خلاف ہیں۔ دوسرے ان کو مٹانے کے لئے سازشیں کر رہے ہیں۔ ان کے وسوسے یہ بتاتے ہیں کہ پوری دنیا ہی ان کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ اس لئے وہ خوف، غم اور تفکرات کے گہرے سایوں میں رہتے ہیں۔ خوف میں مبتلا کر دینا شرعاً ممنوع ہے، طبعاً یہ گھٹیا کام ہے۔ ایسا تو وہ لوگ کرتے ہیں جو روحانی اقدار و ربانی احکامات سے تہی دامن ہوں۔ ”وہ ہر آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھتے ہیں۔“ لہذا دل کو اس کی جگہ رہنے دیجئے، جن چیزوں کا زیادہ خوف ہوتا ہے وہ ہوتی نہیں۔ آپ جس چیز کے واقع ہونے سے ڈر رہے ہیں اس کی بدترین صورت کا احتمال ذہن میں لائیے پھر اس کے قبول کرنے پر ذہن کو آمادہ کیجئے۔ اس طرح آپ ان وسوسوں اور اوہام سے بچ جائیں گے جو اس وقوعہ سے متعلق دل میں آرہے ہو گے۔ لہذا میرے عقل مند و سمجھدار بھائی، ہر چیز کو اس کے برابر رکھئے بات کا بنگلہ نہ بنائیے بلکہ اعتدال ملحوظ رکھئے۔ ادھر ادھر نہ بھاگئے، اوہام اور سراب کے پیچھے نہ دوڑیئے۔ محبت و نفرت کے سلسلہ میں حدیث میں بیان کردہ میزان سامنے رکھئے:

”اپنے محبوب کو تھوڑا چاہو ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا مبغوض بن جائے اور جس سے نفرت ہے اس سے کم نفرت کرو ہو سکتا ہے وہ محبوب ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور تمہارے دشمن کے مابین مودت و دوستی پیدا کر دے اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ غفور اور رحیم ہے۔“

سمجھ لیجئے کہ اکثر خدشوں، اندیشوں اور افواہوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی۔

رنج و الم نہ شرعاً مطلوب ہے نہ اصلاً مقصود

رنج و الم سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے فرمایا

”نہ کمزور ہونہ غم کرو“ (۱۳۹:۳)

متعدد جگہ یہ کہا گیا ”ان پر افسوس نہ کیجئے“ (۱۲۷:۱۶)

”غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے“ (۴۰:۹)

ایک جگہ کہا گیا:

”ندان پر خوف ہوگا نہ وہ غم کریں گے“ (۳۸:۲)

حزن کیا ہے؟ طلب کے شعلہ کا ٹھنڈا پڑنا، ہمت میں فتور پیدا ہونا۔ حرارت کم ہو جانا۔ یہ ایسا بخار ہے جو زندگی کو شل کر دیتا ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ حزن ایک اچھی علامت نہیں نہ اس میں دل کی مصلحت ہے۔ شیطان کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ کو غمگین کر کے اُسے راستہ سے روک دے اور منحرف کر دے، جیسا کہ فرمایا

” (بری) سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے تاکہ اہل ایمان غمگین ہو جائیں۔“ (۱۰:۵۸)

نبی کریم ﷺ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ”تین لوگوں میں دو تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشیاں کرنے لگیں“ کیونکہ اس سے اُس کو رنج ہوگا۔ مسلمان حزن میں مبتلا ہو یہ شریعت نہیں چاہتی کیونکہ اس کا برا اثر روح پر پڑتا ہے۔ مسلمان سے تو شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ حزن و ملال کو پاس نہ آنے دے اس کا مقابلہ کرے اور اچھے ذرائع سے اس پر غلبہ پالے۔ حزن و ملال نہ مطلوب ہے نہ مقصود۔ نہ اس میں کوئی فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ فرمایا:

”اے اللہ میں حزن و ملال اور تفکرات سے تیری پناہ چاہتا ہوں“

رنج و فکر میں فرق یہ ہے کہ اگر مستقبل کی فکر پریشان کرتی ہے تو اُسے ”ہم“ کہتے ہیں اور ماضی کی غمناک بات ہو تو وہ ”حزن“ کہلاتی ہے۔ دونوں ہی باتیں آدمی کو آگے بڑھنے سے روکنے والی ہیں۔ حزن سے زندگی مکدر ہوتی ہے۔ یہ ایسی زہرناک چیز ہے کہ روح میں فتور، حیرت اور ملال پیدا

کرتی ہے۔ کتنی ہی خوبصورت شئی کا سامنا ہو۔ اس کے سبب وہ بھی تاریک لگے گی۔ زندگی کی ساری خوشی و مسرت، حسرت و ندامت اور المناکی سے بدل جاتی ہے۔ ہاں اگر حزن و ملال لاحق ہی ہو جائے جیسا کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے تو اسے دعاؤں سے اور مناسب ذرائع کے استعمال سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اس کے لاحق ہو جانے پر بندے کو ثواب ملے گا کیونکہ فطری چیز ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جنتی جنت میں داخلہ کے وقت کہیں گے کہ الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن“ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کو حزن لاحق ہوا کرتا تھا جیسا کہ اکثر ایسے مصائب آتے ہیں جن پر آدمی کا اختیار نہیں ہوتا۔

البتہ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیات و احادیث میں تو حزن کی تعریف کی گئی ہے۔ مثلاً قرآن میں آیا ہے۔

”اور نہ ان پر کوئی حرج ہے جو جنگ میں جانے کے لئے آپ کے پاس آئے مگر سواری نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے ان سے معذرت کی تو وہ حزن و ملال کے مارے آنکھوں میں آنسو لئے واپس ہو گئے۔“ (۹۲:۹)

تو بات یہ ہے کہ یہاں نفس حزن کی تعریف نہیں بلکہ حزن کی یہ کیفیت ان مؤمنین کی قوت ایمان پر دلیل تھی اس پر ان کی تعریف کی گئی اور منافقین پر تعریض ہے، جنہوں نے مؤمنین کے واپس ہونے پر بغلیں بجائی تھیں۔ لہذا حزن محمودہ ہوا جو کسی عبادت اور اطاعت کے کام کے فوت ہونے یا کسی گناہ میں پڑ جانے کے سبب ہو۔ کیونکہ اس صورت میں بندے کا اپنے گناہ اور خطا کاری پر حزن اس کی دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اسے ہدایت کی توفیق مل سکتی ہے ایک حدیث میں یہ ہے:

ما یصیب المؤمن من ہم ولا نصب ولا حزن الا کفر اللہ بہ من خطایا۔ یعنی مؤمن کو جو بھی تفکر، رنج اور غم پہنچتا ہے اس کے بدلے اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔

تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حزن ایک مصیبت ہے، بندے نے اس پر صبر کیا لہذا وہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حزن کوئی اچھی صفت ہے جسے حاصل کرنا چاہئے۔ لہذا بندہ نہ حزن کی طلب و دعا کرے نہ اسے عبادت خیال کرے۔ نہ یہ سمجھے کہ شارع نے اس پر ابھارا ہے۔

غم نہ کریں

اس کا حکم دیا ہے یا اس کو اچھا سمجھا ہے یا عبادت قرار دیا ہے اگر ایسا ہوتا تو نبی کریمؐ اپنی زندگی حزن و غم میں مبتلا ہو کر گزار دیتے حالانکہ آپ شرح صدر کے ساتھ خندہ جبین فرحاں و شاداں رہتے تھے؟ رہی یہ بات کہ ہند بن ابی ہالہ کی حدیث میں آتا ہے کہ آپؐ ”متواصل الأحزان“ تھے۔ تو یہ حدیث صحیح نہیں اس کی اسناد میں مجہول راوی ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بھی خلاف ہے۔ آپؐ ”متواصل الأحزان“ کیسے ہو سکتے تھے جب کہ اللہ نے آپؐ کو دنیا کے تفکرات اور اس کے اسباب سے محفوظ رکھا تھا۔ کفار پر غم کرنے سے منع کیا تھا۔ آپؐ کی نئے پرانے خطائیں معاف فرمادی تھیں۔ پھر آپؐ کو غم کیسے اور کیوں ہوتا؟ کس راستہ سے آپؐ کے دل تک پہنچتا جب کہ دل ذکر سے معمور رہتا تھا؟ استقامت سے پر اور ہدایت ربانی سے سرشار تھا۔ آپؐ کو اللہ کے وعدے پر اطمینان تھا اس کے احکام و افعال پر راضی تھے۔ آپؐ ﷺ ہمیشہ خوش رہتے مسکراتے رہتے جیسا کہ آپؐ کے شمال میں آتا ہے ”الضحوک القتال“ جو شخص بھی سیرت نبویؐ کو غور سے پڑھے گا اسے معلوم ہوگا کہ آپؐ باطل کو ختم کرنے، قلق و اضطراب اور تفکرات، رنج و فکر وغیرہ کو ختم کرنے کے لئے آئے تھے۔ آپؐ نفوس کو شکوک و شبہات شرک و حیرت اور اضطراب سے آزاد کرنے، مصائب اور ہلاکتوں سے بچانے کے لئے آئے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے انسانیت پر کتنے بڑے احسانات ہیں۔ ایک حدیث ہے: ”ان اللہ يحب كل قلب حزين“ لیکن اس کی اسناد معلوم نہیں، نہ اس کے راوی معروف ہیں اس کی صحت بھی مشتبہ ہے کیونکہ بظاہر یہ شرع کے خلاف ہے اور اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ حزن ایک مصیبت ہے اس کے ذریعہ اللہ بندے کو آزماتا ہے اگر بندہ صبر کرے تو اللہ کو اس سے محبت ہوگی۔ لیکن جو لوگ حزن کی مدح کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شرع میں وہ پسندیدہ ہے وہ غلطی پر ہیں۔ بلکہ اُس کی ممانعت آئی ہے اس کے خلاف حکم آیا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے رسول بھیجے، کتاب نازل کی اس پر خوش ہونا چاہئے اور اللہ کی ہدایت کا شکر گزار ہونا چاہئے۔ ایک اور حدیث ہے: انذأحب اللہ عبداً نصب فی قلبه نائحة، واذا ابغض عبداً جعل فی قلبه مزماراً، یہ ایک اسرائیلی اثر ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ تورات کا قول ہے لیکن یہ معنیاً صحیح ہے یعنی یہ کہ مومن اپنے گناہوں پر غمگین ہوتا ہے۔ فاسق و فاجر لہو و لعب میں اور ہنسی و مستی میں مدہوش رہتا ہے۔ صالحین کا دل جو ٹوٹتا ہے

تو وہ اس بنا پر کہ ان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ بعض غلطیاں ہوتی ہیں۔ بخلاف گنہگاروں کے کہ ان کا غم دنیا، اس کے فوائد، اس کی شہوات، اس کے لذائذ اور دنیاوی اغراض کے فوت ہونے پر ہوتا ہے۔ ان کا غم اور رنج و فکر دنیا کے لئے ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہاں تک حضرت یعقوبؑ کے بارے میں قرآن کا یہ بیان ہے کہ ان کی آنکھیں حزن سے سفید پڑ گئیں۔ تو وہ خبر ہے کہ ان کی یہ حالت بیٹے کی جدائی کی وجہ سے ہو گئی تھی۔ کسی چیز کی اطلاع اس کے استحسان یا اس کے حکم پر دلیل نہیں ہوتی۔ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ حزن سے اللہ کی پناہ مانگیں کیونکہ یہ ایک تاریک رات ہے جو بلند یوں کے راستہ کی رکاوٹ ہے۔ ارباب سلوک کا اجماع ہے کہ دنیا کا حزن غیر محمود ہے ہاں ابو عثمان الجبری نے کہا ہے کہ ”حزن ہر صورت میں فضیلت ہے اور مومن کے لئے اضافہ ہے اگر محصیت کا سبب نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ حزن سے تخصیص نہیں ہوتی تو چھٹائی تو ہو جاتی ہے۔“ ان کے قول کی توجیہ یہ ہے کہ بلاشبہ حزن، آزمائش اور بلاء ہے۔ وہ رنج و فکر اور مرض کی مانند ہے۔ لیکن منازل سلوک میں سے نہیں ہے۔ لہذا آپ کو خوشی اور انشراح حاصل کرنا چاہئے۔ اللہ سے اچھی زندگی، خوشگوار زیست، دل کی صفائی اور خوشی و شادمانی کی دعا کیجئے کیونکہ نعمتیں جلد ہی ختم ہونے والی ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں جو جنت (شکر و تحدیثِ نعمت) ہے جو اس میں داخل نہ ہو وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہ ہوگا۔ صرف اللہ ہی سے اس کی دعا کی جاسکتی ہے کہ وہ ہمارے سینوں کو یقین کے نور سے بھر دے، ہمارے قلوب کو صراطِ مستقیم کی ہدایت دے اور ہمیں تنگی اور مشقت کی زندگی سے بچائے۔



ادعیہ ماثورہ

یہاں رک کر آئیے اللہ تعالیٰ سے غم و آلام اور حزن و کرب کو دور کرنے کی دعائیں مانگیں اس سلسلہ کی چند دعائیں یہ ہیں:

- ☆ ”لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الکریم یا حی یا قیوم لا الہ الا أنت برحمتک استغیث“
- ☆ ”اللهم رحمتک أرجو فلا تکلنی الی نفسی طرفة عین وأصلح لی شانئی کلہ، لا الہ الا انت“
- ☆ ”استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الی القیوم وأتوب الیہ“
- ☆ ”لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین“
- ☆ ”اللهم انی عبدک وابن عبدک و ابن امتک، ناصیتی بیدک ماض فی حکمک، عدل فی قضاءک، أسئلك بكل اسم هولک سمیت به نفسک أو انزلتہ فی کتابہ أو علمتہ أحدأ من خلقک أو استأثرت به فی علم الغیب عندک، أن تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، وذهب همی وجلاء حزنی، اللهم انی اعوذبک من الهم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن، وضيع الدين وغلبة الرجال۔“
- ☆ حسبنا الله ونعم الوکیل۔

مسکرائے

اعتدال کے ساتھ ہنسا مسکراتا تفکرات و ہوم کے لئے تریاق اور مرہم ہے۔ روحانی خوش قلبی شادمانی میں اس کا بڑا کردار ہے۔ حتیٰ کہ ابودرداءؓ فرماتے ہیں ”میں اس لئے ہنستا ہوں کہ میرے قلب کو

آرام ملے۔“ محسن انسانیت بھی کبھی کبھار ہنستے تھے آپ کے سامنے کے دانت نظر آ جاتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی ہنسی ہے جو عقل والے ہیں اور نفس کی بیماریوں اور ان کی دوا کا علم رکھتے ہیں۔ خوشی کی انتہا آرام اور انبساط کی کامل شکل ہنسی ہے۔ لیکن اس میں زیادتی نہ ہونی چاہئے۔ کثرت سے ہنسنا دل کو ماردیتا ہے۔ اعتدال اختیار کرنا چاہئے

”بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے۔“

فرمایا ”ان کی بات سن کر وہ فرشتہ ہنس پڑا“

لیکن مذاق اور استہزاء والی ہنسی نہیں ”جب وہ ہماری آیات لے کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ

ٹھٹھا کرتے ہیں۔“

اہل جنت کو جو نعمتیں ملیں گی ان میں ہنسی بھی ہے۔ ”آج وہ کفار پر ہنستے ہوں گے“ (۳۰:۸۳)

عرب ہنسنے والوں کی تعریف کرتے تھے اور اسے سخاوت و کشادہ دلی اور حسن اخلاق کی نشانی

سمجھتے تھے ایک شاعر کا قول ہے:

ضحوك السن يطرب للعطايا

و يفرح إن تعرض بالسؤال

زہیر نے اپنے ممدوح ہرم کی تعریف میں کہا جس کا مطلب یہ ہے کہ ”اس کے پاس تم آؤ گے تو

اُسے اتنا ہنسا دیکھو گے گویا وہ ہنسی تم اسے دے رہے ہو۔“ واقعہ یہ ہے کہ اسلام عقائد، عبادات، اخلاق،

سلوک وغیرہ میں میانہ روی اور اعتدال پر قائم ہے اس میں نہ تنگ دلی ترش روئی اور تیوری چڑھانے

کی گنجائش ہے، نہ زور زور سے تعقیبہ لگانے کی۔ بلکہ سنجیدگی اور وقار و متانت ہو اور مزاج میں شادابی

و مزاج ہو۔ ابو تمام اپنے ممدوح کی تعریف یوں کرتا ہے: ”میں ابوعلی پر فدا ہوں کہ وہ امیدوار کے لئے

صبح کا پیغام برستارہ ہے، خوش مزاج ہے، سنجیدگی اختیار کرتا ہے، کبھی کبھار ہزل گوئی بھی کرتا ہے، لیکن

ہزل اس کا وطیرہ نہیں۔“

چہرہ سکیڑنا اور ترش روئی اس بات کی علامت ہے کہ مزاج میں صفائی نہیں دل میں تنگی ہے

جوشیلا پن زیادہ ہے، فرمایا ”پھر اُس نے منہ بنایا اور ترشی اختیار کر لی۔“ (۱:۸۰)

غم نہ کریں

ان کے چہرے تکبر کے مارے ترش پڑے ہیں گویا کہ آگ بھری ہے۔ وہ ایسے لوگ نہیں کہ جن سے تم ملو تو وہ ایسے ستارے لگیں جن کی روشنی میں لوگ سفر کرتے ہیں۔ احمد امین نے ”فیض الخاطر“ میں لکھا ہے ”ہنسی خوشی رہنے والے صرف اپنے لئے ہی خوش نصیب نہیں ہوتے بلکہ وہ اس طرح کام بھی زیادہ کرتے ہیں، زیادہ ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، مصائب و مشکلات کا زیادہ بہتر سامنا کر لیتے ہیں لوگوں کے لئے زیادہ فائدہ مند اور بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ اگر مجھے مال کثیر کے ساتھ اہم منصب اور ہنستے مسکراتے مطمئن نفس کے مابین اختیار دیا جائے تو میں دوسرے کوچوں گا۔ ترش روئی کے ساتھ مال کا کیا فائدہ؟ تنگ دلی کے ساتھ منصب کا کیا حاصل؟ اگر آدمی ایسے رہتا ہو جیسے ابھی ابھی کسی عزیز کے جنازہ سے آیا ہے تو زندگی کے اسباب و متاع اس کے کس کام کے، بیوی کی خوبصورتی کا کیا ہوگا اگر وہ خوش مزاج نہ ہو اور گھر کو دوزخ بنا کر رکھ دے؟ اس سے تو ہزار درجہ وہ بیوی بہتر ہے جو اتنی خوبصورت نہ ہو لیکن اپنے گھر والوں کو خوش رکھے۔ ظاہری اور نمائشی خوش مزاجی مفید نہیں۔ انسان کو مسکرانا چاہئے کیونکہ اس کا پورا ماحول مسکراتا ہے۔ پھول، جنگلات، نہریں، آسمان اور پرندے سب خوشیاں بکھیرتے ہیں۔ اپنی فطرت سے انسان بھی خوش طبع ہے، کبھی کبھار جو انسانیت، طبع اور شر سے لائق ہوتے ہیں اُس سے وہ ترش رو ہو جاتا ہے۔ اور فطرت سے دور ہو جاتا ہے۔ جو ترش رو ہوگا وہ جمال کا ادراک نہیں کر سکتا۔ جس کا دل میلا ہو اُسے حقیقت دکھائی نہیں دے گی۔ کیونکہ ہر انسان دنیا کو اپنے خیال، عمل اور محرکات کے چشمے سے دیکھتا ہے۔ اگر عمل اچھا ہوگا، محرکات صحیح ہوں گے، فکر پاکیزہ ہوگی تو اس کا آئینہ دل بھی صاف ستھرا ہوگا لہذا دنیا اُسے اچھی اور خوبصورت نظر آئے گی۔ اگر آئینہ ہی میلا ہو، اس کا شیشہ کالا پڑ جائے تو ہر چیز کالی اور میلی دکھائی دے گی۔

بعض آدمی ہوتے ہی ایسے ہیں جو ہر چیز کو بدبختی میں بدل دیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہر چیز کو خوش گوار بنا دیں۔ گھر میں عورت اگر ہر چیز کو بری نظر سے ہی دیکھے، کوئی برتن ٹوٹ گیا، کسی وقت کھانے میں نمک تیز ہو گیا، کمرہ میں کاغذ کا کوئی ٹکڑا نکل آیا اور وہ لگے شور مچانے، برا بھلا کہنے اور گالیاں دینے، گھر کے ہر فرد کو کانٹے کو دوڑے تو ظاہر ہے کہ ایسا گھر جہنم بن جائے گا۔ گھر میں آدمی ایسا ہے کہ کوئی بات سن لے تو اس کا برا مفہوم نکالے، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوگئی۔ کوئی نقصان پہنچ گیا، فائدہ

کی امید تھی نہیں ہوا تو اب پوری دنیا ہی مایوس اور تنگ و تاریک ہو گئی۔ لگا اپنے ارد گرد کے لوگوں کی نظر میں بھی اسے تاریک کرنے، پھر کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہیں بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے، مبالغہ کرنے میں مزاملتا ہے تو وہ رائی کا پر بت بنا دیں گے۔ بیج کا درخت تیار کر دیں گے۔ خیر کی عادت نہ ہو تو ایسے لوگ کتنا ہی کچھ زندگی میں پا جائیں، کبھی خوش نہ ہوں آرام سے نہ رہیں۔

زندگی ایک فن ہے۔ ایسا فن جسے سیکھا جائے۔ انسان کے لئے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں وہ پھولوں، خوشبوؤں اور محبت کے لئے محنت کرے بجائے اس کے کہ وہ اپنی جیب میں بھرنے یا بینک بیلنس بنانے کے لئے محنت کرے۔ زندگی اگر مال و دولت جمع کرنے میں صرف کی جائے، محبت، جمال اور رحمت کے حصول کی کوئی جدوجہد نہ کی جائے، تو اس زندگی کے معنی ہی کیا ہیں؟ بہت سے لوگ زندگی کی خوشیوں کے لئے اپنی آنکھیں کھولتے ہی نہیں۔ انہیں بس درہم و دینار دکھائی دیتے ہیں۔ وہ خوشبو دار باغ، خوبصورت پھولوں، اُبلتے چشموں، چھپاتے پرندوں پر گزرتے ہیں لیکن ان کی طرف رُخ نہیں کرتے ان کی ساری توجہ آنے اور جانے والے پیسے کی طرف ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہئے کہ روپیہ پیسہ کو خوشگوار زندگی کا وسیلہ ہونا چاہئے تھا لیکن لوگوں نے معاملہ الٹ دیا ہے اور درہم و دینار کی وجہ سے خوشگوار زندگی کو بیچ دیا، آنکھیں ہمیں اس لئے دی گئی ہیں کہ ہم جمال کا نجات سے شاد کام ہوں لیکن ہم صرف روپیہ پیسہ دیکھتے ہیں۔

مایوسی قلب اور روح کو سب سے زیادہ ترش رو بناتی ہے لہذا اگر ہنسنا مسکرانا چاہتے ہیں تو مایوسی سے لڑیے۔ فرحت آپ کو اور تمام لوگوں کو ملی ہے کامیابی کا دروازہ بھی سب کے لئے کھلا ہے۔ پس اپنے آپ کو عادی بنا دیجئے کہ امیدیں جاگیں اور مستقبل میں خیر کی امید رکھیں۔ اگر آپ یہ خیال کرنے لگیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے پیدا ہوئے ہیں تو پھر زندگی میں چھوٹے ہی کام کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ سمجھیں کہ بڑے کاموں کے لئے بنے ہیں تو آپ میں اتنی ہمت پیدا ہو جائے گی جس سے ساری رکاوٹیں دور اور اڑ چکیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ اپنے بلند مقصد اور وسیع میدان کو پالیں گے۔ زندگی میں اس کا تجربہ برابر ہوتا رہتا ہے مثلاً جو شخص ۱۰۰ میٹر کی دوڑ میں حصہ لے گا وہ ۱۰۰ میٹر دوڑ کر تھک جائے گا لیکن جو ۶۰۰ میٹر کی دوڑ میں حصہ لے گا وہ ۱۰۰ یا ۲۰۰ میٹر دوڑ کر تھکے گا

نہیں کہ جتنا ارادہ ہے ویسی ہی ہمت پیدا ہو جائے گی :

فکر ہر کس بقدر ہمت اوست

لہذا اپنا مقصد متعین کیجئے۔ بلندی مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ جب روزانہ ایک قدم بھی اس کی طرف بڑھائیں گے تو کیونکر حاصل نہ ہوگی۔ ہاں اگر مایوسی ہوگی، اُمید کا فقدان ہوگا آدمی برائیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو جہنم بنا ڈالے گا، لوگوں کے عیوب ڈھونڈتا پھرے گا، بس برائیوں کی بات ہی کرتا رہے گا تو ظاہر ہے کہ اس سے اس کی زندگی تنگ اور دشوار ہوگی وہ اسے ایک تاریک جیل خانہ لگے گی۔ اس تعلق سے انسان کو سب سے زیادہ مدد اس سے ملتی ہے کہ اسے کوئی ایسا مربی اور مرشد نصیب ہو جائے جو اس کے فطری خوبیوں اور صلاحیتوں کو بڑھادے اس کے آفاق وسیع کر دے، اسے کشادہ دلی و وسعت قلبی سے نوازے، اسے بتائے کہ بڑا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں جتنا بھی ممکن ہو لوگوں کے لئے خیر و خوبی کا سرچشمہ بنے۔ ایسا سورج بن جائے جس سے روشنی محبت اور خیر کا اجبارا پھیلے، اس کا دل انسانی خیر خواہی، بھلائی اور شفقت سے مملو ہو۔ اُس سے جو بھی قریب ہو اُسے بھلائی پہنچے ایسا ہی نفس ہوتا ہے جو مشکلات و مسائل کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ ان پر غلبہ پانے سے اسے لذت ملتی ہے، وہ ان کا مقابلہ ہنستا مسکراتا کرتا ہے اور زیر لب دہراتا ہے۔

چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے

اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے

اس کے برعکس ترش رو مشکلات کو دیکھ کر سہم جاتا ہے، اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے، وہ اگر مگر سے اسے ٹالتا ہے۔ حالانکہ جس زمانہ کو وہ برا بھلا کہتا ہے وہ اس کے مزاج کے سوا کچھ نہیں۔ اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے کہ زندگی میں کامیابی تو چاہتا ہے لیکن اس کی قیمت ادا کرنا نہیں چاہتا۔ اسے ہر راستہ میں شیر بہر بیٹھا دکھائی دیتا ہے۔ وہ بے چارہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ آسمان سے سونا برسے یا زمین سے خزانہ نکل آئے۔ مشکلات زندگی ایک اضافی امر ہے۔ چھوٹے آدمی کے لئے ہر چیز مشکل ہے، بڑے آدمی کے لئے کچھ مشکل نہیں۔ بڑے لوگوں کی عظمت میں مشکلات و مصائب سے مقابلہ اضافہ کرتا ہے، جب کہ چھوٹے لوگ مشکلات سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں تو ان کے چھوٹے پن میں

اضافہ ہو جاتا ہے۔ مشکلات کٹ کھٹے کتے کی طرح ہیں اُسے دیکھ کر تم ڈر جاؤ اور دوڑ پڑو تو بھونکنے لگا اور تمہارے پیچھے دوڑے گا اور اگر تم اسے اہمیت نہ دو، خم ٹھونک کر اُس کے سامنے جاؤ تو اپنے خول میں سمٹ جائے گا اور تمہیں راستہ دے دے گا۔

پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی کے لئے اس سے بڑا کوئی قاتل نہیں کہ وہ اپنے کو بے قیمت، عاجز اور کمزور سمجھ لے۔ اُس سے کوئی بڑا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی بڑے خیر کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ بے وقفی کا یہ احساس آدمی سے خود اعتمادی چھین لیتا ہے وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اُس کی کامیابی کے امکان میں اور اپنی صلاحیت میں شک کرتا ہے، ہمت پست ہو جاتی ہے اور وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ خود اعتمادی بہت بڑی فضیلت ہے، زندگی میں کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے، لیکن خود اعتمادی اور غرور نفس میں بڑا فرق ہے، مؤخر الذکر بڑی نیچ اور گھٹیا چیز ہے۔ دونوں کے مابین فرق یہ ہے کہ غرور میں انسان خام خیالی اور تکبر پر بھروسہ کرتا ہے اور خود اعتمادی میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ذمہ داری اٹھانے اور نبھانے کا یقین ہوتا ہے۔ اس میں اس کی صلاحیت قوی اور استعداد بڑھ جاتی ہے۔ ایلیا ابوماضی کی ایک نظم میں یہ مضمون بڑی خوبی سے بیان ہوا ہے۔

”اس نے کہا کہ آسمان پر مردہ اور ترش رو ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے آسمان کو پر مردہ رہنے دو لیکن تم تو مسکراؤ۔ اس نے کہا نوجوانی گزر گئی میں نے کہا ٹھیک ہے پھر بھی مسکراتے رہو کہ افسوس کرنے سے گزرنا زمانہ واپس نہیں آئے گا۔ اس نے کہا میں نے پیار کیا اسے اپنا سب کچھ دے دیا لیکن اُس نے میرے عہد و پیمان توڑ دئے میرا دل توڑ دیا، اب کیسے میں ہنس سکتا ہوں، بے وفائی سے میری زندگی جہنم بن گئی۔ میں نے کہا تمہارے لئے خوشی کی بات ہے کہ اُس سے پیچھا چھوٹا۔ اس سے شادی ہو جاتی تو ساری عمر روتے رہتے۔ کہا کہ تجارت میں بڑا کمپیشن ہے اس کا حال پیاسے مسافر کا سا ہو رہا ہے یا جیسے کوئی ڈائن ہو جو خون پی رہی ہو اور خون کی پھنکار مار ہی ہو۔ میں نے کہا خوش ہو کر ہی تم تجارت کی بیماری کا علاج کر سکتے ہو۔ مجرم دوسرے ہیں اور خوف میں تم رہتے ہو؟ کہنے لگا مجھے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، ان کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کا گھیراؤ مجھے کب خوش ہونے دے گا۔ میں نے کہا تم ان سے بڑے اور بڑھ کر ہو تبھی وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ احباب کو دینا مجھ پر لازم ہے

غم نہ کریں

جب کہ جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ خوشی مناؤ، زندہ تو ہو، مردوں میں شمار نہیں ہوتے۔ کہنے لگا کہ گردشِ زمانہ نے مجھے کڑوے کیلے پھل توڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں نے کہا اس کے باوجود خوش رہو کہ تمہاری کسی خوشی سے کوئی دوسرا خوش ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ ایک درہم کھوجانے پر رنج کرنے سے فائدہ ہے یا دل کی خوشی کھوجانا بڑا نقصان ہے؟ اس لئے ہنسوسکراؤ، تاریک راتوں میں شہاب ہنستے ہیں اسی لئے تارے ہمیں محبوب ہیں، کہنے لگا جو آدمی بھی دنیا میں آیا اسے خوشی کہاں ملتی ہے

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے

یہ عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے

میں نے کہا ”جب تک آپ کے اور موت کے بیچ ایک بالشت بھر بھی فاصلہ ہے تو ہنسنے کا موقع

بھی باقی ہے۔“

ہمیں اس خوشی، انشراحِ صدر، کشادہ دلی، نرم خوئی، سخاوت، ہنسی و مسکراہٹ کی بہت ضرورت ہے۔ حدیث میں ہے: ”اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ تو وضع اختیار کرو کہ نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے نہ کوئی کسی کی ہنسی اڑائے۔“

غم نہ کریں

غم نہ کریں۔ آپ اس کا تجربہ کر چکے ہیں۔ بیٹا فیمل ہو گیا آپ کو غم ہوا، تو کیا غم سے وہ کامیاب ہو جائے گا؟۔ والد کی وفات ہو گئی آپ سوگ منا رہے ہیں تو کیا سوگ سے وہ واپس آجائیں گے؟ تجارت میں نقصان ہو گیا آپ نے رنج کیا تو کیا رنج سے نقصان فائدے میں بدل جائے گا؟ غم نہ کریں کیونکہ آپ ایک مصیبت پر غمگین ہوں گے، مصائب کا ڈھیر لگ جائے گا۔ فقر و فاقہ پر بے چینی ہوئی اور مصیبت بڑھ گئی۔ دشمنوں کی باتیں سوچ کر فکر مند ہوئے، اس طرح ان کی ہی مدد کر بیٹھے، آپ کو کسی آفت کا اندیشہ لاحق ہوا وہ نہیں آئی۔ غم نہ کرنا چاہئے کہ غم کے ساتھ وسیع گھر، خوبصورت بیوی، مال و دولت جاہ و منصب اور لائق لڑکے کچھ کام نہ دیں گے۔ غم نہ کیجئے کہ حزن و ملال

ٹھنڈے پانی کو کڑوا، عرق گلاب کو ایلوا، باغ کو صحراء اور زندگی کو ناقابل برداشت قید خانہ بنا دے گا۔
حزن و ملال کو قریب نہ آنے دیجئے کہ آپ کے پاس دو آنکھیں ہیں دوکان ہیں، دو ہونٹ ہیں دو ہاتھ
دو پاؤں، زبان اور امن و امان و عافیت ہے۔ صحت حاصل ہے۔

”تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے“ (سورۃ الرحمن)

آپ غم کیوں کریں جب کہ دین و عقیدہ کی نعمت حاصل ہے، گھر میں رہتے ہیں، روٹی کھاتے
ہیں، پانی پیتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، ساتھ دینے اور آرام پہنچانے کے لئے بیوی ہے، پھر غم کا کیا جواز؟

غم کی نعمت

رنج و الم ہمیشہ ہی برائیاں ہوتا نہ ہمیشہ ہی ناپسندیدہ، کبھی کبھی بندے کے لئے رنج کرنا بہتر ہوتا
ہے۔ جب دکھ ہوتا ہے تو والہانہ دعا اور سچی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ طالب عالم زمانہ طالب علمی میں
تکلیف اٹھاتا ہے اس کی محنت اسے بڑا عالم بنا دیتی ہے کیونکہ شروع میں اس نے محنت کی اس لئے آخر
میں وہ چمک گیا۔ شاعر بھی پہلے اچھا خاصا دکھ جھیلتا ہے، اپنے دل و جگر کا خون کرتا ہے اس کے بعد ہی وہ
موثر ادب تخلیق کرتا ہے جو خوبصورت اور دل کش بھی ہوتا ہے اور جاذب نظر بھی۔ جو طالب علم آرام
و سکون کی زندگی گزارتا ہے، اسے بحر انوں اور مشکلات سے گزرنا نہیں پڑتا ایسا طالب علم ہمیشہ کسل مند،
سست اور کاہل رہے گا وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ جو شاعر تکلیف نہیں اٹھاتا اپنے دل و جگر کا خون نہیں کرتا درد
کا اسے احساس نہیں ہوتا، اُس کی شاعری پر اثر اور زندہ جاوید نہیں ہوتی کیونکہ وہ شاعر کے منہ سے نکلتی
ہے دل سے نہیں۔ اس کی زبان سے ادا ہوتی ہے اس کے دل اور ضمیر محسوس نہیں کرتے۔

ان سے بھی بلند اور ارفع مثال ان مومنین کی زندگی ہے جو صدر اسلام میں ہوئے جب کہ بعثت
کا آغاز ہوا اور ملت محمدیہ کی ابتدا ہوئی۔ کیونکہ ان کا ایمان بلند تھا ان کے دل نیک تھے، وہ قول کے سچے
اور علم میں گہرے تھے کیونکہ انہوں نے مصیبتیں جھیلیں، شدائد اٹھائے، بھوک پیاس، تکلیفیں برداشت
کیں گھروں سے نکالے گئے، اپنے پیاروں کو چھوڑنا پڑا، مرغوبات سے ہاتھ دھویا۔ اس طرح وہ اللہ کے
منتخب بندے اور چنیدہ جماعت بنے۔ وہ پاکیزگی کی مثال، عزت کی نشانی اور قربانی کی علامت تھے۔ یہ

غم نہ کریں

اس وجہ سے کہ انہیں جو بھی بھوک پیاس، اذیت اور تکلیف پہنچی، جو بھی قدم انہوں نے اٹھائے جس سے کفار ناراض ہوئے، دشمنوں کو جو بھی زک انہوں نے پہنچائے، اس کے بدلے ایک عمل صالح لکھ دیا گیا
”اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا“ (۱۲:۱۲۰)

ان کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے رنج و الم اٹھائے اور اس کے بعد بہترین تخلیقات پیش کیں مثلاً کوشدید بخار ہوا تو اس نے اپنا شاہکار قصیدہ کہا:

وزائر تى كأن بها حياة

فليست تزور إلا فى الظلام

نابغذوا لعثمان بن المذرر نے نقل کی دھمکی دی جس کے بعد اس نے اپنا بہترین قصیدہ کہا کہ

فانك شمس والملوك كواكب

اذا طلعت لم يبدمنهن كوكب

ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے درد اٹھائے اور زندگی پر اثر انداز ہوئے۔

لہذا آپ تکالیف پر گھبرائیں نہیں نہ ڈریں، یہ آپ کے لئے قوت بن جائیں گی اور متاع حیات کا کام دیں گی، اگر آپ دل جلے کی حالت میں رہیں جذبہ دل اور تڑپتی روح کے ساتھ ہوں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ٹھنڈے ٹھنڈے کم ہمت بن کر بجھے بجھے دل کے ساتھ جنیں

”اللہ نے ان کے اٹھنے کو ناپسند کیا اس لئے ان کی ہمت تو زردی اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے

والوں کے ساتھ بیٹھ رہو۔“ (۲۶:۹)

یہاں پر مجھے وہ شاعر یاد آیا جس نے جدائی و فرقت کا کرب برداشت کیا، شدائد سے گزرا۔ اس نے آخری سانسیں لیتے ہوئے جو قصیدہ کہا وہ عربی ادب میں زندہ جاوید ہو گیا اور اس نے اسے امر کر دیا۔ وہ مالک بن الریب ہے اور اس کا قصیدہ فطری جوش سے پر، تکلف و تصنع سے عاری، شاہکار اور مشہور ہے۔ اس نے یوں کہا۔

ألم ترني بعث الضلالة بالهدى

واصبحت فى جيش ابن عفان غالياً

فلله درى يوم أترك طائعا

بنى بأعلى الرقمتين و ماليا للبحر

کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے ضلالت کو ہدایت کے بدلہ بیچ دیا ہے اور میں ابن

عفان کے لشکر میں شامل ہو کر لڑ رہا ہوں پس اللہ ہی کا احسان ہے کہ میں اس کی

اطاعت میں مقامِ رقتین میں اپنے بیٹوں اور مال کو چھوڑ رہا ہوں۔ الخ

اس قصیدہ کے آخر تک یہی لہجہ اور لے ہے۔ یہی درد انگیز نالہ ہے، یہی دل سے نکلی چیخیں

ہیں۔ اس کی تاثیر کا راز یہی درد و الم کی تصویر ہے۔ جو واعظ اور خطیب دل جلا ہوتا ہے اور درد کی تصویر

کھینچتا ہے اس کے بول اور خطاب راست اثر کرتے ہیں۔ اسے بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ ”از دل خیزد

بر دل ریزد“ کی سچی مثال ہے۔ فرمایا

”اللہ نے جان لیا ان کے دل کی تڑپ کو اور ان پر سکینیت نازل کی اور قریب کی فتح عطا کی۔“

(۱۸:۴۸)

ایک شاعر نے کہا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عاشق کے عشق اور اُس کے درد پر تم اُس وقت تک

ملا مت نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہارے دل کی گہرائیوں میں بھی وہی درد نہ اتر آئے۔ میں نے بہت

سے شاعروں کے دیوان دیکھے لیکن چونکہ انہیں خود درد و الم کے تجربوں سے گزرنا نہیں پڑا اسی لئے وہ

محض مضمون آفرینی کی مثال ہیں ان میں نہ زندگی ہے نہ روح۔ اسی طرح بہت سی کتابیں وعظ و نصیحت

کی دیکھیں لیکن سامع پر کوئی اثر نہیں پڑتا، مخاطب ان سے کوئی اثر نہیں لیتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ الفاظ کا

مجموعہ ہیں زبان سے انہیں ادا کر دیا جاتا ہے، نہ درد کا احساس نہ جذبہ کی گرمی۔

”وہ اپنے منہ سے وہ چیز نکالتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔“ (۱۶:۳)

لہذا آپ اپنے کلام یا شعر کو موثر بنانا چاہتے ہیں تو پہلے خود اُس کی آگ میں جلئے، اُس کا اثر

لیجئے، اس کے ساتھ چلئے، آپ دیکھیں گے کہ لوگوں پر آپ اثر انداز ہوں گے۔

”پھر جب ہم اس پر باز شمس برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور ہر قسم کی رونق

دارناتات اگائی ہے۔“ (۵:۲۲)

معرفت کی نعمت

”وَعَلِمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا“
 جہل ضمیر کی موت ہے وہ زندگی کو ذبح کرنا ہے اور یہ عمر کا ضیاع بھی ہے

”میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں“

علم نور بصیرت ہے، روح کی زندگی ہے، طبیعت کی قوت ہے۔

”کیا وہ جو مردہ تھا اور ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے لئے ایک روشنی دے دی جس میں

وہ چلتا ہے لوگوں کے بیچ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو تارکیوں میں ہو، ان سے نکل نہ پاتا ہو“

سرور و انبساط علم کے ساتھ آتے ہیں کیونکہ علم نامعلوم کے حصول اور گم شدہ کی تلاش اور چھپے

ہونے کے اکتشاف کا نام ہے۔ آدمی کے دل کو جدید کی معرفت اور نئے کی اطلاع کی چاٹ لگی ہوئی

ہے۔ اس کے مقابلہ میں جہل اکتاہٹ اور حزن کا نام ہے وہ ایسی زندگی ہے جس میں کچھ بھی نیا نہیں۔

نہ لطف نہ مٹھاس۔ کل آج کی مانند آج کل کی طرح۔ لہذا اگر آپ خوش گوار زندگی چاہتے ہیں تو علم

حاصل کیجئے، معرفت کی تلاش کیجئے، فائدے حاصل کیجئے تاکہ آپ کے تمام تفکرات اور رنج و محن ختم

ہو جائیں

”کہئے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما“ (۱۱۴:۲۰)

”پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا“ (۱:۹۶)

”جس کے ساتھ اللہ خیر چاہتا ہے اسے دین کا تقفہ عطا کرتا ہے۔“ (حدیث)

جو شخص جاہل ہے معرفت میں صفر ہے اسے اپنے مال و جاہ پر فخر کا کوئی حق نہیں کیونکہ اس کی

زندگی مکمل نہیں اس کی حیات کامل نہیں ”کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے

اوپر حق نازل ہوا ہے اس کی طرح ہے جو اندھا ہو“ (۱۹:۱۳)

مفسر زبختری فرماتے ہیں

سحری لتنقیح العلوم الذالی

من وصل غانیة وطیب عناق (الرح)

”علوم کی تنقیح کے لئے میرا جاگنا میرے لئے کسی دو شیزہ کے وصل اور ہم آغوشی سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔ کسی مشکل کو حل کرنے کے لئے میرا خوشی سے جھومنا ساقی کے پیالہ سے زیادہ لذیذ اور میٹھا ہے۔ میرے قلم کے کاغذ پر چلنے کی جو آواز نکلتی ہے وہ عاشقوں کے نعموں سے بہتر ہے۔ اپنے کاغذات سے گردوغبار کو بھانڈنے کی آواز اس آواز سے زیادہ اچھی ہے جو دو شیزہ اپنا دف بجا کر نکالتی ہے۔ سن اے وہ شخص! جو محض آوازوں سے میرا تہہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں رات بھر جاگوں تم رات بھر سوؤ اس کے باوجود تم میرا مقام پالینا چاہتے ہو؟“

معرفت کا کیا مقام ہے؟ آدمی معرفت حاصل کر کے کتنا خوش ہوتا ہے، اس سے سینہ کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کتنا خوش ہوتا ہے۔

”پس وہ اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل کے ساتھ ہو اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کی بد عملیاں اسے اچھی لگتی ہوں جو اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہا ہو؟“ (۱۴:۴۷)

خوش رہنے کا فن

بہت بڑی نعمتوں میں سے دل کی خوشی ہے، اس کا استقرار، آرام اور سکون ہے۔ دل کی خوشی میں ذہن کا ثبات ہے، روحانی مسرت و شادمانی ملتی ہے جدت و اختراع کی صلاحیت بیدار ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خوش رہنا ایک فن ہے، اسے سیکھا جاسکتا ہے، جو اسے سیکھ لے اس کے حصول کا طریقہ جان لے تو وہ زندگی کی خوشیاں لوٹ لیتا ہے، ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے جو اس کے چاروں طرف بکھری پڑی ہیں۔ اس سلسلہ میں اصل الاصول یہ ہے کہ آدمی میں قوت برداشت ہو، وہ رکاوٹوں پر نڈب اور حوادث پر مضطرب نہ ہو، چھوٹی باتوں پر پریشان نہ ہو۔ جتنا دل مضبوط ہوگا صاف ہوگا اتنا ہی روح کو نور حاصل ہوگا۔ فطرت کی کجی کا مقابلہ نہ کر پانا، نفس کا مضطرب ہو جانا، رنج و فکر اور آلام

غم نہ کریں

وہوم کے محرکات و اسباب ہیں۔ جو آدمی اپنے کو صبر و برداشت اور سختی کا عادی بنائے گا اس کے لئے پریشانیاں اور بحران سب آسان ہو جائیں گے۔ جب آدمی موت کا عادی ہو جائے تو تمام مصائب اس کے لئے بہت آسان ہو جائیں۔ خوشی کے دشمنوں میں وہنی افق کا تنگ ہونا، تنگ نظری اور بس اپنے آپ ہی کو دیکھنا بقیہ دنیا کو اہمیت نہ دینا ہے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کی حقیقت ہے کہ ”انہیں بس اپنی ہی پرواہ رہتی ہے“ گویا یہ کوتاہ نظر ساری کائنات اپنے آپ ہی میں محصور سمجھتے ہیں، دوسروں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ وہ دوسروں کے لئے زندگی نہیں گزارتے نہ دوسروں پر توجہ دیتے ہیں۔ ہمارے آپ کے لئے ضروری ہے کہ کبھی کبھی ہم دوسروں کے ساتھ بھی جنیں۔ کچھ وقت اپنے خول سے نکلیں تاکہ اپنے آلام و مصائب، مسائل و مشکلات اور رنج و فکر کو بھول جائیں۔ اس طرح ہم اپنے آپ کو راحت دے سکیں گے اور دوسروں کو بھی۔

خوش رہنے کے فن کا ایک اصول:

آپ سوچ اور فکر کو لگام دیں اسے آزاد نہ چھوڑیں کہ وہ ادھر ادھر دوڑے اور جلد بازی میں سرکشی کر بیٹھے۔ اگر اسے آزاد چھوڑ دیا تو وہ آپ پر تفکرات کی ایک فائل کھول دے گا۔ پیدائش سے لے کر اب تک کے حادثوں اور المیوں کا قصہ لے بیٹھے گا۔ زخم خوردہ ماضی اور اندیشہ ناک مستقبل آپ کے سامنے لائے گا۔ جس سے آپ ہل کر رہ جائیں گے۔ آپ کے احساسات کو ٹھیس لگے گی، جذبات مجروح ہوں گے۔ اس لئے اسے لگام دے کر شرنیز، سنجیدہ و متین عمل کی طرف اس کا رخ موڑ دیجئے۔

”اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے جسے کبھی موت نہیں۔“ (۵۸:۲۵)

خوش رہنے کا ایک اصول

خوش رہنے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ دنیا کو بس اتنی ہی اہمیت دیں جتنی اہمیت کی وہ حامل ہے۔ اس کو اس کے صحیح درجہ پر رکھیں۔ واقعتاً وہ لہو و لعب ہے اس لئے اس سے اعراض و بے توجہی ہونی

چاہئے۔ وہ بہت سی چیزوں سے جدا کرتی، المیوں کو لاتی، غموں کی بارش کرتی ہے، تو جو ایسی ہو، اس کا زیادہ اہتمام کیوں؟ اس کے فوت شدہ پر رنج کیوں ہو؟ اس کا صاف بھی گدلا، اس کی چمک بھی پرفریب، اس کے وعدے صحراء کا سراب، جو اس میں پیدا ہوا وہ مر جائے گا۔ اس کے سردار سے حسد کیا جاتا ہے، جو احسان کرنے والا ہوتا ہے اُسے دھمکیاں دی جاتی ہیں، اس کے عاشق کے ہاتھ دھوکہ ا در فریب کے سوا کچھ نہیں آتا۔ دنیا کے بارے میں عربی شاعر کہتا ہے:

”بھائیو! ہم ایسی ہستی میں رہتے ہیں جہاں جدائی کی خبر دینے والا کوئی کامیں کائیں کرتا رہتا ہے۔ ہم دنیا پر روتے ہیں حالانکہ دنیا میں کون سے لوگ ہیں جو جدا نہیں ہوتے۔ وہ جبار اور بڑے بڑے بادشاہ کہاں گئے جنہوں نے بڑے خزانے جمع کئے۔ نہ وہ بچے نہ ان کے خزانے۔“

مئے نامیوں کے نشان کیسے کیسے

زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے

حدیث میں آتا ہے کہ ”علم سیکھنے سے اور بردباری عمل سے آتی ہے“ آداب زندگی کے ضمن میں کہا جاتا ہے کہ خوشی، خوش رہنے، مسکراہٹ، طاری کرنے، مسکرانے کے اسباب پیدا کرنے اور شادماں سامنے کی کوشش سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر یہی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ زندگی اکتاہٹ، کڑواہٹ اور ترش روئی کی مستحق نہیں۔ عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

”مخلوق میں موت کا فرمان جاری ہے، یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں، یہاں کبھی آدمی دوسرے کی خبر دیتا ہے کہ اچانک خود ہی خبر بن جاتا ہے۔ اس کی فطرت میں کدورت ہے۔ آپ اسے کدورت و آلودگی سے خالی کیوں کر دیکھ سکتے ہیں۔ زمانہ سے وہ طلب کرنا جو اس کی فطرت کے خلاف ہے ایسا ہی ہے جیسے پانی میں آگ کا شعلہ ڈھونڈا جائے۔ آپ ناممکن کی اُمید کرتے ہیں تو مٹی کا گھر و ندا بنا رہے ہیں۔ زندگی نیند ہے موت بیداری ہے۔ ان دونوں کے بیچ آدمی وہم و خیال ہے۔ اپنی ضرورتیں جلد پوری کر لو، زندگی تو سفر کی ایک منزل ہے۔ آپ چاہیں بھی تو گردشِ زمانہ صلح نہیں کرے گی کیوں کہ اس کی فطرت میں غداری ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی سے ساری علاماتِ غم مٹا سکتے ہیں کیونکہ زندگی اسی طرح پیدا

کی گئی ہے۔

”یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے“ (۴:۹۰)

اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا تاکہ ”وہ یہ آزمائے کہ تم میں نیک عمل کون ہے۔“ مقصد یہ ہے کہ آدمی غم، تفکر اور زودرنجی سے بچے۔ بالکل غم کا خاتمہ تو نہیں ہو سکتا وہ تو جنت میں ہی ہوگا اسی لئے جنتیوں کی ایک دعا یہ ہوگی کہ ”الحمد لله الذى اذهب عنا الحزن“ اس کا مطلب یہ ہے کہ غم سے مکمل نجات تو بس جنت میں ملے گی، جیسا کہ فریب اور دھوکے کا خاتمہ بھی وہیں ہوگا۔

”ونزعنا ما فى صدورهم من غل“ سے پتہ چلتا ہے۔ لہذا جو دنیا کی حقیقت، اس کے دھوکے فریب اس کی مکاری اور عیاری کو جان لے گا اسے معلوم ہوگا کہ یہی تو اس کی فطرت اور حقیقت ہے۔ جب معاملہ یہ ہے تو سمجھدار اور دانا وہ ہوگا جو دنیا کو اپنے اوپر قابو پانے کا موقع نہ دے۔ اُس کے غم

وآلام اور فکر کو اپنے اوپر طاری نہ کرے بلکہ ان چیزوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرے

”جتنی استطاعت ہو اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو رعب میں ڈالنے کے لئے

تیاری کرو، طاقت جٹاؤ“ (۶۰:۸)

”اللہ کے راستہ میں جو بھی تکلیفیں انہیں پہنچیں وہ ان کے سبب نہ کمزور پڑے نہ ذلیل ہوئے

اور نہ عاجزی کا اظہار کیا۔“ (۱۳۶:۳)

یہ بھی سوچیں

آپ کو غم نہ کرنا چاہئے کہ اگر آپ محتاج ہیں تو دوسرے قرض دار ہیں۔ اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں تو ایسے بھی ہیں جن کے پیر کٹے ہوئے ہیں اگر آپ کو مصائب کی شکایت ہے تو بہت سے لوگ سالوں سال سے اسپتالوں میں پڑے ہیں اگر آپ کا کوئی لڑکا مر گیا ہے تو ایسے بھی ہیں جن کی اولاد کسی حادثہ میں ماری گئی۔ آپ غم نہ کریں، کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ اللہ، رسول، ملائکہ، یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر آپ کا ایمان ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو رب کے منکر ہیں رسول کی تکذیب کرتے ہیں، کتاب میں ان کا اختلاف ہے، یوم آخرت کا انکار کرتے ہیں اور قضا و قدر میں شک کرتے

ہیں۔ آپ کو غم نہ کرنا چاہئے کیونکہ اگر گناہ کر لیا ہے تو توبہ کر لیجئے، خطا کی ہے تو استغفار کر لیجئے، غلطی کی اصلاح کر لیجئے۔ در رحمت کھلا ہے، خدا کی بخششیں اور رحمت عام ہے۔ وہ توبہ قبول کرتا ہے، آپ غم نہ کریں کیونکہ غم سے آپ کے اعصاب میں تشنج پیدا ہوگا۔ یہ آپ کے وجود کو ہلا دے گا، دل کو پریشان کر دے گا، راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی رت جگا کرنا پڑے گا۔ شاعر کہتا ہے:

”کتنی ہی مصیبتیں ایسی ہیں جن سے آدمی تنگ ہو جاتا ہے حالانکہ اللہ اس سے چھٹکارا دلا سکتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ ان سے بچا نہیں جاسکتا اور اللہ تعالیٰ انہیں دُور کر کے فراموشی عطا کر دیتا ہے۔“

جذبات پر قابو

دو باتوں کی وجہ سے جذبات بے قابو ہوتے اور احساسات بھڑکتے ہیں، جب بڑی خوشی ملے یا جب سخت مصیبت گھیرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا ”مجھے دو قسم کی آوازوں سے روک دیا گیا ہے ایک وہ جو نعمت پا جانے پر نکلتی ہے دوسری وہ مصیبت کے وقت نکلتی ہے۔“ اور فرمایا ”جو چھوٹ جائے اس پر افسوس نہ کرو اور جو نعمت خدا نے دی ہے اس پر اتراؤ مت“ آپؐ نے فرمایا:

”صبر تو واقعی اس وقت ہوتا ہے جب پہلا صدمہ پہنچے۔“

لہذا عظیم خوشی یا شدید مصیبت کے وقت جو شخص اپنے جذبات پر قابو رکھے اسے ثبات کا درجہ، رسوخ کی منزل اور شادمانی اور نفس پر غلبہ کی مسرت حاصل ہو جاتی ہے۔ انسان کے وصف میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اسے خوشی ملتی ہے تو خوشی کے مارے بے قابو ہو جاتا ہے اور جب شریحق ہوتا ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ خیر پہنچتا ہے تو دوسروں کو منع کرتا ہے۔ سوائے ان نمازیوں کے جو گھبراہٹ یا خوشی ہر حال میں اعتدال پر رہتے ہیں۔ آسانی پہنچتی ہے تو شکر کرتے ہیں مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں۔ گرم جذبات آدمی کو مشتعل کر دیتے ہیں۔ اسے مضطرب اور بے چین کر دیتے ہیں۔ اُس کی نیند اڑا دیتے ہیں۔ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ منہ سے جھاگ نکالتا ہے، دھاڑتا اور چلاتا ہے، اس کے جذبات کھولتے ہیں۔ وہ شعلہ جوالہ بن جاتا اور حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اور اگر خوش ہوتا ہے تو پھولے نہیں ساتا، اپنی حد سے نکلنے لگتا اور خوشی کی زیادتی میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، کسی

غم نہ کریں

سے تعلق منقطع کرتا ہے تو اس کی مذمت کرتا، اُس کے محاسن بھول جاتا اور اس کے فضائل سے صرف نظر کر لیتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو بس ساری اچھائی اور فضیلتوں سے اسے متصف کرتا ہے، اس کی تعریف میں آسمان و زمین کے قلابے ملاتا ہے۔ اسی لئے تو حدیث میں آیا ہے:

”اپنے دوست کو حد میں رہ کر پیار کرو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن تمہارے لئے ناپسندیدہ ہو جائے۔ اپنے دشمن سے حد میں رہ کر نفرت کرو ممکن ہے کہ کبھی وہ تمہارا محبوب بن جائے۔“ دوسری حدیث میں ہے

”میں تجھ سے عدل چاہتا ہوں، غضب اور رضا دونوں حالتوں میں“

مومن کو چاہئے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھے اور عقل کو حاکم بنائے۔ چیزوں کو تولے اور مناسب قیمت دے۔ وہ حق کو پہچان لے گا، رشد و ہدایت کو جان لے گا، حقیقت سے واقف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”ہم نے اپنے رسول میں اتنا دے کر بھیجے، ان پر کتنا میں نازل کیں، میزان اتاری تاکہ لوگ عدل قائم کریں۔“ (۲۵:۵۷)

اسلام اقدار اخلاق اور سلوک کی ایک میزان دیتا ہے۔ اس کا راستہ سیدھا، اس کی شریعت مناسب اور اس کی ملت مقدس ہے جیسا کہ فرمایا ”اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔“ لہذا عدل ایک مطلوب رویہ ہے جیسا کہ معاملات و احکام میں بھی انصاف مطلوب ہے کیونکہ دین صدق و عدل پر مبنی ہے۔ اخبار میں سچائی، احکام، اقوال، افعال اور اخلاق میں انصاف جیسا کہ فرمایا ”تیرے رب کا کلمہ صدق و عدل کے لحاظ سے مکمل ہے۔“ (۱۱۵:۶)

صحابہ کرام کی محمد ﷺ کے ذریعہ خوش بختی

ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس ربانی مشن لے کر آئے۔ آپ کی دعوت کا دنیائے پروپیگنڈہ نہیں کیا نہ آپ کو کوئی خزانہ دیا گیا۔ نہ آپ کے پاس کوئی باغ تھا جس سے کھاتے، نہ آپ کسی محل میں رہے۔ چاہنے والے اسی سادہ زندگی، شدید مشقت اور کمزوری کے باوجود آپ کی

طرف لپک پڑے۔ آپ سے بیعت کی، ایسے عالم میں جب ان لوگوں کو اُچک لئے جانے کا خطرہ تھا۔ اس کے باوجود آپ کے ساتھیوں نے آپ سے محبت کی۔ ان لوگوں کا وادی ابی طالب میں محاصرہ کیا گیا۔ روزی بند کی گئی۔ ان کے خلاف شعر و شاعری ہوئی، رشتہ داروں نے جنگ کی، شدید اذیتیں آپ کو پہنچائی گئیں۔ اس کے باوجود صحابہؓ نے آپ سے شدید محبت کی۔ ان میں سے بعض کو جلتے پتھروں پر لٹایا گیا، بعض کو ننگا کر کے محبوس کر دیا گیا اور بہتروں کے ساتھ طرح طرح کی تعذیب و نارِ چر کے مختلف طریقے اختیار کئے گئے۔ اس کے باوجود وہ نہ صرف آپ کے ساتھ رہے بلکہ آپ سے بے انتہا محبت کی۔ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا، مال چھین لئے گئے، گھر والوں سے دور کر دیا گیا، ان گلیوں اوچو باروں سے بھگا دیا گیا جہاں وہ بچپن میں کھیلے کودتے، جہاں شباب نے اگلڑائیاں لیں، پھر بھی ان کی آپ سے محبت میں کمی نہیں آئی۔ آپ کی دعوت کے سبب مومنین شدید ابتلا و آزمائشوں سے گزرے۔ دل دہل گئے، کلیجے منہ کو آنے لگے، لوگوں کو اللہ پر طرح طرح کے گمان ہونے لگے تاہم ان کی نبیؐ سے محبت کم نہیں ہوئی۔ ان کے منتخب روزگار جوانوں پر تلواریں کھینچیں اور ایسی تابڑ توڑ برسیں جیسے درخت کی شاخیں ٹوٹ کر گریں۔ وہ میدان کارزار میں اترنے پر مجبور ہوئے۔ وہ جانبِ مقتل اس شان سے گئے کہ گویا تفریح کے لئے جا رہے ہوں، گویا عید منا رہے ہوں کیونکہ انہوں نے آپ سے شدید محبت کی تھی۔ ان میں وہ تھے کہ جنہیں مشن پر بھیجا گیا انہیں معلوم تھا کہ وہ لوٹیں گے نہیں پھر بھی اپنا مشن پورا کیا۔ کسی کو ایسی مہم پر بھیجا گیا جہاں موت انتظار کر رہی تھی لیکن وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر گئے کیونکہ نبیؐ کی محبت کا تقاضا یہی تھا۔ (رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ)

لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے ان سارے شداہد مشقتوں، مجاہدوں کو بھول کر آپ کی دعوت کو مانا کیوں؟ آپ کے طریقہ کو اپنایا کیسے، آپ سے محبت کیوں کرنے لگے؟ کیونکہ آپ نے انہیں خیر کا سبق پڑھایا۔ نیکی اور حق پرستی کا درس دیا، بلند اہداف و امور ان کے سامنے رکھ دیئے، اپنی شفقت سے ان کے دلوں کی پیاس بجھادی، اپنی گفتگو سے ان کے سینے ٹھنڈے کر دیئے، اپنا پیغام انہیں گھول کر پلا دیا، ان کے دلوں میں رضامندی انڈیل دی۔ اس لئے دعوت کے راستہ کی تمام تکالیف کو وہ بھول گئے۔ انہیں یقین کی وہ دولت ملی کہ سب کچھ ہنسی خوشی جمیل گئے۔ آپ نے ان کے ضمیر روشن کر دیئے، قلوب کو

غم نہ کریں

منور کر دیا، کاندھوں سے جاہلیت کا بوجھ اتار دیا، گردنوں کو شرک کی غلامی سے آزاد کر دیا، سینوں میں عداوت اور بغض کی آگ بجھادی، جذبات کو پاکیزگی اور احساس میں یقین کی کیفیت پیدا کر دی، روح مطمئن اور دل سرشار ہو گئے۔ آپ کے ساتھ وہ زندگی کی حقیقی لذت سے ہم کنار ہو گئے، آپ کی اطاعت میں انہیں نجات مل گئی، آپ کی پیروی نے انہیں غنی کر دیا، آپ کے دربار میں وہ سکون و اطمینان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔

”ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے“ (۱۰۷:۲۱)

آپ ﷺ صراطِ مستقیم کی دعوت دیتے ہیں

”وہ انہیں اندھیروں سے اُجالے کی طرف لاتا ہے“ (۱۶:۵)

”وہی ہے جس نے ناخواندوں میں انہیں میں کا ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنا تا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔“ (۲:۶۲)

”اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔“ (۱۵۷:۷)

”اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جب وہ تمہیں زندگی بخش پیغام کی

طرف بلائیں۔“ (۲۴:۸)

”تم آگ کے گڈھے کے دہانہ پر تھے کہ اُس نے تمہیں بچا لیا۔“ (۱۰۳:۳)

اس طرح اپنے رہبر اور قائد کے ساتھ وہ حقیقت میں خوش نصیب تھے اور خوش و خرم تھے۔

اے اللہ! احسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار ہا درود و سلام ہوں اور صحابہؓ کی قربانیوں پر ان کو بہترین بدلہ دے۔ آمین

زندگی میں اُکتاہٹ نہ آنے دیجئے

جو آدمی ایک ہی ڈھرے پر چلے گا یکسانیت سے رہے گا وہ لازماً اُکتا جائے گا۔ انسانی نفس

یکسانیت سے اُکتا جاتا ہے اسی لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کے ذرے ذرے میں تغیر رکھ دیا

ہے۔ زمانے الگ ہیں۔ مکان میں تغیر ہے۔ ماکولات، مشروبات اور مخلوقات میں اختلاف ہے رات ہے دن ہے، پہاڑ میں نشیب و فراز ہے، کالا گورا، گرم ٹھنڈا، گرمی، سایہ، کھٹا، بیٹھا اللہ نے اس اختلاف و تنوع کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔

”ان کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں“ (۶۹:۱۶)

”اور کھجوروں کے درخت ہیں شاخ دار اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں۔“ (۴:۱۳)

”اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک

دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے“ (۱۴۱:۶)

”اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں

اور بہت گہرے سیاہ“ (۲۷:۳۵)

”یہ گردش زمانہ ہے ہم اسے لوگوں کے درمیان لٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔“ (۱۴۰:۳)

بنی اسرائیل بہترین کھانے سے اکتا گئے کیونکہ اس میں یکسانیت تھی اور مدت سے کھا رہے

تھے۔

”ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے“ (۶۱:۲)

مامون ایک بار مطالعہ کر رہا تھا، کبھی بیٹھ کر پڑھتا کبھی کھڑے ہو کر اور کبھی چلتے ہوئے پھر کہتا

آج نفس میں اکتا ہٹ ہے۔

”جو لوگ اللہ کو اٹھتے بیٹھتے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے یاد کرتے رہتے ہیں۔“ (۱۹۱:۳)

عبادات کو لیجئے آپ ان میں تنوع اور جدت پائیں گے۔ کچھ اعمال قلبی ہیں تو کچھ قولی، کچھ عملی

ہیں کچھ مالی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد وغیرہ۔ پھر نماز میں بھی قیام و قعود، سجدہ و جلوس ہے۔ لہذا جو یہ

چاہے کہ ہمیشہ نشاط، پھرتی اور چستی برقرار رہے اسے اپنے علم و عمل اور روزمرہ کی زندگی میں تنوع پیدا

کرنا چاہئے۔ مثلاً مطالعہ میں قرآن، تفسیر، سیرت، حدیث، فقہ تاریخ و ادب اور عام معلومات وغیرہ

رکھے۔ اسی طرح اپنے وقت کی تقسیم کرے کچھ وقت عبادت کے لئے کچھ کھانے کے لئے کچھ لوگوں

سے ملنے ملانے، مہمان داری، ورزش اور تفریح کے لئے خاص کرے۔ اس صورت میں مزاج میں ایک

شوق پیدا ہوگا نئے آئیڈیا آئیں گے کیونکہ نفس کو تنوع اور نیا پن مرغوب ہے۔ ایک عربی شاعر نے اس

مفہوم کو یوں ادا کیا ہے۔

’میرے مدوح کی دو حالتیں ہیں، شادی و غمی کی حالت، دونوں ہی روشن، ایک دن سخاوت کرتا اور لوگوں کو نوازتا ہے اور ایک دن لشکر میں شامل ہو کر موت کے جام اٹھاتا ہے۔‘

مضطرب ہونا چھوڑ دیں

آپ گھبرائیں نہیں کہ آپ کے رب کا فرمان ہے
’کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا۔‘ (۱:۹۳)

یہ شرح صدر ہر اس شخص کو حاصل ہوگا جو حق کا حامل ہو، ہدایت کے راستہ کا راہی ہو اور نور کا متلاشی ہو۔

’کیا کہنے ہیں اس شخص کے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی میں ہو۔ پس بربادی ان کے لئے ہے جن کے دل سخت ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے۔‘ (۲۲:۳۹)

مطلب یہ ہے کہ حق سے شرح صدر ہوتا ہے اور باطل سینہ کو تنگ کر دیتا ہے۔

’جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔‘ (۱۲۵:۶)

یعنی یہ دین ایسی غایت ہے جس تک وہی پہنچ سکتا ہے جسے اللہ ہدایت سے نوازے۔

’نہ گھبرائیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔‘ (۴۰:۹)

یہ کلمہ ہر اس شخص کو یاد رہتا ہے جو اللہ کے فضل و کرم، نصرت و مدد پر یقین رکھتا ہے۔

’وہ لوگ جن سے کچھ لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف لاؤ لشکر جمع کر رکھے ہیں ان

سے ڈرو، تو اس دھمکی سے ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوا۔ وہ بول اٹھے ہمیں اللہ کافی ہے وہ بہت ہی

اچھا کارساز ہے۔‘ (۱۷۳:۳)

اس کی مدد و نصرت اور سرپرستی آپ کی حفاظت کرے گی۔

”اے نبی آپ کو اور ان مومنوں کو جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں اللہ کافی ہے۔“ (۶۴:۸)

جو لوگ بھی اس راستہ پر چلتے ہیں وہ کامیابی پاتے ہیں۔

”اس جی و قیوم پر تو کل کرو جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔“ اس کے سوا جو بھی ہے وہ مرنے والا ہے، زوال پذیر ہے، اس کی عزت آنی جانی ہے، ہمیشہ والی نہیں۔

”صبر کریں اللہ پر بھروسہ رکھیں، ان کے اوپر غم نہ کریں۔ اور ان کی (کفار) چال بازیوں سے تنگی میں نہ پڑیں۔“ اللہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ جو نیکی پر چلتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ ہے جو اس کے دوستوں کو ملتی ہے، جیسا ان کا تقویٰ اور جہاد ہوتا ہے اسی کے مطابق تائید و نصرت اور مدد انہیں ملتی ہے ”کمزور نہ پڑو غم نہ کرو اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔“ اپنے رتبہ اور اپنی عبودیت میں ایسوں ہی کو رفعت ملی۔ ”یہ تمہیں بس تھوڑی ہی اذیت پہنچا سکیں گے اور اگر یہ تم سے جنگ کریں تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں ان کو کوئی مدد نہ ملے گی۔“ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غلبہ پائیں گے۔ اللہ قوی و عزت والا ہے۔“ ”ہم یقیناً اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد کریں گے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔“ اس عہد کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ”میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔“

”اللہ نے اسے ظالموں کے مکر سے بچا لیا۔“ اور اللہ پر ہی اہل ایمان توکل کرتے ہیں“

غم نہ کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ایک ہی دن تو رہنا ہے پھر اس کے لئے کیا غم، کیسا تڑکنا بھڑکنا؟ حدیث میں آتا ہے:

”جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام کرو تو صبح کی امید میں نہ رہو۔“ مطلب یہ ہے کہ آج کے دن کو آخری دن سمجھ کر رہیں نہ ماضی کو یاد کریں نہ مستقبل کی فکر، جیسا کہ شاعر کہتا ہے:

”جو گزر اسو گزر گیا جس کی امید ہے وہ غیب کی چیز ہے، آپ کا حقیقی وقت تو بس وہی ہے جس میں اب آپ ہیں۔“ ماضی سے حد درجہ وابستگی، اس کی یاد، جو مصائب اور تلخیاں گزر گئیں جو حادثات پیش آچکے ان کو سوچ سوچ کر کڑھتے رہنا تو حماقت اور جنون کی ایک قسم ہے۔ ایک چینی مثل ہے:

”جس پل تک ابھی پہنچے نہیں ہو اُسے پار نہ کرو۔“

غم نہ کریں

مطلب یہ آنے والے حادثات کی سوچ نہ کرو! اُس کے تفکرات اور غموں کے چکر میں نہ پڑو! جب تک کہ آپ ان سے دوچار نہ ہو جاؤ۔ سلف میں کسی کا قول ہے کہ تمہارے پاس تو تین ہی دن ہوتے ہیں، کل جو گزر چکا، کل جو آنے والا ہے اور آج جس میں تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہئے، اس کی زندگی کیا جو ماضی و حال مستقبل کے تفکرات اٹھاتے پھرتا ہے، ماضی میں جینے والا خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کو تو بار بار اس کی یادیں ستاتی رہیں گی۔ اس کا یہ غم و فکر کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اوپر گزری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری امید کم ہونی چاہئے۔ بس موت کو یاد کرو اور نیک عمل کرو، جس دن سے دوچار ہو اس دن کے علاوہ سوچو ہی مت، اپنے اعمال، اپنی سرگرمیاں اور پروگرام اس کے لئے بناؤ، اپنے اخلاق کو درست کرو، صحت پر توجہ دو، دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات کی اصلاح کرو۔

وقفہ

غم نہ کریں کیونکہ تقدیر لکھی جا چکی، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، قلم لکھ چکا، صحیفہ سمیٹ لئے گئے، ہر معاملہ طے شدہ ہے۔ اس لئے آپ کے غم اور رنج سے نہ کوئی چیز مقدم ہو سکتی ہے نہ مؤخر، نہ کم نہ زیادہ۔ کیا غم کر کے آپ زمانہ کی رفتار روکنا اور سورج کو قید کرنا، گھڑی کی سوئیوں کو پیچھے کرنا، اٹلے پاؤں پھرنا، نہر کو سرچشمہ کی طرف پلٹانا چاہتے ہیں۔ غم نہ کریں کیونکہ غم ایک بادِ سموم ہے جس سے فضا خراب ہوتی ہے، پانی سڑ جاتا ہے، آسمان میں بو پھیل جاتی ہے اور سرسبز باغ سوکھ اور کھلے پھول ٹوٹ جاتے ہیں۔ غم نہ کریں کیونکہ غم گین آدمی اس بے کار نہر کی مانند ہے جو سمندر سے نکلتی اور پھر سمندر میں گر جاتی ہے۔ جیسے وہ بوڑھی عورت جو سوت کات کات کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے یا جیسے کوئی ایسے تھیلے میں ہوا بھر رہا ہو جس میں سوراخ ہو یا جیسے کوئی انگلی سے پانی پر لکھے۔

آپ غم نہ کریں کیونکہ آپ کی حقیقی عمر وہی ہے جس میں روح خوش ہو اور دل کو سکون ملے۔ اس لئے اپنے ایامِ رنج و الم میں اور اپنی راتیں تفکرات کے سایہ میں بسر نہ کریں۔ اپنی عمر ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے

کیا اللہ کے اس فرمان ”آپ کہہ دیجئے! اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے۔“ سے آپ کے سینہ کو ٹھنڈک نہیں ملتی اور آپ کا غم و اندوہ دور نہیں ہوتا۔ اس فرمان میں اللہ نے انہیں اے ”میرے بندو“ کہہ کر خطاب کیا کہ ان کی تالیف قلب ہو، ان کی روحوں کو سکون ملے۔ خاص مخاطب ہیں مسرفین؛ زیادہ گناہ کرنے والے؟ جب ان کا یہ حال ہے تو دوسروں کے ساتھ توبہ بدرجہ اولیٰ یہ معاملہ ہوگا۔ ان کو اس سے روکا ہے کہ وہ مغفرت سے مایوس ہو جائیں اور بتایا کہ توبہ کرنے والے کے تمام گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے کم یا زیادہ وہ معاف کر دے گا پھر اپنے بارے میں تاکید بتایا کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ ”ال تعریف کمال صفت کا مقتضی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا:

”وہ لوگ جنہوں نے برائی کی یا اپنے اوپر ظلم کیا، انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اپنے گناہوں پر استغفار کیا۔ اللہ کے علاوہ کون ہے معاف کرنے والا اور انہوں نے جاننے بوجھتے اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کیا۔“ (۱۳۵:۳)

اور فرمایا ”جو شخص گناہ کرتا ہے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ پھر اللہ سے استغفار کرتا ہے وہ اللہ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا۔“ (۱۱۰:۴)

اور فرمایا ”اگر تم کبائر سے دور رہو تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور تمہیں عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔“ (۳۱:۴)

اور فرمایا ”جنہوں نے گناہ کئے اور اپنے اوپر ظلم کئے اگر تمہارے پاس آجائیں اور اللہ سے استغفار کریں، رسول بھی ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔“ (۶۴:۴)

فرمایا ”ہاں بیشک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیگ عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں“ (۸۲:۲۰)

غم نہ کریں

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک آدمی کو قتل کر دیا تو فرمایا: میرے رب! میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا اس لئے مجھے معاف فرما۔ پس اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ انابت کی ان کے بارے میں کہا گیا:

”ہم نے ان کو معاف کر دیا ان کے لئے ہمارے پاس قربت اور اچھا ٹھکانہ ہے۔“ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے کیا ٹھکانے ہیں، اس نے اپنی رحمت کے دروازے ان پر بھی بند نہیں کئے جو مثلیث کے قائل ہیں۔ فرمایا: ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے۔ حالانکہ خدا تو بس ایک ہی ہے۔ اگر یہ اپنے کہنے سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں سے کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب ملے گا۔ یہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے اس سے استغفار کیوں نہیں کرتے اور اللہ غفور الرحیم ہے۔“

صحیح حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے:

”ابن آدم! تو مجھ سے دعا کرے اور میری طرف رجوع کرے تو میں تیرے گناہ معاف کر دوں، ان کی کوئی پروا نہ کروں، اے ابن آدم! اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کی پروا کئے بغیر تجھے معاف کر دوں۔ ابن آدم! اگر تو زمین بھر گناہ کر کے میرے پاس آئے لیکن شرک نہ کرے تو میں زمین بھر گناہ کی مغفرت کر دوں۔“

اسی طرح صحیح حدیث میں آیا ہے۔ فرمایا ”اللہ اپنا ہاتھ رات میں بڑھاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار کو معاف کر دے، دن میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کے گنہگار کو معاف کر دے۔ یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل کر آئے۔“

حدیث قدسی ہے ”اے میرے بندو! تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو (توبہ کرو) میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔“ صحیح حدیث میں آیا ہے ”جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں ختم کر کے دوسرے لوگ لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔“

ایک اور صحیح حدیث میں ہے ”قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم

گناہ نہ کرو تو گناہ سے زیادہ شدید گناہ تکبر میں مبتلا ہو جاؤ۔“ ایک اور صحیح حدیث میں ہے ”تم سب خطا کار ہو خطا کاروں میں سب سے بہتر توبہ کرنے والے ہیں۔“ ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ ”اللہ کسی بندہ کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی سفر میں ہو اور اس کی سواری کا جانور جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہے صحرا میں گم ہو جائے، اسے ڈھونڈے پھرنا امید ہو کر سو جائے حتیٰ کہ بیدار ہو تو دیکھے کہ اس کا زاد سفر اس کے سر کے پاس ہے۔ اور وہ شدت مسرت میں پکار اُٹھے اے اللہ! تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔“ ایک حدیث میں آیا ہے ”ایک بندہ نے گناہ کیا اور کہا بارالہ! میرے گناہ معاف کر دے کہ تیرے علاوہ اور کوئی گناہ معاف نہیں کرتا۔ پھر گناہ کرے پھر ایسے ہی کہہ دے پھر گناہ کرے پھر ایسے ہی کہے۔ اس پر اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ پر پکڑتا بھی ہے۔ معاف بھی کر دیتا ہے۔ لہذا میرا بندہ جو چاہے کرے۔“ مطلب یہ ہے کہ جب تک بندہ نادم ہوتا، توبہ کرتا اور استغفار کرتا رہے گا تو میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔

غم نہ کریں کہ ہر چیز قضا و قدر سے ہوتی ہے

تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے، کائنات میں کوئی پتا بھی نہیں کھڑکتا مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اس کے اذن سے ہوتا ہے

”زمین میں یا تمہارے نفسوں میں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ ان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ یہ اللہ کے لئے بہت آسان ہے۔“ (۲۴:۵۷)

”ہم نے ہر چیز کو ایک اندازہ کے ساتھ پیدا کیا ہے۔“ (۴۹:۵۳)

”ہم تم کو آزمانیں گے کچھ خوف، بھوک اور اموال، انفس اور بچلوں میں نقصان سے“ (۱۵۵:۲)

حدیث میں آیا ہے۔ ”مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ اگر تنگی لاحق ہو اور صبر کرے تو بھی خیر ہے اگر خوشحالی ہو اور شکر کرے تو بھی خیر ہے اور یہ بس مومن کے ساتھ ہی ہے۔ ایک صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ”تم مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد چاہو تو اللہ سے چاہو جان لو کہ

غم نہ کریں

سارے لوگ جمع ہو کر بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہی فائدہ پہنچا سکیں گے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اسی طرح جو نقصان اللہ نے لکھ دیا ہے اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے چاہے سب ہی جمع ہو کر ایسا کرنا چاہیں۔ قلم اٹھالے گئے ہیں صحیفے سوکھ گئے ہیں۔“ ایک اور حدیث میں ہے

”جان لو کہ جو پہنچا وہ تم سے چھوٹ نہ سکتا تھا اور جو تم سے چھوٹ گیا وہ تمہیں پہنچنے والا نہ تھا۔“

اور فرمایا: ”جو تمہیں لاحق ہونے والا ہے اس سے قلم سوکھ گیا ہے اے ابو ہریرہ“ ایک اور صحیح حدیث ہے:

”جو تمہیں فائدہ دے اُس کی خواہش کرو عاجز ہو کر نہ بیٹھو یہ نہ کہو کہ اگر میں نے ایسا اور ایسا کیا ہوتا تو یہ ہو گیا ہوتا بلکہ یوں کہو کہ جو ہوا وہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا۔“ صحیح حدیث میں ہے ”اللہ بندے کے لئے وہی فیصلہ کرتا ہے جو اس کے لئے خیر ہوتا ہے۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ سے پوچھا گیا کیا معصیت بندے کے لئے خیر ہے؟ کہا ہاں! اگر اس کے بعد ندامت، توبہ و استغفار و انکسار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”ہو سکتا ہے کہ جس شئی کو تم برا سمجھو وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور جسے تم اچھا سمجھو وہ تمہارے لئے شر ہو اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔“

غم نہ کرو تنگی دور ہونے کی امید رکھو

امام ترمذی نے روایت کی ہے کہ ”بہترین عبادت تنگی دور ہونے کی امید ہے۔“

کیا صبح جلد ہی آنے والی نہیں، مصیبت زدوں اور رنجوروں کے لئے صبح طلوع ہو رہی ہے۔ اس کا انتظار کریں اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید رکھیں عرب کہاوتوں میں سے ہے کہ ”جب رسی بہت سخت ہو جاتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے۔“ مطلب یہ ہے کہ جب معاملات زیادہ بحرانی ہو جائیں تو ان سے خلاصی بھی جلد ملنے کا یقین کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ”جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے خلاصی پیدا کر دے گا۔“ اور فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی خطائیں معاف کر دے گا اور اس کو دو گنا اجر دے گا۔“

”جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے معاملہ کو آسان بنا دے گا۔“ عرب کہا کرتے تھے ”مشکلات پڑتی ہیں پھر ان کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور کبھی واپس نہیں آتے ہیں۔“ ایک شاعر نے کہا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کتنی خلاصیاں مایوسی کے بعد حاصل ہوئیں کتنی آسانیاں ناامیدی کے بعد ہوئی

ہیں۔ عرش والے سے جو خوش گمانی رکھتا ہے وہ کانٹے دار درخت سے بھی اچھا پھل توڑ سکتا ہے۔ حدیث صحیح میں آیا ہے ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، وہ جیسا گمان رکھے گا۔ ویسا ہی ہوگا

”جب رسول بھی مایوس ہو گئے۔ اور ان (کی قوم) کے دل میں یہ گمان ہونے لگا کہ ان کو جھوٹا بہلاوا دیا گیا ہے تو ان کے پاس ہماری مدد آگئی، ہم جسے چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں۔“ (۱۱۰:۱۲)

بعض مفسرین کا قول ہے اور بعض لوگ اسے حدیث کے بطور بھی بیان کرتے ہیں کہ: ایک تنگی دو آسانیوں پر بھاری نہیں پڑے گی۔ اللہ نے فرمایا ”ان مع العسر یسرا“ عسر کے ساتھ یسر ہے۔ اور فرمایا ”اللہ کی مدد بہت قریب ہے“ اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے۔“ حدیث میں ہے ”جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور مصیبت کے ساتھ اس سے رہائی بھی ہوتی ہے۔“ شاعر کہتا ہے ”جب کسی معاملہ میں زیادہ تنگی ہو جائے تو اب اس سے رہائی کی امید کیجئے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے کہ کتنی آنکھیں بیدار ہو گئیں کتنی سو گئیں ایسے معاملات ہیں جو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس لئے جتنا بھی ممکن ہو رنج کو چھوڑ دو۔ غم و اندوہ کو پالے رکھنا ایک جنون ہے۔ کل جو ہوا اس وقت بھی تمہارا رب ساتھ تھا“ آنے والے کل میں بھی وہ ساتھ رہے گا۔ ایک اور شاعر کے قول کا مفہوم یہ ہے:

”تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا اس لئے تم خالی الذہن ہو کر سوؤ، اللہ تعالیٰ تو پلک جھپکتے میں حالات بدل دیا کرتا ہے۔“

وقفہ

غم نہ کریں کیونکہ حزان و مایوسی اور اندوہ کے رہتے آپ کے خزانہ کے اموال، بہترین عمارتیں، شاداب باغات یہ سب آپ کے غم و اندوہ میں بس اضافہ ہی کریں گے۔ غم نہ کریں کیونکہ اگر غم نے دل میں بسیرا کر لیا ہے آنکھوں میں پھیل گیا ہے، پہلوؤں میں چپک گیا ہے، کھال میں چھپ گیا ہے تو طبیعوں کی جڑی بوٹیاں، فارمسٹ کے تجربات اور ڈاکٹر کی تشخیص بھی آپ کے کسی کام نہ آئے گی۔ غم نہ کریں آپ کے پاس دعا ہے آپ اللہ رب العزت کی چوکھٹ پر گر سکتے ہیں، شاہوں کے شاہ کے

غم نہ کریں

دروازہ پر گڑگڑا سکتے ہیں، رات کا آخری پہر آپ کے پاس ہے، آپ سجدہ میں گر کر اپنی پیشانی رگڑ سکتے ہیں، غم نہ کریں اللہ نے آپ کے لئے زمین اور اس کے اسباب پیدا کئے ہیں۔ آپ کے لئے شاداب باغات اُگائے ہیں، ہر طرح کے جوڑے رکھے ہیں، کھجور کے پھلدار درخت بنائے ہیں، چمکتے تارے آسمان میں ٹانک دیئے ہیں اور دریا اور تالاب آپ ہی کے لئے بنائے ہیں۔ لیکن آپ پھر بھی رنجیدہ ہیں!! کیوں؟ جب کہ ٹھنڈا میٹھا پانی پیئے کو اور سانس لینے کو صاف ستھری ہوا میسر ہے۔ آپ صحت مند ہیں اپنے پیروں پر چل رہے ہیں، اطمینان سے رات میں سوتے ہیں!!

غم نہ کیجئے زیادہ سے زیادہ استغفار کیجئے

آپ کا رب بہت معاف کرنے والا ہے۔

”تو میں نے (یعنی حضرت نوحؑ نے اپنی قوم سے) کہا اپنے رب سے استغفار کرو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ آسمان سے تمہارے اوپر موسلہ دھار پانی برساتا ہے تمہیں بیٹے اور مال عطا کرتا ہے، تمہارے لئے باغات اور نہریں نکال رکھی ہیں۔“ (۱۲-۱۰:۷۱)

لہذا زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تاکہ سکون اور دل کا آرام آپ کو ملے، رزق حلال نصیب ہو، صالح اولاد عطا ہو اور موسلہ دھار بارش برے۔

”اور یہ کہ اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس سے توبہ کرو، ایک اجل مسمیٰ تک تمہیں اچھا سامان زندگی ملے گا، ہر فضل والے کو وہ اپنی بخشش سے نوازتا ہے۔“ (۳:۱۱) حدیث میں ہے ”جو زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دیتے اور ہر بحران سے نکلنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔“

سید الاستغفار کو لازم کر لو جو بخاریؒ کے نزدیک یوں ہے:

”اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علىّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب الا انت.“

غم نہ کیجئے بس ہمیشہ اللہ کا ذکر کیجئے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔“ (۲۸:۱۳)

اور فرمایا ”مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا“ اور مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ”اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں“ ایک جگہ یوں فرمایا ”اے ایمان والو! اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔“ صبح و شام اسی کی تسبیح پڑھو“ ایک جگہ فرمایا ”اے ایمان والو! تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں“ اور فرمایا ”جب بھی بھولو اللہ کو یاد کر لو۔“ اور فرمایا ”جب کھڑے ہو تو اپنے رب کی حمد و ثنا کرو۔“ رات کے وقت اور ستاروں کے چھپ جانے کے وقت بھی اسے یاد کر لو۔“ اور فرمایا ”اے ایمان والو! جب تمہاری مڈ بھیڑ کسی دشمن گروہ سے ہو تو جم جاؤ اللہ کو بہت یاد کرو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ“ صحیح حدیث میں ہے ”اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے“ ایک بار آپؐ نے فرمایا ”مفردون“ آگے بڑھ گئے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ! مفردون کون ہیں؟ آپؐ نے فرمایا: وہ مرد اور عورتیں جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں“ ایک صحیح حدیث میں یوں آیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا ”کیا میں تمہیں سب سے بہتر عمل نہ بتاؤں جو خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے اور تمہارے لئے سونے چاندی خرچ کرنے سے اور دشمن کی مقابلہ آرائی سے جس میں تم اور دشمن ایک دوسرے کی گردن مارنے کی فکر میں رہتے ہو؟ لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ضرور بتائیے! فرمایا ”وہ اللہ کا ذکر ہے۔“ ایک صحیح حدیث میں یوں ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ! اسلام کے احکام تو بہت ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بس مجھے ایسی چیز بتادیں جس سے چٹا رہوں، فرمایا: ”تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کی یاد سے تروتی چاہئے۔“

غم نہ کریں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں

”اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔“ حتیٰ کہ رسول بھی مایوس ہونے لگے اور

غم نہ کریں

انہوں نے سمجھا کہ انہیں جھٹلایا گیا ایسے عالم میں ہماری مدد آگئی۔ ہم نے ان کو رنج و فکر سے نجات دے دی ہم اسی طرح مومنین کو بچاتے ہیں۔“ مسلمانوں کے بارے میں فرمایا ”تم اللہ پر گمان کرنے لگے“ اس وقت مومن ہلما مارے گئے اور شدید زلزلہ کا سامنا ان کو ہوا۔“

دوسروں کی اذیت سے نہ گھبرائیں

جو آپ پر زیادتی کرے اسے معاف کر دیجئے۔ انتقام کا مزاج رکھنے والا ان سے حسد کرنے والا اپنے انتقام کی زبردست قیمت اپنے گوشت، خون، اپنے اعصاب، راحت اور سرور سب چیزیں کھو کر ادا کرتا ہے۔ جو شخص لوگوں پر غصہ کرتا ہے ان سے حسد کرتا ہے وہ بلاشبہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا علاج اور دوا یہ بتائی ہے کہ غصہ پی جائیں اور درگزر سے کام لیں

”یہ لوگ غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔“ فرمایا ”درگزر کرو، معروف کا حکم دوا اور جاہلوں سے اعراض کرو۔“ اور فرمایا ”احسن طریقہ سے برائی کا جواب دو، ایسا کرو گے تو جلد ہی تمہارے اور دشمن کے بیچ کچی دوستی ہو جائے گی۔“

جو کھو گیا اس پر افسوس نہ کریں

آپ کے پاس نعمتیں بہت ہیں اللہ کے ان زبردست عطیوں اور جلیل القدر نعمتوں کے بارے میں سوچئے اور ان پر اس کا شکر ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔“ اور فرمایا ”اس نے تمہیں ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کی ہیں۔“ اور فرمایا ”جو بھی نعمت تمہیں ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے“ اور ایک جگہ بندے پر اپنی نعمت کی یاد دہانی کرائی اور فرمایا ”کیا ہم نے اُسے دوا نکھیں، ایک زبان، دو ہونٹ نہیں دئے اور اسے دواستے بتا دیئے۔“ پے بہ پے نعمتیں ہیں، زندگی کی نعمت، عافیت، صبح، بصر، دو ہاتھ، دو پیر، پانی، ہوا، غذا، ان سب میں بڑی نعمت ہدایت ربانی (اسلام) کی نعمت ہے۔ ایک آدمی نے کہا کیا تم اپنی آنکھوں کے بدلے ایک بلین ڈالر لو گے؟ کیا ایک بلین ڈالر میں اپنے کان دے سکتے

ہیں؟ کیا اپنے پیر ایک بلین ڈالر کے عوض دو گے؟ کیا اپنے ہاتھ کے بدلے ایک بلین ڈالر لو گے؟ کیا اپنا دل ایک بلین ڈالر لے کر دے دو گے؟ یعنی تمہارے پاس کتنا مال و دولت ہے پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے!

چھوٹی چیزوں پر افسوس نہ کیجئے

زندگی کی راحت، سعادت اور آرام اس میں ہے کہ آپ چھوٹی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دیں کیونکہ ہمت والوں کو تو بس آخرت کی دھن ہوتی ہے، سلف میں ایک نے اپنے دوست کو یوں نصیحت کی: ”بس ایک ہی دھن اپنے اوپر طاری کر لو، اللہ سے ملاقات، آخرت اور اُس کے سامنے کھڑے ہونے کی دھن۔ جس دن ہر چیز تمہارے اوپر پیش کر دی جائے گی اور کوئی چیز تم سے چھپی نہیں رہے گی۔“

لہذا یہاں کی ہر فکر، زندگی، اس کے مناصب، عہدے، سونا چاندی، اولاد، مال و دولت، مرتبہ شہرت، محلات، گھر یہ سب فکریں آخرت کی فکر سے کم تر ہیں۔ اس کے مقابلہ میں لاشیعتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفت یہ بتائی کہ انہیں اس دنیا کی فکر ہے۔

”انہیں بس اپنی جانوں کی فکر کھائے جا رہی ہے اور وہ اللہ کے بارے میں جھوٹے گمان

باندھتے ہیں۔“ (۱۵۴:۳)

یعنی یہی فکر ہے کہ نفس، پیٹ اور شہوت کی آگ کیسے بجھے گی۔ اس کے بعد کوئی بلند حوصلہ نہیں، کوئی بڑا مقصد نہیں!۔ حدیبیہ میں جب نبی درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے تو ایک منافق یہ بہانہ کر کے سرک گیا کہ ”میرا سرخ اونٹ کھو گیا ہے اور اس کا پا جانا تمہاری اس بیعت سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اس پر حدیث میں آیا کہ ”تم سب کی مغفرت ہوگی سوائے اس سرخ اونٹ والے کے“ ایک منافق کو جان کی فکر لاحق ہوئی، کہنے لگا اس شدید گرمی میں نہ نکلوا اللہ نے فرمایا ”کہہ دو کہ جہنم کی آگ زیادہ گرمی والی ہے۔“ ایک اور منافق بولا ”میری جان چھوڑ دیجئے مجھے مت آزمائے“ اللہ نے فرمایا یہ ”لوگ آزمائش میں تو پڑ ہی چکے ہیں۔“ کچھ اور لوگوں کو گھروں، جانوں اور مالوں کی فکر لاحق تھی۔ فرمایا ”ہم کو ہمارے مالوں اور گھر والوں نے مصروف رکھا اس لئے ہمارے لئے استغفار

غم نہ کریں

کردیتے۔“ یہ چھوٹے لوگ تھے، ان کی فکریں اور مقاصد بھی چھوٹے اور گھٹیا تھے۔ صحابہ کرامؓ بڑے لوگ تھے اسی لئے وہ محض خوشنودی رب کے طالب تھے۔

فکروں کو دور رکھئے

آرام مومن کے لئے غفلت ہے اور بے کاری قاتل، اور وقت گزاری تعطل۔ لوگوں میں غم و فکر اور تکدر والے زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو معطل اور بے کار ہوتے ہیں۔ جو لوگ سنجیدگی اور نتیجہ خیز کام کے اعتبار سے مفلس ہوں ان کا سرمایہ خیالات و افواہیں ہوتی ہیں۔ لہذا حرکت میں رہیں، کام کریں، ہمیشہ مصروف رہیں، تلاوت و تسبیح کریں، لکھنے پڑھنے اور لوگوں سے ملنے جلنے کا کام کریں یعنی وقت کو کام میں لائیں خالی بالکل نہ رہیں کہ جیسے ہی خالی ہوئے تفکرات، پریشانیوں اور وہم و خیال نے آپ کو اپنی آماج گاہ بنایا کہ خالی جگہ شیطان کا بسیرا ہوتا ہے۔

نیکی کرو یا میں ڈال

جو آپ کے احسان کو بھلا دے، نیکی کا انکار کر دے تو اس پر رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ کو اللہ سے ثواب لینا ہے۔ اس لئے اپنا عمل خالصتاً اللہ کے لئے رکھیں۔ کسی کے شکریہ کی نہ امید رکھئے نہ اس کو زیادہ اہمیت دیجئے۔ اور اگر آپ نے کسی پر احسان کیا ہو پھر اس کے کمینہ پن کا تجربہ ہو تو اس کو محسوس نہ کیجئے کہ اُس نے آپ کی نیکی اور حسن سلوک کا اعتراف نہ کیا۔ اپنا ثواب اللہ سے مانگئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ”اللہ کے فضل و کرم کے طالب ہوتے ہیں۔“ اللہ نے اپنے نبیوں کے بارے میں فرمایا وہ کہتے ”اس چیز پر میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔“ ”کہہ دو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے،“ اس کے پاس کسی کی نعمت نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ ”ہم تمہیں خالصتاً اللہ کے لئے کھلاتے ہیں اور تم سے کسی احسان یا شکریہ کے طالب نہیں۔“ شاعر نے کہا:

”جو خیر کے کام کرے گا اس کا انعام اسے ضرور ملے گا کہ بھلائی انسانوں اور اللہ کے ہاں ضائع نہیں جاتی۔“

لہذا اپنا معاملہ اللہ کے حوالہ کر دیں۔ وہی ہے جو عطا کرتا اور دیتا ہے۔ وہی حساب لیتا اور سزا دیتا ہے، وہی راضی ہوتا یا غضب ناک ہوتا ہے۔ قذہار میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت عمرؓ نے صحابہؓ سے ان کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے شہداء کے نام گنائے اور کہا کہ ان کے علاوہ اور لوگ بھی شہید ہوئے جن سے آپ واقف نہیں۔ حضرت عمرؓ کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا لیکن اللہ تو انہیں جانتا ہے۔ کسی بزرگ نے ایک نابینا کو فالودہ کھلایا جو ایک بہترین ڈش ہوتی تھی۔ ان کے گھر والے بولے کہ اس بیچارے اندھے کو کیا معلوم اس نے کیا کھایا۔ فرمایا: ہاں! مگر اللہ تو جانتا ہے۔ لہذا جب اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کیا خیر کا کام کیا۔ کیا بھلائی کی کیا احسانات کئے تو پھر لوگوں کی کیا پروا؟

لعنت ملامت اور اعتراضات پر رنج نہ کریں

”یہ آپ کو بس تھوڑا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں“ ان کی چالبازیوں پر تنگی میں نہ پڑیے۔ ”ان کی اذیت رسائی پر نہ جائیے بس اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ بہترین کار ساز ہے۔“

موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے تہمت تراشی کی اللہ نے موسیٰ کو اس سے بری کر دیا۔ ایک شاعر کہتا ہے: ”بھر پور اور بہتے سمندر میں کوئی نادان لڑکا پتھر پھینک دے تو اُس سے سمندر کا کیا بگڑے گا۔“ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ فرمایا: ”میرے صحابہ کی برائیاں مجھ سے بیان نہ کرو، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاں سے سلامتِ صدر کے ساتھ نکلوں۔“

تنگ دستی غم نہ کریں کیونکہ قلت مال میں سلامتی ہے

جسم موٹا ہوگا تو قلب میں پوچھیدگی ہوگی، کم مال ہو تو سلامتی رہتی ہے۔ دنیا سے زہد ایک ایسی راحت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دنیا میں ہی عنایت کر دیتا ہے۔ ”ہم زمین اور اس کی اشیاء کے وارث ہیں۔“ ایک شاعر کہتا ہے:

”پانی، روٹی اور سایہ بس یہی تو نعمتیں ہیں۔ ان کے باوجود اگر میں یہ کہوں کہ میں غریب و تنگ دست ہوں، تو میں اپنے رب کی نعمتوں کا ناشکر ہوں گا۔ دنیا کیا ہے؟ ٹھنڈا پانی، گرم روٹی اور گھنساہ“

ایک دوسرے شاعر نے کہا:

“سرا ندیپ کے آسمان سے موتی برسے، ٹکڑوں کے کنوؤں میں چاندی بھر جائے، میں اگر زندہ رہوں تو روٹی ملے گی مر جاؤں تو قبر۔ میرا حوصلہ بادشاہوں کا سا ہے۔ میرا نفس آزاد ہے جو ذلت کو کفر سمجھتا ہے، جب میں عمر بھرا اپنی روزی پر راضی ہوں تو میں زید اور عمر کے پاس کیوں جاؤں۔“

یہ ان لوگوں کی عزت کی مثال ہے جو اپنے تصورات، اپنے مشن اور پیغام میں سنجیدہ، سچے اور بھروسہ رکھتے ہیں۔

جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا اس سے لگدندہ ڈریے

تورات میں لکھا ہے ”جس سے زیادہ ڈرا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں!“ مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں وہ کم ہی واقع ہوتی ہیں۔ ذہنی وہم زیادہ ہوتے ہیں جو حقیقت کا روپ کم دھارتے ہیں۔ ایک شاعر کے شعر کا مفہوم ہے: ”میں نے اپنے دل سے کہا کہ اگر کوئی فکر تجھے لاحق ہو تو خوشی منا کیونکہ اکثر ڈراونی چیزیں ہوائیں کرتیں۔“ یعنی کوئی حادثہ معلوم ہو، کسی مصیبت کے بارے میں سنیں تو اس بارے میں تامل کریں، غور کریں سنتے ہی گھبرانہ جائیں۔ اکثر خبریں اور امیدیں غلط ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ تقدیر بنانے والا اس دنیا میں کہیں نظر آئے تو اسے ڈھونڈا بھی جائے جب نظروں سے نہاں ہے تو پھر کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہئے ”میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے۔“ ”اللہ نے انہیں دشمنوں کے مکر و کید سے بچالیا۔“

اہل باطل اور حاسدین کی تنقید سے غمگین نہ ہوں

حاسدین اگر تنقید کرتے اور برا بھلا کہتے ہیں اور آپ اس پر صبر کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر وہ تنقید کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو وزن دے رہے ہیں کیونکہ مردہ کتے کو کوئی نہیں بھگانا۔ حقیر لوگوں سے کوئی حسد نہیں کرتا۔ ایک شاعر کہتا ہے: ”اوپنچی ناک والوں سے حسد کیا جاتا ہے کینوں اور ذلیلوں سے کوئی حسد نہیں کرتا۔“

ایک اور شاعر کہتا ہے: ”جو لوگ شریف آدمی کی سی جدوجہد نہیں کرتے نہ اس کا مرتبہ حاصل کر پاتے ہیں وہ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ جیسے کسی حسین و جمیل عورت کی سونئیں حسد و کینہ کے مارے اس کو بد صورت کہیں“۔ زہیر نے اپنے ممدوح کی تعریف میں کہا:

”ان سے لوگ حسد کرتے ہیں کیونکہ ان کو خدا نے دے رکھا ہے اور لوگوں کے حسد سے ان کی نعمتیں چھینی نہیں گئیں“۔ ایک اور شاعر نے کہا ”وہ میری موت پر رشک کر رہے ہیں افسوس کہ میری موت بھی رشک سے خالی نہیں“۔ ایک شاعر نے کہا:

”تمہیں چغل خوروں کی اذیت کی شکایت ہے۔ جو بھی بڑا آدمی ہے اُس کے حاسد بھی بہت ہیں۔ حسد بڑے اور سردار لوگوں سے ہی کیا جاتا ہے۔ مسکین و حقیر سے بھلا کون حسد کرتا ہے“۔ ایک شاعر نے کہا:

”جب آدمی اپنی بزرگی میں ہم دوش ثریا ہو جائے تو اُس کے حاسدین بھی اتنے ہو جاتے ہیں جتنے ستارے۔ اور اس کے ہر کارنامہ پر ہر طرف سے طعنوں کے تیر سے چلنے لگتے ہیں لیکن وہ اپنی ان حرکتوں سے اس کا مقام نہیں پاسکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے گزارش کی کہ لوگوں کی زبانیں ان سے روک دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ قاعدہ تو میں نے اپنے لئے بھی نہیں رکھا۔ میں انہیں پیدا کرتا ہوں، روزی دیتا ہوں پھر بھی مجھے برا بھلا کہتے ہیں حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہئے، وہ زمانہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، گردش لیل و نہار میں ہی انجام دیتا ہوں، مجھے سب و شتم یوں کرتے ہیں کہ میری ذات سے بیوی بچے منسوب کرتے ہیں حالانکہ میرے بیوی بچے نہیں۔“

آپ لوگوں کی زبانوں کو اپنی آبروریزی سے روک نہیں سکتے لیکن ان کی بدکلامی اور تنقید سے یوں بچ سکتے ہیں کہ آپ خیر کے کام کثرت سے کریں۔ شاعر کہتا ہے:

”میں کسی بے وقوف کے پاس سے گزرتا ہوں جو مجھے گالیاں دیتا ہے تو میں وہاں سے ایسے گزر جاتا ہوں کہ جیسے وہ مجھے نہیں کسی اور کو کہہ رہا ہے۔“

ایک اور شاعر نے یوں کہا ہے :

غم نہ کریں

جب کوئی بے وقوف کچھ کہے تو اسے جواب نہ دو کہ اسے جواب دینے سے خاموش رہ جانا بہتر ہے۔ شریفوں، عمقیریوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو حقیر بے کار اور تھرڈ کلاس لوگ اپنے لئے چیلنج سمجھ لیتے ہیں :

”میرے محاسن اور خوبیاں ہی ان کے نزدیک میرے گناہ ہیں تو بتاؤ میں کیا معذرت کروں۔“
مالدار بالعموم اضطراب کی زندگی گزارتے ہیں، جب ان کے شیئرز کی قیمتیں گرتی ہیں تو ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے

”بربادی ہے ہر عیب جو اور نسبت کرنے والے کے لئے جو مال جمع کرتا اور گن گن کر رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا مال اُسے ہیٹنگلی دے دے گا، ہرگز نہیں وہ توڑ پھوڑ دینے والی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔“ (۴-۱۰۴)

ایک مغربی مصنف نے کہا:

”جو صحیح ہو اُسے کرگزر و پھر ہر غلط تنقید سے پیٹھ پھیر لو۔“

بزرگوں کے اقوال اور تجربات میں سے یہ ہے کہ ”کسی جارحانہ بات، کسی جارحانہ قول اور جو یہ قصیدہ کا جواب نہ دو۔ اس کو برداشت کرنا معایب کو دفن کر دینا ہے۔ بردباری میں عزت ہے۔ خاموشی سے دشمنوں کی زبانی بند ہو جائیں گی، درگزر میں ثواب ملتا ہے بڑائی حاصل ہوتی ہے، آدھے لوگ جو آپ پر کئے گئے سب دشتم کو پڑھیں گے اُسے بھول جائیں گے آدھے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ کیا بات ہے کیا سبب ہے۔ اس لئے اُس کا جواب دے کر لوگوں میں اس بات کو راسخ نہ کرو۔“

ایک حکیم کا قول ہے ”لوگوں کو اپنی روٹی کی پڑی ہے انہیں ہماری تمہاری بھوک پیاس کی کیا پرواہ، ہمارے مرنے جینے کی کیا خبر؟“

ایک شاعر نے کہا:

”ساتھ رہنے والوں سے اپنے رنج و غم کو چھپاؤ، یہ ہم نشین تو حاسد ہیں۔ وہ جگہ جہاں سکون کے ساتھ جو کی روٹی ملے اس جگہ سے بہتر ہے جس میں طرح طرح کے کھانے ہوں لیکن تکلیف دہ

باتوں، شور و شغب اور ہنگاموں کی آماجگاہ ہو۔“

وقفہ

غم نہ کریں، مرض زائل ہو جائے گا، مصیبت ختم ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائے گا، قرض ادا ہو جائے گا، قیدی چھوٹ جائے گا، غائب آ جائے گا، گنہگار توبہ کر لے گا، محتاج مالدار ہو جائے گا، غم نہ کریں، کیا نہیں دیکھتے کہ آسمان سے کالے بادل چھٹ جائیں گے، تاریک رات روشن ہو جائے گی، تیز و تند ہوا رک جائے گی، آندھی و طوفان میں سکون ہو جائے گا؟ تب آپ کے مصائب ختم ہونے والے ہیں آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی اور مستقبل روشن ہوگا۔ غم نہ کریں کہ سورج کے شعلہ کو گھنٹا سا یہ تخفیف کر دیتا ہے۔ دوپہر کی شدید گرمی میں صاف اور ٹھنڈا پانی آرام دیتا ہے، بھوک کی شدت کو گرم روٹی دور کر دیتی ہے۔ شب بیداری سے ہونے والی شدید تھکن کو میٹھی نیند دور کر دیتی ہے۔ مرض کی اذیتوں کو عافیت کی لذت ختم کر دیتی ہے۔ اس لئے تھوڑا سا صبر اور تھوڑا سا انتظار چاہئے۔ گھبرائیں نہیں کہ قضاء و قدر کے سامنے اور تقدیر کے لکھے کے آگے تمام ڈاکٹر، حکیم، سائنس دان اور شعراء حیران ہیں اور ساری تدبیریں ناکام ہیں۔ اسی مضمون کو علی بن جبلیہ کہتے ہیں: ہو سکتا ہے اب آرام ملے اب آرام ملے کہہ کر ہم اپنے آپ کو تسکین دیتے ہیں اس لئے کسی بھی حال میں ہوں کیسا ہی شدید فکر لاحق ہو آپ مایوس نہ ہوں کہ جب آدمی مایوس ہونے لگتا ہے اسی وقت راحت مل جاتی ہے۔

جو اللہ نے آپ کے لئے مقدر کر دیا اسی پر خوش رہئے

آپ کو غم نہ کرنا چاہئے بلکہ ہر حال میں راضی برضا رہنا چاہئے۔ اگر اللہ کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیے وہ چاہے کہ بیٹھو تو بیٹھ جائیے، وہ آپ کو فقیر کر دے تو صبر کیجئے اگر آپ کو ثروت مند کر دے تو شکر ادا کیجئے۔ یہ اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا لازمی تقاضا ہے۔

ایک شاعر نے کہا :

اپنے لئے محض تدبیر نہ کیجئے کہ تدبیر پر بھروسہ کرنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں

اس کو مان لیجئے کہ آپ کے لئے وہ زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔

لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر پریشان نہ ہوں

لوگ نفع نقصان کے مالک ہیں نہ موت و حیات کے، نہ حشر و نشر اور نہ ثواب و عذاب پر ان کا اختیار ہے۔ ایک شاعر نے یوں کہا ہے:

جو لوگوں کے تصرفات و حرکات دیکھ دیکھ کر مضطرب ہو وہ فکر کے مارے مر جائے گا۔ جب کہ جری و بے باک مزہ پاتا ہے۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ ہم ایسی زندگی میں ہیں کہ اگر فرشتوں کو معلوم ہو جائے تو وہ ہم سے اس پر تلواریں سے جنگ کریں ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ دل پر کبھی کبھی ایسے احوال گزرتے ہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اہل جنت بھی اس جیسے حال سے گزرتے تو وہ اسے خوشگوار زندگی سمجھتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دل پر کبھی کبھی ایسے احوال گزرتے ہیں کہ وہ خوشی سے ناچ اٹھتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کی محبت سے خوش ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ کو جب جیل میں ڈالا گیا اور جیلر نے دروازہ بند کیا تو فرمایا ”فضرب بینہم بسورلہ باب باطنہ فیہ الرحمة و ظاہرہ من قبلہ العذاب“ جیل ہی میں تھے کہ فرمایا میرے دشمن میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ میری جنت اور بہشت تو میرے سینہ میں ہے میں جہاں جاؤں وہ میرے ساتھ ساتھ ہے مجھے قتل کر دیں تو شہادت کا درجہ ملے گا، مجھے شہر سے باہر نکال دیں تو سیاحت ہوگی، جیل میں میرے لئے خلوت ہے۔ لوگ کہتے ہیں: جو اللہ کو کھودے وہ کیا پائے گا اور جو اللہ کو پالے اس سے کیا کھوئے گا؟ یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتیں، جو اللہ کو پالے وہ ہر چیز کو پالے گا جو اللہ کو کھودے گا وہ ہر چیز کو کھودے گا۔

جس چیز کی وجہ سے آپ غمگین ہیں اس کی قیمت تو جانئے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ

واللہ اکبر کہنا مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔“ سلف میں ایک بزرگ نے مالداروں، ان کے محلات اور مکانات اور مالوں کے بارے میں کہا: ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ہم پیٹتے ہیں وہ بھی پیٹتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں لیکن ہمارا حساب نہیں ہوتا، ان سے حساب لیا جاتا ہے۔ سچ کہا ہے کہ قبر کی پہلی ہی رات میں قیصر و کسریٰ کے محلات بھلا دیئے جاتے ہیں ”ہم تم کو تنہا تنہا لے کر آئیں گے جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔“ مؤمنین کہتے ہیں ”صدق اللہ ورسولہ“ منافق کہتے ہیں کہ ”اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ دھوکے کے علاوہ اور کچھ نہیں“ زندگی سوچ و فکر کے تابع ہوتی ہے آپ جس فکر کے ساتھ رہتے ہیں جس کو نشوونما دیتے ہیں جس کے بارے میں سوچتے ہیں وہی آپ کی زندگی میں موثر ہوتی ہے۔ زندگی ناگوار ہو یا خوشگوار۔ سلف میں کسی کا قول ہے اگر تمہارے پیر میں جوتے نہ ہوں تو اسے دیکھو جس کی پنڈلیاں کٹ گئی ہوں پیروں کی نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگو گے۔ شاعر کہتا ہے :

”کسی حادثہ کے اندیشہ سے میں فکر میں دبلا نہیں ہوتا جب وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے تو میں

گھبراتا نہیں۔“

جب تک آپ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں

جب تک آپ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں آپ کو رنج کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک خوش بختی کی بات ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بندے کا حساب لیتے ہوئے فرمائے گا اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں کہے گا میں کیسے کھلاتا آپ تو رب العالمین ہیں۔ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا لیکن تو نے اسے کھلایا نہیں تو اگر اسے کھلاتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ اے ابن آدم میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں کہے گا رب العالمین میں آپ کو کیسے پلاتا، فرمائے گا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو اگر پلاتا تو اسے میرے پاس پاتا، ابن آدم! میں بیمار ہوا تو نے میری عبادت نہیں کی کہے گا کہ میں آپ کی عیادت کیسے کرتا آئے تو رب العالمین ہیں، فرمائے گا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اگر تو نے اس کی عیادت

غم نہ کریں

کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہاں پر غور کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ مجھے اس کے پاس پاتے اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اسے میرے پاس پاتے۔ بات یہ ہے کہ مریض وغیرہ کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور اللہ ٹوٹے دلوں کے پاس رہتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ”ہر تر جگر والے (کے ساتھ حسن سلوک) میں ثواب ہے“ یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک طوائف کو جنت میں داخل کر دیا کیونکہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اسی پر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ جو کھلائے پلائے تنگی اور حرج دور کرے اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ ایک حدیث میں ہے۔ آپؐ نے فرمایا ”جس کے پاس فاضل زادراہ ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس کچھ نہ ہو جس کے پاس فاضل سواری ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو۔“

حاتم طائی نے کہا تھا: ”اگر تمہارے پاس اونٹیاں ہوں تو اپنے رفیق کو اپنے پیچھے پیدل چلنے کے لئے نہ چھوڑو بلکہ اپنی اونٹنی بٹھا کر اس پر سوار کر لو، اونٹنی نہ مانے تو اسے سزا دو۔“ حاتم نے مہمان کی تلاش میں اپنے غلام کو بھیجتے ہوئے کہا تھا :

”آگ جلاؤ رات ٹھنڈی ہے۔ اگر کوئی مہمان آجاتا ہے تو تم آزاد ہو۔“

حاتم اپنی بیوی سے کہا کرتا تھا:

”جب کھانا بنا لو تو کھانے پر کسی اچھے آدمی کا انتظار کرنے دو کہ میں اکیلا نہیں کھایا کرتا“ ایک اور شعر میں اس نے اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے: گھر والوں مال تو آنی جانی چیز ہے اس کے تذکرے اور چرچے رہ جاتے ہیں۔ جب دم نکلنے لگتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے تب مال دولت آدمی کے کام نہیں آتے۔ اس کا ایک شعر یہ بھی:

”کسی مالدار رشتہ دار نے ہمارے فخر میں اضافہ نہیں کیا، نہ محتاج اور غریب نے ہمارے

حسب نسب کو حقیر ٹھہرایا۔“ عروہ بن حزام نے کہا تھا:

تم مولے تازے ہو، میرے چہرہ پر دہلا پن ہے۔ کیا اس وجہ سے تم میرا مذاق اڑاتے ہو۔ اہل حق سخت کوش ہوتے ہیں، میں اپنا جسم (یعنی کھانا) کئی لوگوں میں بانٹ دیتا ہوں، اور خود ٹھنڈے پانی کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہوں۔

حضرت عبداللہ بن المبارک کا ایک پڑوسی یہودی تھا آپ اپنے بیٹوں سے پہلے اسے کھلاتے اور کپڑے پہناتے تھے۔ لوگوں نے یہودی سے کہا اپنا گھر بیچ دو۔ اس نے کہا میرے گھر کی قیمت دو ہزار ہے۔ ایک ہزار مکان کی اور ایک ہزار ابن المبارک کے پڑوس کی۔ ابن المبارک نے سنا تو دعا فرمائی کہ اللہ سے اسلام کی ہدایت دے۔ چنانچہ وہ مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ ابن المبارک ایک بار حج کے سفر پر نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت نے کوڑے پر سے ایک مرا ہوا کوا اٹھایا۔ آپ نے اس کے حالات جاننے کے لئے اپنا غلام اس کے پیچھے بھیجا، عورت نے بتایا ہمارے پاس تین دنوں سے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جو ہم کوڑے سے اٹھالائے ہیں۔ آپ کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ نے قافلہ والوں کو حکم دیا کہ اس بستی میں خیر خیرات تقسیم کریں اور وہیں سے لوٹ آئے اس سال حج ترک کر دیا خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے حج قبول ہوا، گناہ بخش دئے گئے اور کوشش کامیاب ہوگئی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود سخت ضرورت ہو“ (۹:۵۹)

ایک شاعر کہتا ہے کہ اگر میں اپنے دوست سے جدا اس کے زمین و آسمان سے دور ہوں لیکن میں اس کی مدد کرنے والا، اس کی پریشانی کو دور کرنے والا اور اس کی آواز پر لبیک کہنے والا ہوں اور جب وہ کوئی اچھا کپڑا پہن لیتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ کاش مجھے بھی یہ مل جاتا۔ آفریں ہے اس بہترین اخلاق، خوبصورت عادت اور جمال خلق پر! حسن اخلاق اور خیر کے کام میں مبالغہ بھی کوئی کرے تو وہ ندامت نہیں اٹھائے گا ہاں تھوڑی بھی غلطی ہو تو اس پر ندامت ہوتی ہے۔“

اس معنی میں ایک شخص نے کہا ہے:

”خیر باقی رہنے والا ہے اگرچہ کتنا ہی زمانہ ہو جائے اور شر خبیث ترین زاہراہ ہے۔“

کان میں بری بات پڑنے پر رنجیدہ نہ ہوں

کیونکہ حسد ایک قدیم مرض ہے

کسی نے کہا ہے: ”فضائل جمع کرنے کی جدوجہد کرو جاسدین کی ملامت کی پروا نہ کرو جان لو

کہ زندگی ہی میں خدا کی بندگی ہو سکتی ہے موت کے بعد حسد بھی ختم ہو جائے گا۔“ علمائے مصر میں سے ایک کہتے ہیں: جو لوگ تنقید پر زور درج ہیں انہیں اپنے اعصاب میں کافی ٹھنڈک ڈال لینی چاہئے تاکہ سخت اور شدید تنقید کا سامنا کر سکیں، ایک قول یوں ہے:

”اللہ نے حسد کے معاملہ میں کیا ہی عدل فرمایا ہے! وہ پہلے حاسد کو جلانا شروع کرتا ہے اور

انجام کار اُسے ماری ڈالتا ہے“

متنبی کہتا ہے:

”آدمی کے ذکر خیر سے اسے نئی زندگی مل جاتی ہے جو باقی نہ رہے وہ فضول ہے۔“ حضرت

علیؑ فرماتے ہیں ”موت ایک مضبوط ڈھال ہے“ ایک حکیم نے کہا، بزدل کئی بار مرتا ہے، بہادر آدمی ایک ہی بار مرتا ہے، بحران کے وقت جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو راحت پہنچانا چاہتا ہے تو ان کو پرسکون نیند کی چھبکی آ جاتی ہے جیسا کہ میدان احد میں حضرت طلحہؓ پر نیند طاری ہوئی حتیٰ کہ کئی بار ان کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ چھوٹ کر گر پڑی۔ ایک نیند اہل بدعت پر بھی طاری ہوتی ہے جیسے شیبیب بن یزید پر طاری ہوئی تھی جو گدھی پر سوار تھا اور بہادروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس کی بیوی غزالہ تو شجاعت کا پیکر تھی۔ حجاج کو اسی نے بھگایا تھا۔ شاعر کہتا ہے: ”مجھ پر شیر ہو میدان جنگ میں شتر مرغ بن جاتے ہو جنگ میں غزالہ کے سامنے آنے کی جرأت کیوں نہیں کرتے یا تم انسان نہیں پرندہ ہو۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو کیا تم ہمارے لئے انتظار کر رہے ہو، دو میں سے ایک بھلائی کا۔ ہم

بھی تمہارے لئے تاک میں بیٹھے ہیں کہ اللہ یا تو اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں تمہیں عذاب کا مزا چکھائے گا تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھیں۔“ (۵۲:۹)

اور فرمایا ”کوئی بھی شخص اللہ کے لکھے ہوئے فیصلہ کے خلاف نہیں مر سکتا۔ جو لوگ دنیا کا اجر

چاہتے ہیں ہم انہیں دنیا دے دیتے ہیں جو آخرت کا ثواب چاہتے ہیں انہیں آخرت دیتے ہیں اور شکر گزاروں کو ہم جلد ہی انعام دیں گے۔“ (۱۴۵:۳)

شاعر کہتا ہے: جنگ جویوں سے وہ خوف زدہ ہو رہی تھی میں اس سے کہہ رہا تھا کہ گھبراؤ نہیں جو

تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اس سے ایک دن بھی زیادہ نہیں مل سکتا اس لئے موت کے میدان میں صبر کرو

صبر، یہاں کسی کو دوام حاصل نہیں ہے۔ زندگی کا لباس کوئی عزت کا لباس نہیں ہے کہ برے آدمی ہی سے اتارا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ موت آئے گی تو نہ اسے کوئی آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں

”کس دن موت سے بھاگوں جس دن موت نہیں لکھی یا جس دن لکھی ہے، جو مقدر نہیں ہے اس کا خوف نہیں جو مقدر ہے اس سے مفر نہیں۔
حضرت ابو بکرؓ فرماتے تھے:
” (راہ خدا میں) موت کی طلب کرو، زندگی مل جائے گی۔“

وقفہ

غم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، فرشتے آپ کے لئے استغفار کرتے ہیں، مومنین ہر نماز میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، نبی کریمؐ شفاعت کریں گے، قرآن پاک میں اچھا وعدہ کیا گیا ہے اور ان سب سے اوپر رحم الرحمن کی رحمت ہے۔ رنج نہ کریں کہ نیکی کا بدلہ دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک ملتا ہے اور برائی کا اتنا ہی جتنی برائی ہے لیکن اسے بھی اللہ معاف فرما سکتا ہے۔ تو کیا اللہ کے کرم کی کوئی مثال ہے؟ کیا اللہ کے جو دو سخا کے قریب کوئی جو دو سخا ہو سکتی ہے؟ آپ کو غم کی ضرورت نہیں کہ آپ موحدین میں ہیں، ملت اسلامیہ کے فرزند اور اہل قبلہ میں سے ہیں، آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، گناہ پر آپ نادم اور نیکی پر آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کے پاس تو خیر ہی خیر ہے، لیکن آپ کو احساس نہیں۔ آپ خوش حالی میں ہوں یا تنگ حالی میں، مالدار ہوں یا فقیر، شدت ہو یا تنگی، آپ بہر حال خیر میں ہیں۔

”مومن کا معاملہ عجیب ہی ہے اس کا معاملہ پورے کا پورا خیر ہی ہے اور یہ صرف مومن کے لئے خاص ہے کہ مصیبت پہنچے اور صبر کرے تو اس کے لئے خیر، خوش حالی ہو اور شکر ادا کرے تو اس کے لئے خیر“ (حدیث شریف)

مصائب پر صبر کا میاںی کا راستہ ہے

”غم نہ کرو، صبر سے کام لو، صبر، نجات اور سعادت کا راستہ ہے، صبر کرو اور صبر اللہ کے لئے اور اللہ کی راہ میں ہونا چاہئے۔ صبر جمیل اختیار کرو جو حال زار تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ سے ہی مدد لی جاسکتی ہے۔“ صبر جمیل اختیار کرو تم نے جو صبر کیا ہے اس پر سلامتی ہے۔“ مصائب کے وقت اہل سنت تین چیزوں سے کام لیتے ہیں صبر، دعا اور مصیبت کے خاتمہ کا انتظار۔ شاعر کہتا ہے:

”انہوں نے ہمیں موت کے جام پلائے ہم نے ان کو لیکن ہم موت پر زیادہ صبر کرنے والے تھے۔“

ایک صحیح حدیث میں ہے

”اذیت پر اللہ سے زیادہ صبر کوئی نہیں کرتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) اللہ کے بیوی بچے ہیں حالانکہ اللہ ہی انہیں عافیت دیتا اور روزی دیتا ہے۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم کرے انہیں بہت زیادہ برداشت کرنا پڑا لیکن انہوں نے صبر کیا اور فرمایا جو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ اسے صابر بنا دیتا ہے۔

شاعر کہتا ہے:

تم بلندی و شرف کے لئے اتنی سستی سے چل رہے ہو جب کہ لوگ اس کے لئے زبردست کاوش کرتے ہیں۔ بہت سے تو اکتا جاتے ہیں لیکن جو صبر و عزیمت سے کام لیتے ہیں وہ اس بلند مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ بزرگی اور بڑائی کوئی کھجور نہیں جسے کھا لو، جب تک تلخی کا مزہ نہ چکھو تم بڑائی اور عظمت کو نہیں پاسکتے۔ مطلب یہ ہے کہ بلند مقام خواہشوں اور آرزوؤں سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ عزم و ارادہ اور تدبیر و عمل سے حاصل ہوتا ہے۔

یہ نہ دیکھو کہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں

یہ دیکھو وہ اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں

کتاب الزہد میں امام احمدؒ نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
 ”ابن آدم! تیرے اوپر تعجب ہے ”میں نے تجھے پیدا کیا لیکن تو میرے غیر کی عبادت کرتا ہے،
 میں تجھے روزی دیتا ہوں تو میرے علاوہ کسی اور کا شکر ادا کرتا ہے، میں تجھے نعمتیں دیتا ہوں تجھ سے بے
 نیاز ہوں۔ تو محصیتیں کرتا ہے اور میری ناراضگی مول لیتا ہے جب کہ تو میرا محتاج اور فقیر ہے، میرا خیر
 تیری طرف اترتا ہے، تیرا اثر میری طرف اوپر چڑھتا ہے؟“ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا نوح نگاروں
 نے لکھا ہے کہ انہوں نے ۳۰ لوگوں کا علاج کیا بہت سے اندھوں کو بینا کر دیا لیکن وہ سب کے سب
 آپ کے دشمن ہو گئے۔

تنگی رزق سے نہ گھبرائیے

اللہ واحد و یکتا ہی رزاق ہے۔ وہی روزی دیتا ہے اور اس نے اس کا ذمہ لیا ہے
 ”اور آسمان میں تمہارے لئے روزی ہے اور وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے“ لہذا جب
 روزی کا مالک اللہ ہے تو مخلوق کی چالپوسی کیوں، روزی کے لئے اپنے کو ذلیل کیوں کیا جائے؟
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”زمین میں جو بھی ذی روح ہے اس کی روزی اللہ پر ہے“ (۶:۱۱)
 اور فرمایا:

”اللہ جو رحمت لوگوں پر کرتا ہے اُسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے روک لیتا ہے اُسے کوئی جاری
 نہیں کر سکتا۔“ (۲:۳۵)

تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب

بہت سے اسباب مصائب کو آسان کر دیتے ہیں مثلاً:
 ۱۔ اللہ تعالیٰ ان مصائب پر اجر و ثواب دے گا۔ فرمایا ”صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا بے
 حساب کے دیا جائے گا۔“

غم نہ کریں

- ۲۔ مصیبت میں مبتلا آپ کے علاوہ اور بھی بہت ہیں۔ شاعر کہتا ہے: اگر میرے پاس اپنے بھائی کو رونے والے زیادہ نہ ہوتے تو میں اپنے آپ کو قتل کر چکا ہوتا۔ اپنے دائیں بائیں دیکھئے ہر جگہ مصیبت کے مارے ہی ملیں گے جیسے عربی کی ایک مثل ہے کہ ”بنو سعد ہر وادی میں پائے جاتے ہیں۔“
- ۳۔ یہ مصیبت چھوٹی ہے، اس سے بڑی بڑی آفتیں بھی ہوتی ہیں۔
- ۴۔ یہ مصیبت بندے کی دنیا میں ہے دین میں نہیں۔
- ۵۔ خوشگواہی کے مقابلہ میں مصائب میں تسلیم و رضا بندگی و عبودیت کی بڑی دلیل ہے۔
- ۶۔ مقدر سے مفر نہیں، کوئی حیلہ و چارہ سازی ممکن نہیں، اس لئے صبر اختیار کریں۔
- ۷۔ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے ”ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لئے خیر ہو۔“

دوسرے کا لبادہ نہ اڑھئے

ہر ایک کے لئے ایک راستہ ہے لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔“ اسی ذات نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ تمہارے درجات ایک دوسرے سے بلند کر دئے ہیں ”ہر جماعت اپنا طریقہ جانتی ہے“ لوگ مختلف صلاحیتوں، ذہنوں اور توانائیوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ہمارے رسولؐ کی عظمت کا راز ہی یہ تھا کہ آپؐ نے مختلف صحابہؓ سے ان کی صلاحیتوں اور استعدادوں کے مطابق کام لئے۔ حضرت علیؓ عہدہ قضا پر فائز تھے۔ معاذؓ علم کے شعبہ میں۔ اُبی بن کعبؓ قرآن کے لئے۔ زیدؓ فرائض کے لئے۔ خالدؓ جہاد کے لئے۔ حسانؓ شعر و شاعری کے لئے۔ قیس بن ثابتؓ خطابت کے لئے خاص تھے۔ بقول شاعر سخاوت کو تلوار کی جگہ اور تلوار کو شبنم کی جگہ رکھنا مضر ہی ثابت ہوتا ہے۔ غیر میں ڈوب جانا، دوسروں کی صفات کا لبادہ اُڑھنا یہ قتل نفس اور خودکشی ہے۔

لوگوں کی عادات، زبانوں، رنگوں اور صلاحیتوں کا اختلاف اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنی نرمی و لطف و کرم سے ملت عرب اور امت مسلمہ کو نفع پہنچایا۔ حضرت عمرؓ نے اپنی شدت و صلاحیت سے اسلام و اہل اسلام کی نصرت کی۔ لہذا آپؐ کی جو بھی صلاحیت ہے اُس پر راضی

رہے، اُسے ترقی اور نشوونما دیجئے، اس سے فائدہ اٹھائیے اور فائدہ پہنچائیے۔

”اللہ کسی بھی جان کو اُس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔“ (۲۸۶:۲)

دوسری شخصیات کی اندھی تقلید اور ان میں ڈوب جانا اپنی صلاحیت کو دفنانا، اپنے ارادہ کو قتل کرنا اور اپنی انفرادیت کو کھودینا ہے۔ حالانکہ مخلوق میں ہر ایک کی انفرادیت مقصود ہے۔

گوشہ نشینی اور بندے پر اس کا مثبت اثر

عزالت و تنہائی سے یہاں میری مراد شرکے کاموں اور فضول باتوں سے بچنا ہے۔ ایسی تنہائی تو سینہ کھول دیتی اور رنج و بلا کو دور کر دیتی ہے۔ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں بندے کو عبادت، ذکر و فکر، تلاوت اور احتساب نفس کے لئے تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تنہائی میں وہ دعا و استغفار کرتا ہے برائی سے دور رہتا ہے ”ابن الجوزی نے صید الخاطر میں تین فصلیں باندھی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے۔ کہتے ہیں ’راحت‘ عزت، شرف، ثروت و فساد سے دوری، منصب و مرتبہ کی حفاظت، عمر اور وقت کی حفاظت، کینہ پروروں اور حاسدین سے دوری، آخرت کے لئے تفکر، اللہ سے ملاقات کی تیاری، اطاعت کی فرصت، نفع بخشی میں جولانِ فکر، گوہر حکمت نکالنے اور نصوص سے استنباط کرنے کے لئے میں نے کوئی نسخہ تنہائی و عزالت سے زیادہ تیر بہدف نہیں پایا۔ عزالت کے بارے میں اس کے علاوہ بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے جس کا مفہوم ہم نے قدرے تصرف کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ گزشتہ فصل میں ہم نے بھی عزالت کے سلسلہ میں لکھا تھا اسے پھر تازہ کر لیں۔

عزالت میں پردہ ہے، عیوب پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ عزالت زبان کی غلطی، لغزش اور رعونت نفس کا پردہ ہے، محاسن کے چہرے کا حجاب ہے، گوہر فضیلت کا صدف ہے، مناقب کی کلیوں کا غلاف ہے۔ اگر یہ تنہائی کتاب کے ساتھ ہو تو کیا کہنے! عمر میں اضافہ ہو، مہلت میں وسعت آئے، خلوت میں آرام ملے، طاعت کا سفر ہو، غور و فکر کی سیاحت ہو۔ عزالت میں ہی تامل، تدبر اور تفکر کا مزہ آپ کو ملے گا۔ عزالت ہی میں آپ معانی اور لطائف کی تمنا کریں گے، مقاصد پر غور کریں گے، رایے کا کھل اور ہیکل عقل کی تعمیر کریں گے۔ عزالت میں روح کو مزہ، قلب کو زبردست سرور ملتا ہے اور دل میں نئی نئی

غم نہ کریں

انگلیں کروٹ لیتی ہیں۔ عزت میں ریاکاری کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ آپ کو صرف اللہ دیکھتا ہے آپ کی باتیں کوئی انسان نہیں بلکہ علیم وخبیر سنتا ہے۔

جتنے بھی بڑے لوگ، جہاں گیری کرنے والے، عبقری، اساطین زمان اور تاریخ ساز ہستیاں، اہل فضل، زمانہ کے با بصیرت لوگ، محفلوں کی جان گزرے ہیں، ان سب نے اپنی عظمت و بڑائی کے پودے کی سینچائی عزت و تنہائی کے پانی سے کی تھی۔ یہاں تک کہ وہ پودہ نشوونما پا کر اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا اور اللہ کے حکم سے برگ و بار لایا۔

علی بن عبدالعزیز جرجانی کہتے ہیں :

”لوگ کہتے ہیں کہ تم ترش رو ہو حالانکہ انہوں نے ایسے شخص کو دیکھا جو ذلت کی جگہ سے دور رہتا ہے، جب کہا جاتا ہے کہ یہاں گھاٹ ہے تو کہتا ہوں کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں لیکن بندہ آزادی کے ساتھ بیاس برداشت کر لیتا ہے۔ میں علم کا حق ادا نہیں کرتا اگر کوئی لالچ دکھائی دے اور اسے میں اپنے لئے زینہ بنا لوں، کیا میں علم کا پودا لگاؤں اور ذلت کا پھل پاؤں، تب تو جہل کی اتباع ہی بہتر ہوگی۔ اگر اہل علم نے علم کی حفاظت کی ہوتی تو وہ ان کی حفاظت کرتا، اور اگر دلوں میں اس کو عظمت ڈالی ہوتی تو ان کی عظمت ہوتی۔ لیکن انہوں نے علم کی اہانت کی اور اس کے چہرہ کو حرص و آرز سے گدا کر دیا، یہاں تک کہ وہ میلا ہو گیا۔“

احمد بن خلیل حنبلی کہتے ہیں :

جو بھی تفکرات سے راحت اور عزت چاہتا ہو اسے تمہار ہنا چاہئے اور قلیل پر راضی۔ اس شخص کو آرام کہاں جو کینہ پروروں، حاسدوں کا نشانہ ہو، بخیل سے بھی اس کا پالا پڑتا ہو۔ افسوس کہ ہر طرح کے آدمی کو جان کر دکھ ہی ہوتا ہے۔ قاضی علی بن عبدالعزیز جرجانی کہتے ہیں : ”مجھے زندگی کی لذت تب تک نہیں ملی جب تک میں نے گھر میں گوشہ نشین ہو کر کتاب کو اپنا ہم نشین نہیں بنا لیا۔ علم سے زیادہ باعزت کوئی چیز نہیں۔ مجھے اس کے علاوہ کوئی ہم دم نہیں چاہئے۔ لوگوں سے ملنے جلنے میں تو ذلت ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ کر تمہار ہو۔“

ایک اور شاعر کہتا ہے : ”میں تنہائی کا عادی اور خانہ نشین ہوں، اس لئے ہمیشہ سکون و راحت

سے رہتا ہوں، میں نے لوگوں کا بایکٹ کر دیا ہے، مجھے یہ پروا نہیں کہ فوج نے کوچ کر دیا یا بادشاہ سوار ہو گیا۔“

محدث حمیدی فرماتے ہیں: ”لوگوں کے میل جول سے قیل و قال کے علاوہ کیا ملتا ہے اس لئے لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دو، سوائے اس کے کہ علم کا حصول یا اصلاح حال مقصود ہو۔“ ابن فارس کہتے ہیں: ”لوگ میرا حال چال پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں اچھا ہے، ایک ضرورت پوری ہوتی ہے ایک رہ جاتی ہے، جب دل میں تفکرات کا ازدھام ہو جاتا ہے تو کہتا ہوں کہ کبھی تو ان سے نجات ملے گی۔ میری ہم دم بلی ہے، میری مونس و غم خوار میری کامیابیاں ہیں اور مجھے چراغ سے عشق ہے“

ایک کہات ہے کہ ”عزالت چاہنے والے کو عزت ملتی ہے“ اس بارے میں خطابی کی کتاب ”العزلة“ کا بھی مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

شدائد سے نہ گھبرائیں

مشقتیں اور شدائد دل کو مضبوط کرتے، گناہوں کو دھوتے، غرور کا خاتمہ کرتے اور تکبر کو مٹاتے ہیں، ان سے غفلت دور ہوتی ہے یاد دہانی حاصل ہوتی ہے۔ لوگوں کی ہمدردی اور صالحین کی دعا ملتی ہے۔ ان سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ واحد و قہار کے سامنے سپردگی کا جذبہ بڑھتا ہے، ان سے فوری تنبیہ و خبرداری حاصل ہوتی ہے۔ نصیحت ملتی ہے۔ صبر سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، پز مردگی میں ثواب کی امید بندھتی ہے، اللہ سے ملاقات کی تیاری ہوتی ہے۔ دنیا کی طرف میلان سے آدمی کا دل ہٹتا ہے، روحانی لطف بڑھتا ہے، بڑے گناہ پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور بڑی بڑی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔

وقفہ

رنج و بلا کا خوف نہ کریں کہ رنج سے عبادت میں ضعف آئے گا، وہ آپ کو جہاد سے روک دے گا۔ نامرادی و نا کامی سوء ظن اور نحوست میں مبتلا کر دے گا۔ حزن و قلق نفسیاتی امراض کی جڑ ہیں۔ یہ

غم نہ کریں

عصی آلام کا سرچشمہ ہیں اور اضطراب و وسوسوں اور زوال کی نشانی ہے۔ قرآن آپ کے پاس ہے، ذکر ہے، دعا ہے، نماز اور صدقہ اور خیر کے کام اور مفید و بار آور اعمال ہیں لہذا گھبرانا کس چیز سے؟ خالی اور بے کار رہ کر رنج و بلا کے شکار نہ بنیں، نماز پڑھیں، تسبیح پڑھیں، مطالعہ کریں، لکھیں، کام کریں، آنے والوں کا استقبال کریں، دوسروں کے پاس جائیں، غور و فکر کریں اور دعائیں کریں:

”مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا“ (۶۰:۴۰)

عاجزی و فروتنی سے اپنے رب کو پکاریں۔ وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اطاعت اس کے لئے خالص کرتے ہوئے دعا کریں۔ ”کہہ دو کہ تمہارے رب کے بہت سے پیارے نام ہیں اسے اللہ سے پکارو یا رحمان کہہ کر۔“ (۱۱۰:۱۷)

خوش رہنے کے قاعدے

- (۱) پہلی بات یہ دھیان میں رکھیں کہ اگر آپ صرف آج پر نظر نہ رکھیں گے تو ذہن بٹ جائے گا۔ معاملات ڈانوا ڈول ہوں گے اندیشے و تفکرات بڑھ جائیں گے اسی بات کو تو یوں کہا گیا ہے کہ ”صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو شام کرو تو صبح کے انتظار میں مت رہو۔“
- (۲) ماضی کو پورے طور پر بھول جائیں؛ جو گزر گیا اُس پر غور و فکر بے دقتی اور جنون ہے۔
- (۳) مستقبل پر توجہ نہ کریں کہ وہ عالم غیب کی بات ہے جب تک وہ آ نہ جائے اس کے بارے پیشگی فکر مند نہ ہوں۔
- (۴) تنقید سے اکھڑ نہ جائیے، ثابت قدم رہئے یہ جان لیجئے کہ تنقید سے آپ کی قیمت بڑھے گی۔
- (۵) اللہ پر ایمان اور عمل صالح ہی بہترین اور خوش گوار زندگی ہے۔
- (۶) جو اطمینان و سکون اور راحت چاہتا ہو اسے اللہ کا ذکر اختیار کرنا چاہئے۔
- (۷) بندہ پر یہ یقین کرنا لازم ہے کہ ہر شئی قضا و قدر سے ہوتی ہے۔
- (۸) کسی کی طرف سے شکر یہ کا انتظار نہ کریں۔
- (۹) اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں کہ مشکل سے مشکل ڈیوٹی انجام دیں۔

- (۱۰) جو ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو۔
- (۱۱) مسلمان کے لئے تقدیر کا ہر فیصلہ بہتر ہے۔
- (۱۲) نعمتوں پر شکر ادا کریں اور ان پر غور کریں۔
- (۱۳) جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ آپ بہت سے لوگوں سے بہتر ہیں۔
- (۱۴) ایک وقت سے دوسرا وقت آسان ہے۔
- (۱۵) مصیبت کے وقت دعا ضروری ہے۔
- (۱۶) مصائب بصیرت کے لئے مرہم اور قلب کے لئے قوت ہوتے ہیں۔
- (۱۷) تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔
- (۱۸) چھوٹے امور آپ پر حاوی نہ ہو جائیں۔
- (۱۹) آپ کا رب بہت معاف کرنے والا ہے
- (۲۰) غصہ نہ کریں، غصہ نہ کریں، غصہ نہ کریں۔
- (۲۱) سامان زندگی، روٹی، پانی اور سایہ ہے اس کے علاوہ کی فکر نہ کریں۔
- (۲۲) آسمان میں آپ کے لئے روزی اور وہ ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔
- (۲۳) جس حادثہ کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔
- (۲۴) مصیبت زدوں میں آپ کے لئے نمونہ ہے۔
- (۲۵) اللہ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے انہیں بتلائے مصیبت کرتا ہے۔
- (۲۶) مصیبت میں مسنونہ دعائیں کریں بے کار نہ بیٹھیں۔
- (۲۷) سنجیدہ اور مفید کام کریں، یونہی نہ بیٹھیں رہیں۔
- (۲۸) انواہوں اور فضول باتوں کو چھوڑ دیں اور ان کی تصدیق نہ کریں۔
- (۲۹) کینہ اور انتقام کی خواہش آپ کی صحت کو نقصان پہنچائیں گی، حریف اور دشمن کو نہیں۔
- (۳۰) جو تکلیف بھی پہنچتی ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔

رنج و غم کیوں ہو؟ جبکہ تمہارے پاس چھ چیزیں ہیں

”الفرج بعد الشدة“ کے مؤلف نے ذکر کیا ہے کہ ایک حکیم بتلائے مصیبت ہوا۔ اس کے بھائی اس کے پاس آئے اور اظہارِ ہمدردی کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے چھ چیزوں کو ملا کر دوا بنائی ہے۔ انہوں نے کہا: وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا: پہلی چیز اللہ پر بھروسہ۔ دوسری بات: میرا یہ جاننا کہ جو مقدر ہے وہ ہوگا۔ تیسری: سب سے اچھی چیز صبر ہے۔ چوتھی: میں صبر نہ کروں تو کیا کر سکتا ہوں؟ گھبرا کر ہی کیا ہوگا۔ پانچویں: یہ کہ ممکن تھا کہ جس حالت میں اب ہوں، اس سے بھی برے حال کا سامنا ہوتا۔ چھٹی: یہ کہ ایک وقت سختی ہے، دوسرے وقت اس سے چھٹکارا بھی ہوگا۔

آپ پر زیادتی ہو اہانت ہو یا سب و شتم کیا جائے یا ظلم ہو تو آپ رنج نہ کریں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مومن مطالبہ نہیں کرتا نہ عتاب کرتا اور نہ ہاتھ پائی پر اتر آتا ہے۔

غم نہ کیجئے لوگوں کے ساتھ احسان کر کے نیک نامی کمائیے

ایک معزز آدمی نے ایک شاعر کے ساتھ حسن سلوک کیا اور اس کی مصیبت دُور کر دی تو اُس نے اس کی مدح میں کہا:

”وہ ایسا شخص ہے جسے نوخیزی میں اللہ نے حسن عطا کیا۔ اُس کے چہرہ پر کارناموں کا زیور ہے۔ اس نے بزرگی اور شرافت کا لبادہ پہن رکھا ہے، گویا کہ اس کی پیشانی میں مشتری چمکتی ہے۔ اس کی گردن میں ثریا اور اس کے چہرہ میں چاند ہے۔“

مشکلات و مسائل سے پریشان نہ ہوں بلکہ صبر و تحمل سے کام لیں

شاعر کہتا ہے:

”اے زمانے اگر تیرے پاس اور بھی مصائب ہوں تو لانا نہیں بھی لے آ۔

صبر گھبراہٹ سے زیادہ آسان ہے، تحمل دل چھوٹا کرنے سے بہتر ہے، جو آدمی اپنی مرضی سے صبر نہیں کرتا اسے مجبوراً کرنا پڑے گا۔ متنبی کہتا ہے:

”زمانے نے اتنی مصیبتیں مجھ پر برسائیں کہ میرا دل تیروں کے ہالہ میں ہو گیا۔ جب بھی تیر مجھ پر برسائے جاتے تو ایک کے اوپر ایک تیر لگتا اور ٹوٹ جاتا۔ میں اسی طرح زندہ رہا کہ مصیبتوں کی کوئی پروا نہیں کی کیونکہ ان پر توجہ دینے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔“ ابوالمظفر ایبوردی نے کہا:

”زمانہ میرے لئے اجنبی بن گیا اُسے نہیں معلوم کہ میں باعزت ہوں اور زمانہ کے حادثات سے ذلیل نہیں ہو سکتا۔ زمانہ مجھے اپنا ظلم دکھا رہا ہے اور میں اُسے دکھا رہا ہوں کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے۔“

آپ کے دوست احباب ہیں جو اپنی محبت میں سچے ہیں تو آپ کو کیا غم

نیچے ہم بعض اچھے اشعار کا ترجمہ دے رہے ہیں جس سے قلب کو راحت ملے گی۔ تالیف قلوب اور روحوں کو ملانے کے سلسلہ میں شاعر نے کہا ہے:

ہم یمن کی ایک قیسی دو شیزہ کے پاس اترے جو صالحین کے خاندان سے تھی، اس نے پردہ گراتے ہوئے پوچھا کس سرزمین سے تعلق ہے آپ کون ہیں۔ میں نے اس سے کہا میرا یہ دوست بتویم سے ہے اور میرا خاندان بھی یمنی ہے۔ دونوں دوست مختلف ہیں لیکن زمانہ نے دونوں میں دوستی پیدا کر دی ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں مل جاتی ہیں۔ دوست ہی دوستوں کو تسلی دیتے ہیں۔

”مستقین کے علاوہ اس دن دوست بھی باہم دشمن ہو جائیں گے۔“

اجنبی مسافر کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے:

”بکھرے ارادہ والا جس کے پاس نہ گھر ہے نہ گھر والے نہ بڑوسی، بس چلتے رہنے سے مانوس ہے، حتیٰ کہ لگتا ہے کہ جدائی کے لئے سفر وطن کی طرف واپسی ہے۔“

غم نہ کریں جب کوئی آپ کو روک دے یا آپ کے چہرے

میں ترش روئی پیدا ہو جائے یا کوئی بخیل منع کر دے

سفیان ثوریؒ کہتے ہیں:

”جس مال و زر کو لوگ دروازہ کے پیچھے چھپا کر رکھتے ہیں آپ کو نمک اور پانی اور روٹی اس

غم نہ کریں

کے بدلہ میں کافی ہے، ٹھنڈا پانی پیجئے اور روٹی کھائیے، بہترین ٹرید کھانے والوں کے برابر ہو جائیں گے۔

”لکڑی کا جھونپڑا، اون کا خیمہ اور جو کی روٹی، نفس کی عزت، آبرو کی حفاظت اور شرم و حیا کے تحفظ کے ساتھ، زیادہ باعزت اور زیادہ بلند ہے، شاندار محل اور ہر بہار باغ سے جس کے ساتھ میل اور گدلا پن ہو۔ آزمائش مرض کی طرح ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے جلدی سے زائل کرنے اور اسے بہت بڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے جو شخص بتلائے مصیبت ہو اس کا فرض ہے کہ صبر کے ساتھ کشادگی کا انتظار کرے اور برابر دعا کے طریقے پر گامزن رہے۔“

وقفہ

”اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔“ (۸۷:۱۲)

”اپنے رب کی رحمت سے گم کردہ راہ ہی مایوس ہوتے ہیں۔“ (۵۶:۱۵)

”بے شک اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے۔“ (۵۶:۷)

”تم نہیں جانتے کہ اللہ اس کے بعد ممکن ہے کوئی معاملہ پیدا کر دے۔“ (۱:۶۵)

”ممکن ہے کہ جسے تم برا سمجھو وہ اچھا ہو اور جسے تم اچھا سمجھو وہ تمہارے لئے برا ہو، اللہ جانتا ہے

تم نہیں جانتے“ (۲۱۶:۲)

”اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے،“ (۱۹:۳۲)

”میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے“ (۱۵۶:۷)

”گھبراؤ امت اللہ ہمارے ساتھ ہے“ (۴۰:۹)

”جب تم اپنے رب سے دعا کر رہے تھے اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔“ (۹:۸)

”اور وہی ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے مایوسی کے بعد اپنی رحمت کو بکھیر دیتا ہے“

(۲۸:۳۲)

”رغبت اور خوف سے وہ ہمیں پکارتے تھے اور وہ ہم سے ڈرتے تھے۔“ (۹۰:۲۱)

شاعر کہتا ہے:

”اگر تم اپنے مزاج سے راضی نہ ہو تو دنیا تمہارے لئے خوش گوار کیسے ہو سکتی ہے؟ دنیا کا قیمتی گوہر آبدار نمکین سمندر سے نکالا جاتا ہے۔ بہت سی خوفناک چیزیں تمہارے لئے مسرت اور خوشی لے کر آتی ہیں۔ کتنی ہی سلامتی ممانعت کے بعد ملتی ہے اور بہت سی چیزیں کچی کے بعد درست ہوتی ہیں۔“

کتاب سب سے بہتر دوست ہے

خوش گوار زندگی کے اسباب میں ایک یہ ہے کہ تنہائی میں کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، پڑھنے پر توجہ دی جائے اور عقل کو فائدے پہنچائے جائیں۔ جاہل کتاب پڑھنے کی تلقین کرتا ہے تاکہ رنج و غم کیفیت دور ہو جائے۔ وہ کہتا ہے:

کتاب ہی وہ ہم دم ہے جو تمہیں تکبر میں نہیں ڈالے گا۔ ایسا دوست ہے جو تمہیں بھڑکانے کا نہیں۔ ایسا رفیق ہے کہ جو تمہیں اکٹا ہٹ میں نہ ڈالے گا۔ ایسا دینے والا جو تم سے کبھی کچھ مانگے گا نہیں۔ ایسا دوست ہے جو تمہیں کبھی اشتعال نہیں دلانے گا، ایسا رفیق ہے کہ جو تمہیں افسردہ نہ کرے گا۔ ایسا پڑوسی جو تم سے آگے نکلتا نہیں چاہے گا۔ ایسا دوست جو خوشامد و تملق سے تمہارا مال لینا نہیں چاہے گا۔ تمہارے ساتھ فریب کا معاملہ نہیں کرے گا، وہ جھوٹ بولے گا نہ نفاق سے دھوکہ دے گا۔ کتاب ہی وہ دل نواز ہے جس کو دیکھو تو تمہاری مسرت بڑھے گی، ذہن میں تیزی آئے گی۔ زبان صاف ہوگی اور خط درست ہوگا۔ الفاظ عمدہ ہوں گے۔ پاکیزہ نفس عمدہ ہوگا، سینہ آباد ہوگا۔ لوگ آپ کی تعظیم کریں گے، بڑے لوگ دوست بنیں گے ایک مہینہ میں ہی آپ اتنا مشہور ہو جائیں گے جتنے زمانہ بھر بھی نہ ہوئے۔ تاوان سے نجات، طلب کی شدت سے خلاصی ملے گی۔ جو تعلیم سے کماتے ہیں ان کے دروازہ پر کھڑا نہیں ہونا پڑے گا۔ ان کے آگے بیٹھنا نہیں پڑے گا جو اخلاق میں آپ سے کم تر ہیں۔ دشمنوں کے ساتھ بیٹھنے اور شر و مندوں کی برابری کرنے سے محفوظ رہیں گے۔ کتاب تمہاری اطاعت رات میں بھی ایسے ہی کرے گی جیسی دن میں۔ سفر و حضر میں یکساں تمہارا کہا مانے گی۔ وہ نہ نیند کا بہانہ کرے گی نہ رات میں جگنے کا۔ وہ ایسا معلم ہے جس کی آپ کو ضرورت پڑے تو کبھی پیچھے نہ ہٹے گا۔ تم اسے

غم نہ کریں

پڑھنا چھوڑ دو تب بھی اس کا فائدہ ختم نہ ہوگا۔ اس سے الگ ہٹ جاؤ تو بھی تمہارا کہنا مانے گا۔ تمہاری ہوا اُکھڑ جائے تو بھی تمہاری مخالفت نہ کرے گا۔ اگر اس سے تعلق رکھو گے اور ذرا سا بھی بندھن باندھ لو گے تو دوسروں سے بے نیاز کر دے گا۔ کتاب تمہیں برے ہم نشین کے ساتھ بیٹھنے سے روکے گی۔ اگر اس کا اور کوئی احسان نہ بھی ہو صرف اتنا ہو کہ تمہیں دروازے پر بیٹھ کر گزرنے والوں کو دیکھنے سے روکے تو یہ بھی سلامتی اور غنیمت ہے۔ کیونکہ برے ہم نشینوں کے ساتھ بیٹھنے میں حقوق کی خلاف ورزی، فضول نظر بازی، لایعنی باتوں میں پڑنا، چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی گری باتیں، غلط الفاظ سننا، گھٹیا اخلاق اور جہالتوں میں شامل ہونا پڑتا ہے۔ مطالعہ سے اصل اور فرع دونوں کا حصول ہے۔ اسی طرح کتاب صرف آپ کو بے کار خواہشوں، لہو و لعب اور آرام پسندی سے بھی روک دے تو یہ بھی اس کا آپ پر زبردست احسان اور کرم ہوگا۔ خالی اوقات گزارنے کا بہترین طریقہ کتب بینی ہے۔ یہ تجربہ میں اضافہ عقل و فہم میں بڑھوتری کرتی ہے۔ یہ آبرو کی حفاظت اور دینی اصلاح کا اچھا ذریعہ ہے۔

کتاب کی اہمیت کے سلسلہ میں چند اقوال

ابوسعیدہ کہتے ہیں کہ مہلب نے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا:

”بیٹو! بازار میں بس دو جگہ ایسی ہیں جہاں تم کھڑے ہو سکتے ہو، کھانا بنانے والے یا جلد ساز کی دکان پر۔“ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے ایک شامی شیخ سے ایک کتاب پڑھی جس میں غطفان کے کارنامے تھے ایک جملہ یہ بھی تھا کہ ”کارنامے اب ختم ہوئے اب تو بس کتابوں کے کارنامے ہیں“

حسن اللؤلؤ لوی سے میں نے کہتے سنا کہ میں نے ۴۰ سال اس عالم میں گزارے کہ سونے، قیلوہ کرنے، ٹیک لگانے کے وقت بھی کتاب میرے سینہ پر رکھی رہتی تھی۔ ابن الجہم کہتے ہیں:

”جب بے وقت مجھ پر نیند طاری ہوئی، ضرورت سے زیادہ نیند بھی بہت بری چیز ہے تو میں نے اس وقت حکمت کی کتابوں میں سے کوئی کتاب لی، کتاب پڑھ کر مجھ پر وہی سرمستی طاری ہوتی ہے

جو لذت کے حصول اور کسی کامیابی کے وقت سرور و مستی طاری ہوتی ہے۔ بلکہ یہ انبساطی کیفیت اس سے شدید ہوتی ہے۔“ ابن الجہم کہتے ہیں:

”جب میں کسی کتاب کو منگواتا ہوں اور اسے اچھا اور مفید پاتا ہوں تو تم مجھے دیکھو گے کہ پڑھتا ہوا یہ دیکھتا ہوں کہ کتنے ورق باقی بچ گئے۔ یہ ڈر رہتا ہے کہ کتاب ختم ہو جائے گی اور اس کے فوائد سے محروم ہو جاؤں گا، ہاں اگر کتاب بڑی اور ضخیم ہوتی ہے تو میری خوشی کا کیا پوچھنا، بس زندگی مل جاتی ہے۔“

تھی نے قدماء میں سے کسی کے مطالعہ کتب کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے
 ”اگر کتاب طویل اور کثیر الاوراق نہ ہوتی تو میں اس کی نقل کر لیتا“
 ابن الجہم یہ سن کر بولے:

”جس بات سے تم ڈر گئے مجھے اسی سے اس کا شوق پیدا ہو گیا۔ چھوٹی کتابوں سے مجھے خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ مجھے تو بس بڑی کتاب میں ہی مزہ آتا ہے۔“ سب سے بلند، عمدہ اور نفع کتاب، اللہ کی کتاب قرآن ہے، جس کے بارے میں وہ خود فرماتا ہے:

”یہ کتاب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعہ لوگوں کو خبردار کریں اور مومنین کو یاد دہانی کرائیں آپ کا سینہ اس کے لئے بالکل کھلا ہونا چاہئے۔“ (۲:۷)

مطالعہ کے فائدے

- (۱) دوسوے اور رنج و تفکرات دور ہو جاتے ہیں۔
- (۲) باطل میں پڑنے سے آدمی بچتا ہے۔
- (۳) بے کار اور گپ بازوں سے نجات ملتی ہے۔
- (۴) گفتگو اور بات چیت کا طریقہ آجاتا ہے، زبان فصیح ہوتی ہے اور غلطیاں نہیں ہوتیں۔
- (۵) عقل بڑھتی ہے دل کی صفائی ہوتی اور ذہن کھلتا ہے۔
- (۶) علم وافر ہوتا، فہم کو جلا ملتی اور معلومات کا ذخیرہ بڑھ جاتا ہے۔

غم نہ کریں

- (۷) لوگوں کے تجربوں، حکیموں کی حکمت اور علماء کے استنباط سے فائدہ ہوتا ہے۔
- (۸) علم ہضم کرنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے اور ان مختلف ثقافتوں سے آشنائی ہوتی ہے جن کا زندگی میں اہم کردار ہے۔
- (۹) اہل اسلام کی کتابیں پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ کتاب سب سے بڑا واعظ، بہترین امر و نہی کرنے والا اور سب سے مؤثر تنبیہ کرنے والا ذریعہ ہے۔
- (۱۰) کتاب ذہن کو انتشار سے، دل کو شکست و ریخت سے اور وقت کو ضیاع سے بچاتی ہے۔
- (۱۱) کلام کے فہم، مضمون کے ڈھالنے اور عبارت کے مقصد تک پہنچنے، جملہ کے مدلول اور حکمت کے اسرار و رموز سمجھنے میں کتاب کا مطالعہ رسوخ پیدا کرتا ہے۔ بقول شاعر ”سب سے بڑی لذت معانی کے فہم کی لذت ہے، نہ کہ کھانے پینے اور اینڈ نے کی۔“

جب آپ نے اپنے احسان سے لوگوں کے دل

جیت لئے تو پھر کوئی غم نہیں

آپ کی بھلائی کے بدلے کچھ ہاتھ آپ کے لئے دعا میں اٹھتے ہوں، کچھ زبانیں آپ کو خیر سے یاد کرتی ہیں اور آپ کے لئے دعا گو ہیں۔ آپ مرجائیں گے تب بھی آپ کا نام لوگوں کو یاد رہے گا آپ کی میراث آباد رہے گی اور آپ کا ترکہ مبارک اور طیب ہوگا۔ ایک کریم کی تعریف میں شاعر کہتا ہے:

تم نے کتاب میں ”لائے نفی“ نہیں پائی ہے اسی لئے کسی چیز کو ”نہیں“ نہیں کہتے۔ جب سردی آتی ہے تو تم سورج بن جاتے ہو اور جب گرمی آتی ہے تو گھنی چھاؤں۔ جب تم مال خرچ کرتے ہو تو یہ نہیں دیکھتے کہ تمہاری عطاء سے مال میں اضافہ ہوگا یا کمی لوگوں کی طرف سے تمہیں خیر کا بدلہ ملے گا یا نہیں۔ تم ایک عظیم ہیرو ہو۔ ہم رات میں تمہارے چہرہ کی روشنی میں سفر کرتے ہیں کیونکہ راتوں میں تمہاری جبین مشعل بن جاتی ہے۔ کانوں کو تمہارا تذکرہ کتنا اچھا لگتا ہے جسے مجلسوں میں کتنا ہی دہرایا جائے اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ ہر طرح کے خطروں میں ہم تمہارے اوپر قربان ہیں، جب حجاج احرام

باندھتے ہیں تو (پرخطر سفر میں) تم پر فدا ہوتے ہیں۔

وقفہ

حضرت ابو بکرؓ بیمار پڑے لوگوں نے آپ کی عیادت کی اور کہا کیا طیبیب کو نہ بلا لائیں؟ کہنے لگے وہ پہلے ہی دیکھ چکا ہے، لوگوں نے پوچھا: اس نے کیا کہا؟ فرمایا: اس نے کہا ہے ”میں جو چاہتا ہوں وہ کروں گا۔“ عمر بن الخطابؓ نے کہا: اچھی زندگی وہ ہے جو صبر کے ساتھ گزرے اور فرمایا اچھی زندگی وہ ہے جو صبر سے ملے، اگر صبر انسانی شکل میں ہوتا تو ایک شریف آدمی ہوتا۔ علی بن ابی طالبؓ نے فرمایا: یاد رکھو کہ صبر کا ایمان میں وہی مقام ہے جو جسم میں سر کا ہوتا ہے۔ جسم سے سر کٹ جائے تو جسم بے کار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ جس کے پاس صبر نہیں اس کا ایمان معتبر نہیں۔ اور فرمایا: صبر ایسی سواری ہے جو گرتی نہیں۔ حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ صبر خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو دیتا ہے، عمر بن عبدالعزیزؒ کہتے ہیں: ’اللہ نے بندے کو جو بھی نعمت دی پھر چھین لی ہو اور اس کے عوض میں صبر دیا ہو تو وہ صبر اس چیز سے بہتر ہوگا۔‘ میمون بن مهران کہتے ہیں: صبر سے بہتر کوئی چیز کسی نے نہیں پائی۔ سلیمان بن القاسم کہتے ہیں: ہر عمل کا ثواب معلوم ہے سوائے صبر کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جاتا ہے“ یعنی موسلہ دھار بارش کے مانند۔

ایک دوسرا سٹیج بھی سچے گا ایک نئی زندگی بھی برپا ہوگی

اس لئے غم کی کوئی بات نہیں

ایک دن آئے گا جس میں اللہ اولین و آخرین کو جمع کرے گا۔ اس سے آپ کو اللہ کے عدل و انصاف سے مطمئن ہو جانا چاہئے۔ یعنی جس کا مال یہاں چھن گیا ہے وہ وہاں پالے گا۔ جس کے ساتھ یہاں ظلم ہوا وہاں انصاف ہوگا جو یہاں ظلم کرے گا اسے وہاں سزا ملے گی۔ کہتے ہیں کہ جرمن فلسفی

غم نہ کریں

”کانٹ“ نے کہا کہ دنیوی زندگی کا ڈراما بھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا اُس کا ایک دوسرا سین بھی ہونا چاہئے کیونکہ یہاں ظالم و مظلوم ہیں انصاف نہیں ملتا۔ غالب و مغلوب ہیں بدلہ نہیں پورا ہوتا۔ اس لئے ایک دوسری دنیا کا ہونا بھی ضروری ہے جس میں عدل و انصاف ہو، علیٰ طعناوی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک اجنبی کی جانب سے قیامت اور یومِ آخرت کا ضمنی اعتراف ہے۔ بقول شاعر: وزیر، اس کے سکرپیٹری اور زمین کا منصف سب ظلم و زیادتی کریں تو ان کے لئے بربادی ہی بربادی ہے اور ان سب کو آسمان کے بڑے منصف کی عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ ”آج ظلم نہیں ہوگا بلاشبہ اللہ تیز حساب لینے والا ہے۔“ (۱۷:۴۰)

بعض فلسفیوں کے اقوال و اعترافات

رابرٹ لویس اسٹیفنسن نے لکھا ہے: ”ہر انسان ایک دن میں سخت سے سخت کام کر سکتا ہے اور سورج غروب ہونے تک وہ خوشی کے ساتھ رہ سکتا ہے یہی زندگی کا مفہوم ہے۔“ ایک فلسفی کا کہنا ہے ”تمہارے پاس زندگی کا ایک ہی دن تو ہے ایک کل چلا گیا ایک کل ابھی آئے گا۔ اسٹیفن لیکوک نے لکھا: ”بچہ کہتا ہے: جب میں نوخیز ہوں گا، نوخیز کہتا ہے، جب میں جوان ہوں گا تو شادی کروں گا۔ لیکن شادی کے بعد پھر کیا؟ اور ان سارے مرحلوں کے بعد کیا؟ اب بات یوں ہوگی کہ جب میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا۔ اب وہ پیچھے دیکھتا ہے اسے شدید آندھیاں چھلساتی ہیں۔ جو زندگی گزر گئی وہ اسے کھو چکا۔ جب وقت گزر جاتا ہے تبھی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی ہر ساعت اور ہر منٹ گزرتی ہے۔“ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو توبہ کے لئے نال مثل سے کام لیتے ہیں، سلف میں ایک نے کہا ”میں تمہیں ’سوف‘ (عنقریب) سے خبردار کرتا ہوں۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس نے کتنے ہی خیر و صلاح کے کاموں کو روک دیا ہے۔“

”انہیں چھوڑ دو کہ کھائیں پیئیں اور مزے اڑائیں ان کو امید نے غفلت میں ڈال رکھا ہے یہ جلد ہی جان لیں گے۔“ (۳:۱۵)

فرانسسیسی فلسفی ”مونٹین“ کہتا ہے: میری زندگی ہمیشہ بد قسمتی سے آلودہ رہی جس نے کبھی رحم

غم نہ کریں
نہیں کیا“

اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں میرا کہنا یہ ہے کہ یہ اہل ذکاء تھے، علوم و فنون کے ماہر تھے لیکن خلقت کے اعتبار سے حکمت نہیں جانتے تھے نہ اللہ کی ہدایت کی روشنی ہی پاسکے جو ان کا رسول لے کر آیا

”جسے اللہ روشنی نہ دے اُسے کوئی روشنی نہیں مل سکتی۔“ (۴۰:۲۴)

”ہم نے ان کو راستہ دکھایا یہ جاننے کے لئے کہ یہ شکر کرتے ہیں یا ناشکری کی روش اپناتے ہیں۔“ (۳:۷۶)

دانٹے کا قول ہے کہ ”یہ سوچو کہ آج کا دن دوبارہ طلوع نہیں ہوگا۔“ میں کہتا ہوں کہ اس سے بلیغ اور خوبصورت وہ حدیث ہے کہ ”صلیٰ صلاة مودع“ نماز ایسے پڑھو گویا وہ آخری نماز ہے۔“ جو اپنے دل میں یہ سوچ لے کہ یہ دن اس کا آخری دن ہے۔ وہ توبہ کی تجدید کر لے گا اچھا عمل کرے گا اور طاعت رب اور اتباع رسول میں مشغول رہے گا۔ ہندوستان کے مشہور ڈراما نگار کالیداس نے صبح کا ترانہ لکھا ہے:

”صبح کا سلام ہے اس دن کو دیکھو کیونکہ یہ زندگی ہے، زندگی کی زندگی، اس کی چھوٹی سی مدت میں تمہارے وجود کے مختلف حقائق پائے جاتے ہیں، نعم کی نعمت، اچھا کام، فتح کی مسرت، اور اس لئے کہ گزشتہ کل ایک خواب تھا آنے والا کل بھی ایک خواب ہے، ہاں آج جس کی گھڑیاں تم گزار رہے ہو یہ گزشتہ کو ایک خوبصورت خواب اور آئندہ کو پرامید بنا دیتا ہے اس لئے اس دن کو ذرا قاعدہ سے گزارو یہی صبح کا سلام ہے۔“

گزشتہ دن، آج اور کل کے بارے میں

اپنے آپ سے پوچھئے اور فکر مند نہ رہئے

ماضی اور مستقبل پر آہنی پرے کھینچ دیجئے۔ آج کی گھڑیاں گزاریے اور اپنے آپ سے پوچھئے:

(۱) کیا میں چاہتا ہوں کہ آج کی زندگی کو مستقبل کے بارے میں اضطراب یا اُفق کے پار طلسماتی

دنیا کی آرزو کا شکار بنا دوں؟

(۲) ماضی میں جو حادثات گزرے جو واقعات پیش آئے اور ختم ہو گئے، کیا ان کو یاد کر کے اپنے حال کو بد مزہ کر لوں؟

(۳) صبح میں بیدار ہوں گا تو کیا دن کو استعمال کروں گا اور ۲۴ گھنٹوں سے مستفید ہوں گا؟

(۵) ایسا کرنا کب شروع کروں گا اگلے ہفتہ؟ کل؟ یا آج؟

کوئی حادثہ ہو تو اس پر رنجیدہ نہ ہوں بلکہ اپنے آپ سے پوچھیں

(۱) پوچھئے کہ اس سے زیادہ برا اور کیا ہو سکتا تھا؟

(۲) اپنے کو اسے قبول کرنے کے لئے تیار کیجئے۔

(۳) پھر خاموشی سے اس احتمال کو بہتر بنانے پر توجہ دیجئے

”وہ لوگ جن کو یہ کہہ کر ڈرایا گیا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو۔

مگر ان کے ایمان میں اس سے اضافہ ہی ہوا اور کہنے لگے کہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہی

بہترین کار ساز ہے۔“ (۱۷۳:۳)

کافی ہے اگر ایک خدا میرے لئے ہے

وقفہ

”جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور اُسے وہاں سے روزی

دیتا ہے جہاں سے اُسے گمان بھی نہیں ہوتا، جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لئے کافی ہوگا۔“

(۳-۲:۶۵)

”جلد ہی اللہ تنگی کے بعد فراخی عطا کرے گا۔“ (۷:۶۵)

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے ”یہ جان رکھو کہ صبر کے ساتھ نصرت ملتی ہے۔ دکھ کے ساتھ فراخی

ہے اور غم کے ساتھ سُسر ہے۔“ حدیث قدسی ہے

”میرا بندہ میرے ساتھ جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرتا ہوں، لہذا وہ جو چاہے مجھ سے

”اور اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے“
 (۱۳۷:۲) ”اس پر یقین کیجئے جو زندہ ہے جو مرتا نہیں۔“ (۵۸:۲۵)
 ”ممکن ہے کہ اللہ جلد ہی کامیابی دے یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ لے آئے۔“ (۵۲:۵)
 ”اس کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی دور کرنے والا نہیں۔“ (۵۸:۵۳)
 حسین بن مطیر الاسدی نے کہا:

جب اللہ معاملات کو آسان کر دیتا ہے تو وہ آسان ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، کتنے ہی حاجت مند اپنی حاجت پوری نہیں کر پاتے اور کتنے ہی ضرورتوں سے مایوس ہونے والے اچانک اس کی بشارت پا جاتے ہیں، کتنے ڈرنے والے ایسے ہیں جن سے ڈرا جانے لگتا ہے کتنے تنگ دست مال دار ہو جاتے ہیں، گردش زمانہ سے زمانہ کا کڑوا بیٹھا ہو جاتا ہے۔ دنیا کبھی کبھی دھوکہ دیتی ہے مالدار غریب اور غریب مالدار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کتنی ہی مکدر زندگیاں دیکھیں جو تکدر کے بعد صاف ہو گئیں۔

رنج قوت کو پاش پاش اور جسم کو توڑ دیتا ہے

ڈاکٹر ایکسس کیرل جنہیں طب میں نوبل انعام ملا ہے کہتے ہیں:

”وہ کارکنان جو قلق و اضطراب کا مقابلہ نہیں کر پاتے جلدی مر جاتے ہیں“ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز تو قضاء و قدر سے ہوتی ہے لیکن جسم کے اتلاف اور وجود کو توڑ دینے والے اسباب میں قلق خاص ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ”رنج سے زخم بھی ہرے ہو جاتے ہیں“ ڈاکٹر جوزف ایف مونٹگیو ”اعصاب کا مسئلہ“ کے مؤلف کہتے ہیں ”زخم اس لئے نہیں ہوتا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں بلکہ اس سبب سے ہوتا ہے جو آپ کو کھاتا ہے“، متنبی نے کہا ہے: فکر جسم کو توڑ پھوڑ کر لاغر کر دیتی اور وقت سے پہلے ہی آدمی کو بوڑھا بنا دیتی ہے۔“

مجلہ لائف“ کے مطابق قاتل امراض میں زخم کا درجہ بیسواں ہے، رنج و غم کے بارے میں بعض

باتیں اور پیش کرتے ہیں:

ڈاکٹر ایڈور ہودولسکی کی کتاب کے کچھ حصہ کا میرے لئے ترجمہ کیا گیا عنوان یہ تھا ”قلق کو رخصت کیجئے افضل کی طرف چلیئے“ اس کتاب کے بعض ابواب یوں ہیں:

☆ قلق دل پر کیا اثر ڈالتا ہے ☆ قلق سے ہائی بلڈ پریشر بڑھتا ہے

☆ قلق سے روماتیزم کے امراض ہو سکتے ہیں ☆ اپنا اضطراب کم کر کے معدہ کو راحت دیتے

☆ قلق ٹھنڈک کا سبب بھی بن سکتا ہے ☆ قلق اور غدود

☆ اضطراب اور شکر کی بیماری

ڈاکٹر کارل مائنگر جو نفسیاتی معالجات کے ماہرین میں سے ہیں۔ ان کی کتاب کا ترجمہ اس عنوان سے ہوا ہے ”انسان خود اپنے خلاف“ اس میں وہ کہتے ہیں: ڈاکٹر مائنگر تمہیں اضطراب سے بچنے کے قواعد نہیں بتائے گا بلکہ ایک وحشت ناک رپورٹ دے گا کہ کیسے ہم اپنے جسموں اور عقول کو قلق اور اضطراب، حسد، خوف، بغاوت اور تحقیر جیسی آفتوں سے توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔

قرآن مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: ”العافین عن الناس“ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اس قول کے بڑے فوائد میں سے یہ ہے کہ ایسا کرنے سے دل کو راحت، قلب کو سکون اور خوشی و مسرت ملتی ہے۔ ”بورڈو شہر کا گورنر فرانسیسی فلسفی مونٹین کو بنایا گیا تو اس نے لوگوں سے کہا: ”میں چاہتا ہوں کہ تمہارے مسائل کے حل کے لئے اپنے ہاتھ پاؤں کو لگاؤں لیکن اپنی آنتیں اور جگر نہ لگاؤں“

رنج و غم اور حسد کے اثرات

ڈاکٹر راسل سیٹیل کا تعلق جامعہ کورنیل کے میڈیکل انسٹی ٹیوٹ سے ہے۔ انہوں نے گھٹیا کے چار بڑے اور زیادہ پھیلے ہوئے اسباب بتائے ہیں (۱) شادی کا ٹوٹ جانا (۲) مادی نقصانات اور رنج (۳) قلق اور تنہائی (۴) حقارت اور حسد۔

دانتوں کے امریکی ڈاکٹروں کی یونین کو ایک خطاب میں ڈاکٹر ولیم مالک گوینگل کہتے ہیں ”قلق اور خوف وغیرہ دوسرے غیر خوش کن خیالات جسم میں کمپلیم کی مقدار بڑھا سکتے ہیں اور نتیجتاً

دانتوں کے ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔

اپنے معاملات کو سکون سے حل کیجئے

ڈیل کارنیگی کہتے ہیں: ”اقلیم جنوبی کے زنگی اور چینی لوگوں کو قلق کے سبب ہونے والے امراض قلب سے بہت کم سابقہ پڑتا ہے۔ کیونکہ وہ معاملات کو بہت سکون سے نبھاتے ہیں۔“ اس کا مزید کہنا ہے کہ ”خودکشی کرنے والے امریکی ۵ بڑی بیماریوں کے نتیجے میں مرنے والے امریکیوں سے کہیں زیادہ ہیں“ یہ وحشت ناک حقیقت ایسی ہے جس پر مشکل سے یقین آتا ہے۔

رب تعالیٰ سے خوش گمان رہیں

ولیم جیمس کا کہنا کہ ”اللہ ہمارے گناہ اور غلطیاں معاف فرما دیتا ہے لیکن ہمارا عصبی نظام کبھی ایسا نہیں کرتا“ ابن الوزیر اپنی کتاب ”العواصم من القواصم“ میں لکھتے ہیں: اللہ کی رحمت کی امید بندے کے لئے امید کا دروا کر دیتی ہے، اسے اطاعت کی قوت دیتی ہے اور اسے نفلوں کے لئے چست خیر کے کاموں کے لئے سبقت کرنے والا بنا دیتی ہے۔ ان کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بعض نفوس کی اصلاح اللہ کی رحمت اس کی بندہ نوازی، توبہ کو قبول کرنے کی امید اور اس کی بردباری سے ہوتی ہے۔ توبہ اور توکل سے وہ اس سے قربت اختیار کرتے اور محنت و مشقت سے کام لیتے ہیں۔

جب خیالات ستائیں

تھامس ہڈسن کا کہنا ہے: ”ایسا کوئی ذریعہ نہیں پایا جاتا جس سے انسان تفکرات سے چھٹکارا پالے“ تجربہ سے یہ بات درست معلوم ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ انسان پڑھتے لکھتے وقت بھی سوچ میں پڑا رہتا ہے۔ تفکر کو روکنے اور منضبط بنانے کا بہترین وسیلہ نفع بخش اور سنجیدہ و مفید عمل ہے، خالی رہنے والے ہی خیالات و اوہام کا شکار ہوتے ہیں۔

ثبوت و تعمیری تنقید سے نہ گھبرائیے

اندر یہ مورد کہتا ہے: ”ہماری شخصی خواہشات کے مطابق جو بھی لگتا ہے وہ حقیقی معلوم ہوتا ہے اور جو ایسا نہیں ہوتا اُس سے ہمیں غصہ آتا ہے“ میں کہتا ہوں بالکل ایسے ہی نصیحتیں اور تنقیدیں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر یوں ہوتا ہے کہ ہم مدح و تعریف پسند کرتے ہیں گرچہ جھوٹی ہی ہو اور تنقید و تنقیص کو برا جانتے ہیں گرچہ درست ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بڑا عیب اور بری بات ہے۔

قرآن کہتا ہے: جب انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بلا یا گیا تاکہ ان کے مابین فیصلہ ہو تو دیکھو گے کہ ان کا ایک گروہ اعراض کر رہا ہے اور اگر حق سے ان کو فائدہ ہو تو لپکتے ہوئے اس کی طرف آئیں گے“ ولیم جیمس کہتا ہے کہ ”جب کوئی فیصلہ کر لیا جائے تو اسی دن اس کا نفاذ ہو جانا چاہئے۔ اس صورت میں تم تمام تفکرات سے نجات پا جاؤ گے جو اس مسئلہ میں تمہیں لاحق ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ واقعات کی بنیاد پر جب مناسب فیصلہ پر پہنچ جاؤ تو بس اس کے نفاذ میں لگ جاؤ اس میں کسی تردد یا تشویش کی ضرورت نہیں، نہ قدم پیچھے ہٹاؤ، نہ شکوک و شبہات میں پڑ کر اپنے کو ضائع کرو اور نہ پیچھے کی طرف دیکھو“ شاعر نے کہا کہ کمزور ارادے والے ساری عمر سرگشتگی میں گزار دیتے ہیں اور کامیابی و ناکامی کے بیچ لٹکے رہتے ہیں۔ ایک اور نے کہا اگر رائے رکھتے ہو تو عزیمت والی رائے اختیار کرو کیوں کہ تردد کا ہونا ہی بری بات ہے۔ فیصلہ لینے میں شجاعت کا مظاہرہ ہی آپ کو قلق اور اضطراب سے بچائے گا۔

”جب معاملہ پختہ ہو جائے تو اللہ پر یقین کریں یہ ان کے لئے بہتر ہوگا۔“ (۲۱:۴۷)

انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ

ڈاکٹر رچرڈ کا بوٹ جو ہارڈ یونیورسٹی میں طب کے استاد ہیں، اپنی کتاب ”انسان کس چیز سے زندہ رہتا ہے“ میں لکھتے ہیں: طیب ہونے کی حیثیت سے میں ان مریضوں کے لئے جو شکوک، خوف و تردد سے پیدا شدہ ارتعاش کے شکار ہو جائیں یہ علاج تجویز کرتا ہوں کہ وہ کام کریں کام کرنے سے جو

شجاعت پیدا ہوتی ہے وہ خود پر اعتماد سکھاتی ہے۔ جس کو ایمرسن نے لازوال خوبصورتی سے تعبیر کیا ہے۔

اللہ کا فرمان ہے:

”جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو“ (۱۰:۶۲)

جارج برنارڈشا کہتا ہے ”نامرادی کارا زیہ ہے کہ تمہیں سوچنے کا وقت مل جائے اور تم اپنی خوش قسمتی یا بد قسمتی پر سوچنے لگ جاؤ۔ اس لئے سوچنے کے بجائے کام میں لگتے تب آپ کا خون گردش کرے گا، عقل سوچے گی اور نئی زندگی ذہن سے قلق دور کر دے گی! بس کام کرتے رہئے دنیا میں اس سے بہتر اور سستی دوا اور کوئی نہیں“ فرمایا گیا:

”اور کہئے، عمل کرو۔ اللہ، اس کا رسول اور مومنین عنقریب تمہارا عمل دیکھیں گے“۔ (۱۰۵:۹)

ڈزرائیلی کہتا ہے ”زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے اسے بے کار نہ کرو“ ایک عرب حکیم کہتا ہے ”زندگی اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو بغض و عداوت سے مزید چھوٹا کرنے کی گنجائش کہاں ہے“ اللہ نے فرمایا: ”پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا: بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے ارشاد ہوگا ’تھوڑے ہی دیر ٹھہرے ہونا‘ کاش یہ تم نے اس وقت جانا ہوتا“۔ (۱۱۳:۲۳-۱۱۴)

اکثر افواہیں درست نہیں ہوتیں

امریکی تاریخ کا سب سے بڑا ہندی نژاد جنگجو جنرل جارج کروک اپنی ڈائری میں لکھتا ہے

کہ ”ہندوستانیوں کی پریشانیوں اور اضطراب کی جڑ ان کا تخیل ہے حقیقت نہیں“

جیسا کہ اللہ نے فرمایا ”یہ ہرزور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھ لیتے ہیں“ (۴:۶۳)

”اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو تمہاری پریشانی میں اضافہ کرتے اور تمہارے بیچ دراڑ

ڈالتے“ (۴۷:۹)

کولمبیا یونیورسٹی کے استاد ہو کس کہتے ہیں کہ انہوں نے اس ترانے کو کہ ”سورج کے نیچے یا تو

غم نہ کریں

ہر بیماری کا علاج پایا جائے گا یا بالکل ہی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی علاج ہو تو اسے پانے کی کوشش کرو اور اگر موجود نہ ہو تو اس کی پروا نہ کرو، کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔

صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ”اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کا علاج پیدا کیا ہے، جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ نہیں جانتے۔“

نرمی آپ کو بہت سی مشکلات سے بچاتی ہے

ایک جاپانی استاد نے اپنے طلبہ سے کہا: ”جھکنا درخت خلاف کی مانند ہے تو مقابلہ نہ کرنا شاہ بلوط کی مثل“ حدیث میں آیا ہے کہ ”مومن نرم پودے کی مانند ہوتا ہے جسے ہوا دائیں بائیں جھکائے رہتی ہے“ حکمت والا آدمی چٹان سے نہیں ٹکراتا بلکہ چٹان پر دائیں بائیں اور اوپر نیچے سے آتا جاتا ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ ”مومن اس سدھائے اونٹ کی مانند ہے جسے کسی چٹان پر بٹھا دیا جائے تو بیٹھ جائے گا۔“

جو فوٹ ہو اوہ واپس نہیں آئے گا

قرآن میں فرمایا: ”تا کہ تم فوت شدہ پر افسوس نہ کرو۔“ (۲۳:۵۷)

ڈاکٹر پال پرائنڈونی کھڑے ہوئے اور زمین پر لسی کا گلاس ڈال دیا پھر بولے ”گئی لسی پر افسوس نہ کرو۔“ عام کہاوٹ ہے کہ جو آپ کی قسمت میں نہیں اسکا پانا دشوار ہے، حضرت آدمؑ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا آپ ایسی چیز پر مجھے ملامت کرتے ہیں جسے اللہ نے میری پیدائش سے ۴۰ سال پہلے ہی لکھ دیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دلیل سے آدمؑ موسیٰ پر غالب آگئے یہ بات آپؑ نے تین بار دہرائی

خوش بختی کو اندرون میں ڈھونڈو، اطراف میں یا باہر نہیں۔ انگریزی شاعر ملٹن نے کہا ہے کہ ”عقل اپنی جگہ خود جنت کو جہنم اور جہنم کو جنت بنا سکتی ہے۔“ متنبی نے اس مضمون کو ادا کیا ہے: علم والا اپنی عقل سے نعمتوں کے باوجود نامراد ہو جاتا ہے جب کہ جاہل آدمی اپنی جہل میں بھی (جو نامرادی ہے)

زندگی رنج کے لائق نہیں

سینٹ ہیلینا میں سیپولین نے کہا ”اپنی زندگی میں خوشی و شادمانی کے چھ دن بھی میں نہیں جانتا“ ایسے ہی خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے کہا تھا کہ ”زندگی میں اپنی خوشی کے دن شمار کئے تو وہ کل ۱۳ دن نکلے“ اس کا باپ عبد الملک ہائے کرتا اور کہتا کہ کاش میں نے خلافت کا بار نہ لیا ہوتا“ سعید بن المسیب فرماتے تھے: حمد ہے اللہ کی جس نے لوگوں کو ہمارے پاس آنے پر مجبور کر دیا، ہمیں ان کے پاس جانے پر نہیں، ابن سماک واعظ تھے وہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس آئے، ہارون کو پیاس لگی تھی اس نے ایک گھونٹ پانی مانگا۔ ابن سماک بولے امیر المؤمنین اگر آپ کو پانی کا یہ گھونٹ نہ دیا جائے تو کیا آپ نصف بادشاہت دے کر اسے لے لیں گے؟ ہارون نے کہا ہاں۔ جب اسے پی لیا تو بولے اگر یہ پانی جسم سے نکلنا بند ہو جائے تو کیا اس کے اخراج کے لئے نصف بادشاہت دے دیں گے؟ کہنے لگا ہاں، ابن سماک نے فرمایا۔ تب ایسی بادشاہت سے کیا بھلائی ہے جس کی قیمت پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ہو“ دنیا ایمان سے خالی ہو جائے تو نہ اس کی کوئی قیمت ہے نہ وزن نہ معنی۔

ایمرن خود اعتمادی پر اپنے مقالے کے اخیر میں لکھتا ہے: سیاسی کامیابی، اجرتوں میں اضافہ، مرض سے شفا یا خوشگوار ایام تمہارے سامنے آئیں گے، لیکن اس کی تصدیق نہ کرنا کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری ذات کے علاوہ کوئی بھی چیز تمہیں اطمینان دے سکتی ہو۔ ”اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف خوشی خوشی لوٹ جا“ (۸۹: ۲۷-۲۸)

ناول نگار فلسفی ایکیٹوٹیس نے اس بات سے خبردار کیا ہے:

”اپنے ذہن سے غلط افکار کو کھرچنے کے لئے اس سے زیادہ اہتمام کریں جتنا جسم سے بیماری

اور ورم کے ازالہ کے لئے کرتے ہیں۔“

کیا یہ تعجب خیز نہیں کہ قرآن کریم جسمانی مرض سے زیادہ فکر اور عقیدہ کی بیماری پر توجہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ان کے دلوں میں مرض ہے اللہ نے اس میں اور اضافہ کر دیا۔ اپنے جھوٹ

غم نہ کریں

کے باعث ان کے لئے عذاب الیم ہے۔“ (۱۰:۲) ”جب وہ مجسم ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں میں اور ٹیڑھ پیدا کر دی۔“ (۵:۶۱)

فرانسیسی فلسفی مونٹین نے ذیل کے کلمات کو زندگی کا شعار بنالیا تھا کہ ”کسی حادثہ کا آدمی پر اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا اس حادثہ پر بنی اس کی رائے سے پڑتا ہے“ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے ”اے اللہ مجھے راضی بقضاء بنادے تا کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ جو مجھے پہنچا وہ چوکنے والا نہ تھا اور جو چوک گیا وہ مجھے پہنچنے والا نہ تھا۔“

وقفہ

حزن میں مبتلا نہ ہوں: کیوں کہ حزن ماضی کی یاد سے غمزہ اور مستقبل سے خوف زدہ رکھے گا اور آپ کا پورا دن برباد ہو جائے گا۔ حزن میں مبتلا نہ ہوں کہ حزن سے دل دھڑکے گا، چہرہ ترش ہوگا، روح بجھ جائے گی اور امید ختم ہو جائے گی۔ دل گرفتہ نہ ہوں کہ آپ کے حزن سے دشمن خوش ہوگا، دوست کو غصہ آئے گا، حاسد کی باچھیں کھل جائیں گی اور حقائق آپ کے لئے بدل کر رہ جائیں گے۔ غم نہ کریں کہ غم قضاء سے ٹکرانا، مقدر سے لڑنا، انسانیت سے بغاوت اور نعمت پر ناراضگی ہے۔ غم نہ کریں کہ غم سے کھویا گیا ہاتھ نہیں آتا، مردہ زندہ نہیں ہوتا، تقدیر ٹلٹی نہیں، کوئی فائدہ ہوتا نہیں۔

غمزہ نہ رہیں کہ غم شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، مستقبل مایوسی کا نام ہے۔ اس سے غریبی اور دائمی مایوسی رہتی ہے۔ اس سے بالیقین ناکامی اور بدترین شکست ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”کیا ہم نے آپ لئے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، آپ کا بوجھ ہٹا نہیں دیا جس نے کمر توڑ دی تھی اور آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ پس عُسر کے بعد سُسر ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ لہذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔“ (۸-۱:۹۴)

اللہ پر ایمان کے ساتھ حزن جمع نہیں ہو سکتا

واقعہ یہ ہے کہ ایمان ہی میں خوں رضا مندی، تسلیم و رضا اور امن و سکون کا راز ہے۔ الحاد اور

شک کے ساتھ حیرت اور بدبختی ہوتی ہے۔ میں نے بہت سے ذکی لوگوں بلکہ عمقیریوں کو دیکھا ہے کہ ان کے دل رسالت کے نور سے خالی تھے لہذا ان کی زبانیں بھی شریعت سے منحرف رہیں۔ ابو العلاء المعری شریعت کے بارے میں کہتا ہے: اس میں تناقض ہے اور ہم اس پر خاموش ہی رہ سکتے ہیں!! امام رازی کہتے ہیں: عقول کے اقدام کا انجام انحراف ہے۔ جوینی کو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اللہ کہاں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ہدائی نے حیرت میں ڈال دیا۔ ابن سینا کہتا ہے کہ عقل فعال ہی کائنات میں مؤثر ہے۔ ایلیا ابو ماضی کہتا ہے کہ: میں آیا لیکن کہاں سے آیا یہ نہیں معلوم میں نے سامنے راستہ دیکھا اسی پر میں چل پڑا۔ اس قسم کے اقوال بہت ہیں جن میں بعض حق کے قریب ہیں اور بعض بہت دور ہیں۔ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کا جیسا ایمان ہوگا اسی درجہ کی خوش بختی ملے گی اور جس درجہ شک و حیرت کا شکار ہوگا اسی لحاظ سے اس کی بدبختی بھی ہوگی۔ بعد کے لوگوں کی گمراہیاں قدیم گمراہیوں سے ہی مستعار ہیں۔ قدیم زمانہ میں بد معاش اور مجرم فرعون نے ”میرے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں، میں تمہارا رب سے بڑا رب ہوں“ کے نعرے لگائے تھے۔ ایسے کتنے ہی کفریات ہیں جنہوں نے دنیا کو برباد کر دیا۔ کتاب ”انسان سوچتا ہے“ کے مؤلف جیمس الین کہتے ہیں ”جلد ہی انسان تحقیق کر لے گا کہ جب بھی وہ دوسرے انسانوں اور اشیاء کے بارے میں اپنی سوچ بدلے گا تو وہ اشیاء اور اشخاص بھی بدل جائیں گے۔“ کسی آدمی کو لیجئے جو اپنے خیالات بدل لے، نہایت حیرت انگیز طریقے پر اس کی زندگی کے احوال بدل جائیں گے یعنی مقدس آئینے جو ہمارے نشانے متعین کرتی ہیں وہ ہمارے نفوس ہیں۔ باطل تصورات اور ان کی تاثیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”بلکہ تم نے گمان کر لیا تھا کہ رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے، یہ خیال تمہارے دلوں میں مزین ہو گیا اور تم برے برے گمان کرنے لگے تم تھے ہی ہلاک ہو جانے والے“ (۱۴:۴۸)

”یہ اللہ کے ساتھ جاہلانہ گمان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہمارے اختیار میں کچھ ہے۔ کہہ دو

سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے“۔ (۱۵۴:۳)

جیمس الین نے یہ بھی لکھا ہے: ”انسان جو کچھ بھی انجام دیتا ہے وہ اس کے خاص افکار کا

غم نہ کریں

راست نتیجہ ہوتا ہے، انسان فقط اپنے افکار کے ذریعہ ہی بلند ہوتا، کامیاب ہوتا اور اپنے مقاصد پورے

کرتا ہے اور اگر وہ اپنے فکر کی اتباع نہ کرے تو بد قسمت اور کمزور رہے گا۔“

فکر صائب اور عزیمت صادقہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اگر یہ نکلنا چاہتے تو اس کی تیاری کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھنے کو پسند نہیں کیا“

(۳۶:۹)

”اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خیر جانتا تو ضرور ان کو سنواتا،“ (۲۳:۸)

”ان کے دلوں کی سچائی اللہ کو معلوم ہو گئی تو اس نے ان پر سکینت نازل کی“۔ (۱۸:۲۸)

چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنج نہ کریں

کیوں کہ دنیا تو بے حد چھوٹی اور حقیر ہے

صالحین میں سے ایک بزرگ کو شیر کے پنجرے میں پھینک دیا گیا لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔

لوگوں نے پوچھا اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے؟ کہنے لگے میں شیر کے لعاب کے بارے میں سوچ

رہا تھا کہ کیا وہ پاک ہے یا ناپاک؟ علماء نے اس سلسلہ میں کیا کہا ہے۔

بقول شاعر جس وقت بہادروں کو خارا شگاف تیروں کا خوف ہے میں اللہ کو یاد کرتا ہوں اور

جنگ کے دن تمام تر لڑائی کو بھول جاتا ہوں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرامؓ کے درمیان بھی مقاصد

کے اعتبار سے درجہ بندی کی ہے اور کہا ہے: ”تم میں بعض لوگ دنیا چاہتے ہیں بعض آخرت“ ابن

القیم کہتے ہیں کہ انسان کی قیمت اس کی ہمت اور ارادے سے متعین ہوتی ہے؟ ایک حکیم کہتے

ہیں ”مجھے یہ بتاؤ آدمی کی دلچسپی کیا ہے، میں یہ بتاؤں گا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ بقول شاعر : جو

چراگاہ پہنچنا چاہتا تھا اللہ نے اسے وہاں پہنچا دیا اور جو اطراف چراگاہ پہنچنا چاہتا تھا اسے وہاں پہنچا

دیا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے کہ: وہ لوگ لباس اور سواریاں لے کر آئے اور ہم بادشاہوں کو پابہ جولان

لے کر آئے۔ سمندر میں ایک کشتی پلٹ گئی ایک عابد وزاہد پانی میں گر پڑا تو اپنے اعضاء کو وضو کی

مانند دھونے لگا، ناک میں پانی ڈالا، کلی کی، سمندر نے اسے نکال پھینکا وہ بیچ گیا اس بارے میں اس

سے پوچھا گیا تو کہا کہ موت سے پہلے میں طہارت کے لئے وضو کرنا چاہتا تھا۔
شاعر کہتا ہے:

”ہاتھوں میں جھٹکڑی تھی پھر بھی تم خدا کو نہیں بھولے۔ موت تمہارے پاس کھڑی تھی پھر بھی تمہاری آنکھیں کن آنکھیوں سے نہیں دیکھ رہی تھیں۔“

سکرات موت میں بھی امام احمد اپنی داڑھی کو پانی سے خلال کرنے کا اشارہ کر رہے تھے اور اسے وضو کرانے کے لئے کہہ رہے تھے۔

”دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے۔“ (۱۴۵:۳)

تمہارے اوپر زیادتی ہو تب بھی رنجیدہ نہ ہو

اپنے اوپر زیادتی کو اگر آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں تو دنیا میں عزت اور آخرت میں بڑا مرتبہ ملے گا جیسا کہ ارشاد فرمایا

”تو جو درگزر کر دے اور اصلاح سے کام لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہوگا“ (۴۰:۴۲)

شکسپیئر کہتا ہے: اپنے دشمن کے لئے اتنا الاؤ نہ دہکاؤ کہ اس میں تمہارے بھی جل جانے کا سامان ہو جائے۔ آشوب چشم والی آنکھوں سے کہہ دو کہ بہت سی آنکھیں ہیں جو مطلع صاف ہو یا غبار آلود انہیں سورج دکھائی دیتا ہے۔ ان آنکھوں سے درگزر کرو جن کی بصارت اللہ نے چھین کر ان کا نور بجھا دیا، وہ نہ کچھ یاد رکھتی اور نہ افاقہ پاتی ہیں۔ کسی شخص نے سالم بن عبداللہ بن عمر تابعی سے کہا کہ تم برے آدمی ہو! فرمایا ”مجھے تمہارے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔“ ایک امریکی ادیب کہتا ہے ”ڈنڈے اور پتھر میری ہڈیاں توڑ سکتے ہیں لیکن کلمات مجھے نقصان نہیں دے سکتے۔“ ایک شخص نے حضرت ابوبکرؓ سے کہا ”میں تمہیں ایسی گالی دوں گا جو تمہارے ساتھ قبر تک جائے گی!“ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا ”بلکہ تمہاری قبر میں جائے گی!!“ ایک شخص نے عمرو بن العاص سے کہا ”میں آپ سے جنگ کے لئے یکسو ہو جاؤں گا“ فرمایا ہاں اب تمہیں مصروف کن کام ملا!! جنرل آیزن آدر کہتا تھا: جن لوگوں کو ہم پسند نہیں کرتے ان کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنا وقت کیوں ضائع کریں۔ مجھ پر کھجور سے بولا، رکو میں اڑنا اور تمہیں چھوڑ

غم نہ کریں

دینا چاہتا ہوں۔ کھجور نے کہا، خدا کی قسم جب تو میرے اوپر اترتا تھا میں نے اس وقت کچھ محسوس نہیں کیا تو جب تو اڑ جائے گا تو کیوں محسوس کرنے لگا؟ حاتم نے کہا: شریف و سخی کی غلطیاں اس کی سخاوت کے باعث معاف کر دیتا ہوں اور کینہ و ذلیل کی گالیوں سے اعراض اس لئے کرتا ہوں کہ اپنے شرف کی حفاظت کروں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”وہ لوگ لغوبات سے شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں“ (۷۲:۲۵)

”جب جاہل انہیں خطاب کرتے ہیں تو یہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔“ (۶۳:۲۵)

کنفیوشس نے کہا ہے: غضبناک آدمی ہمیشہ زہر آلود رہتا ہے۔

حدیث میں آیا ہے ”غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو“ اسی میں آگے یہ ہے کہ: ”غصہ آگ کا

ایک انگارہ ہے۔ شیطان تین اوقات میں بندے پر چھا جاتا ہے: غصہ کے وقت، شہوت کے وقت اور غفلت کے وقت۔“

دُنیا تو ایسے ہی لوگوں سے بھری ہے

رومن ایمپائر کے حکمرانوں میں مارکوس اولیوس سب سے بڑا عالم و دانا تھا ایک دن اس نے کہا: آج میں کچھ ایسے لوگوں سے ملوں گا جو بہت بولتے ہیں، ایسے لوگ جو انسانیت والے، خود پسند اور مغرور ہیں لیکن اس سے مجھے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی کیوں کہ میں جانتا ہوں کہ دنیا تو ایسے ہی لوگوں سے بھری پڑی ہے۔

نیک لوگ عنقا نہیں ہوتے

برے لوگوں کا کثرت سے ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں بلکہ تعجب تو یہ ہے کہ نیک پائے جاتے

ہیں اگرچہ کم ہی ہیں۔

ارسطو کہتا ہے: مثالیت پرست آدمی ان اعمال سے خوش ہوتا ہے جو وہ دوسرے لوگوں کے لئے

انجام دے۔ اسے اس سے شرم آتی ہے کہ دوسرے اس کا کام کریں۔ وجہ یہ ہے کہ دوسروں سے ہمدردی

بڑائی کی بات ہے لیکن دوسروں کی ہمدردی قبول کرنا ناکامی کی بات ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

خاموشی اچھی غذا ہے

روٹی کا کلڑا، پانی کا گھونٹ اور تن ڈھانپنے کے لئے کپڑا میسر ہے تو غم نہ کیجئے۔

بحرالکابل میں ایک ملاح بھٹک گیا اور ۲۱ دن تک اسے راستہ نہیں ملا۔ اس کے بعد جب اسے نجات ملی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اس نے سب سے بڑا سبق کیا سیکھا، بولا میں نے اس تجربہ سے سب سے بڑا سبق یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس صاف پانی اور کافی کھانا ہے تو آپ کبھی شکستہ دل نہ ہوں! ایک کا قول ہے زندگی پوری ایک لقمہ روٹی اور ایک گھونٹ پانی ہے اور جو کچھ ہے وہ فضول ہے۔ ابن اللوردی کہتا ہے: کسریٰ کی بادشاہت بھی ایک لقمہ سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ جنتاھن سولفٹ کہتا ہے دنیا میں سب سے بڑے ڈاکٹر یہ ہیں۔ ڈاکٹر رحم، ڈاکٹر سکون، ڈاکٹر خوشی۔ خوشی و مسرت کے ساتھ تھوڑا کھانا ایسا کامیاب علاج ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ میں اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ موٹاپا ایک مزمن مرض ہے۔ تو نند آدمی کی ذہانت اور مسرت کو کھا جاتی ہے۔ خاموشی دل و روح کو آرام دیتی ہے خوش رہنے سے سرور ملتا ہے اور یہ اچھی غذا بھی ہے۔

بلاؤں سے نہ گھبرائیے کہ وہ انعام و عطیہ بھی ہو سکتے ہیں

ڈاکٹر صموئیل جانسن کہتا ہے: ہر حادثہ میں مثبت پہلو ڈھونڈنا سال بھر میں ہزار گنیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”کیا یہ نہیں دیکھتے کہ سال میں ایک یا دو بار ان کی آزمائش ہوتی ہے، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، نہ نصیحت حاصل کرتے۔“ (۱۲۶:۹)

حضرت معاویہؓ کہتے ہیں بردبار نہیں ہوتا مگر تجربے والا۔ افسسین کے بارے میں ابو تمام نے کہا: ان کے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں تھیں، لگتا تھا وہ اجنبیت اور قید کی حالت میں ہیں۔

غم نہ کریں

سلف کے ایک شخص نے عشرت پسندوں میں سے ایک سے کہا تمہارے پاس نعمت ہے اسے شکر کے ذریعہ قید کر لو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب بڑا شدید ہے“ (۷:۱۳)

”اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو پر امن و باطمینان تھی۔ جسے ہر جگہ سے خوب خوب روزی مل رہی تھی۔ اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کے باعث انہیں بھوک اور خوف کا مزہ چکھا دیا“۔ (۱۱۳:۱۶)

انسان عالم اصغر ہے

آپ اگر فلاں کے طرز پر نہیں فلاں کی طرح نہیں تو کیا غم کہ آپ الگ چیز ہیں۔ ڈاکٹر جیمس گورڈن گلکلی کہتے ہیں: ”یہ مسئلہ کہ آپ بالکل الگ اور منفرد ہوں اتنا ہی قدیم ہے جتنی تاریخ۔ انسانی زندگی میں یہ ایک عام بات ہے، منفرد ہونے کے رجحان کی کمی نفسیاتی پیچیدگیوں کی سبب ہے۔“ ایک کا حکیم کا قول ہے کہ آپ مخلوق میں سب سے الگ ہیں آپ کے مثل کوئی نہیں نہ آپ کسی سے ملتے جلتے ہیں، کیونکہ خالق دو جہاں نے مخلوقات کے فرق و امتیاز رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”بلاشبہ تمہاری کوشش الگ الگ ہیں“ (۴:۹۴)

”بچہ کی تربیت“ پرائیگلو پیٹر نے ۱۳ کتابیں لکھی ہیں ہزاروں مقالات و مضامین لکھے۔ اس کا کہنا ہے کہ ”اس سے زیادہ نامراد اور کوئی نہیں جو غیر کی طرح بننا چاہے اور اپنے جسم اور سوچنے کے انداز کو بدلنا چاہے“۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا

”اس نے آسمان سے پانی برسایا جو اس کے مطابق نہریں اور تالے بن کر بہہ پڑا“ (۱۷:۱۳)

ہر ایک کے اپنے صفات، قوتیں اور صلاحیتیں ہیں۔ ایک آدمی دوسرے میں جذب نہیں ہو

"خُجْزِ قِيءٍ مَرِيءٍ" سے مراد ہے کہ جو شخص کو کھانسی کی وجہ سے ناس کی آواز آتی ہے اسے
 خُجْزِ قِيءٍ مَرِيءٍ کہتے ہیں۔ اس کی علامتیں ہیں کہ ناس سے نکلنے والی ہوا سرد اور خشک
 ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناس سے نکلنے والی ہوا میں تھکن اور بے ہوشی کا احساس ہوتا ہے۔
 اس کی وجہ سے ناس کی آواز آتی ہے اور اس کی علامتیں ہیں کہ ناس سے نکلنے والی ہوا سرد اور خشک
 ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناس سے نکلنے والی ہوا میں تھکن اور بے ہوشی کا احساس ہوتا ہے۔
 اس کی وجہ سے ناس کی آواز آتی ہے اور اس کی علامتیں ہیں کہ ناس سے نکلنے والی ہوا سرد اور خشک
 ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناس سے نکلنے والی ہوا میں تھکن اور بے ہوشی کا احساس ہوتا ہے۔

اس کی علامتیں ہیں کہ ناس سے نکلنے والی ہوا سرد اور خشک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ
 ناس سے نکلنے والی ہوا میں تھکن اور بے ہوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے
 ناس کی آواز آتی ہے اور اس کی علامتیں ہیں کہ ناس سے نکلنے والی ہوا سرد اور خشک
 ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناس سے نکلنے والی ہوا میں تھکن اور بے ہوشی کا احساس ہوتا ہے۔

اس کی علامتیں ہیں کہ ناس سے نکلنے والی ہوا سرد اور خشک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ

اس کی علامتیں ہیں کہ ناس سے نکلنے والی ہوا سرد اور خشک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ
 ناس سے نکلنے والی ہوا میں تھکن اور بے ہوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے
 ناس کی آواز آتی ہے اور اس کی علامتیں ہیں کہ ناس سے نکلنے والی ہوا سرد اور خشک
 ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناس سے نکلنے والی ہوا میں تھکن اور بے ہوشی کا احساس ہوتا ہے۔

”اس کو علم والے ہی سمجھ پاتے ہیں“ بلاشبہ بندوں میں علم والے ہی اللہ سے ڈر رکھتے ہیں۔“
علم اور ایمان والے بولے اللہ کے قانون میں تم لوگ قیامت کے دن تک ٹھہرے ہو۔“ ”کہہ دو میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ایک ایک دو دو کر کے اللہ کے آگے کھڑے ہو پھر سوچو کہ تمہارے صاحب پر جن نہیں آتے“

ڈاکٹر اے اے بریل کہتا ہے ”ایک حقیقی ایمان والے کو کبھی نفسیاتی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی۔“
”جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، رحمان ان کے لئے محبت رکھ دے گا۔“ (۹۶:۱۹) ”جو مرد و عورت ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے ہم انہیں خوش گوار زندگی گزاروائیں گے۔“ (۹۷:۱۶)
”بلاشبہ اللہ ایمان والوں کو صراطِ مستقیم کی رہنمائی دیتا ہے۔“ (۵۴:۲۲)

ایمان سے شفا ملتی ہے

ماہرینِ نفسیات میں ایک بڑا نام ڈاکٹر کارل جانگ کالج ہے۔ وہ اپنی کتاب ”نیا انسان روح کی تلاش میں“ میں لکھتے ہیں ”گزشتہ ۳۰ سالوں میں دنیا بھر سے لوگ مشورہ لینے آتے رہے۔ میں نے سیکڑوں مریضوں کا علاج کیا۔ ان میں زیادہ تر عمر کے بیچ کے حصہ میں تھے۔ یعنی ۳۵ سال سے زیادہ کے تھے۔ ان میں کے ہر شخص کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کسی مذہب کی پناہ گاہ میں تھے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک کی بیماری یہ تھی کہ مذہبِ ایمان والوں کو جو کچھ دیتا ہے وہ ان سے چھن گیا تھا۔ جو حقیقی ایمان بحال نہ کر سکے اسے شفا نہیں ملتی۔“

”جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔“ (۱۲۴:۲۰)

”عقرب کافروں کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے۔“ (۱۵۱:۳)

”تمہ یہ تہہ تاریکیاں ہیں جب آدمی اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے دیکھ بھی نہیں پاتا جسے اللہ روشنی نہ دے اُسے کوئی روشنی نہیں ملے گی۔“ (۴۰:۲۴)

اللہ تعالیٰ، مجبورِ مشرک کی بھی سنتا ہے

نے فرمایا

”جب ان کو ہماری صاف صاف آیات پڑھ کر سنائی جاتیں جنہوں نے کفر کیا وہ اہل ایمان سے کہتے کہ بتاؤ کس کا رتبہ بڑا اور کس کا جتنا زیادہ ہے۔“ ۱۹:۳۷ ”انہوں نے کہا ہم زیادہ مال و دولت والے ہیں اور ہمیں عذاب نہیں ہو سکتا۔“ ۳۵:۳۴ ”کیا یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے ہمیں چھوڑ کر فضل کیا ہے۔ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جانے والا نہیں ہے۔“ ۵۳:۶ ”اور کافروں نے مومنین کی نسبت کہا کہ یہ امر اچھا ہوتا تو یہ ہم سے سبقت نہ کرتے۔“ ۱۱:۴۶ ”جنہوں نے استکبار کیا انہوں نے کہا جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔“ ۷:۶ ”انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دو بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا۔ کیا یہ لوگ تمہارے رب کی رحمت تقسیم کریں گے۔“ ۳۱:۴۳

یہاں عمنترہ کا ایک شعر یاد کرنے کے قابل ہے جس میں وہ کہتا ہے:

”لوگ اسے غلام سمجھتے ہیں تو کیا ہوا وہ اپنے کارناموں، عزت و شرافت اور بہترین خوبیوں کی بنا پر سردار ہے اور اگر اس کا رنگ کالا ہے تو کیا ہوا اخلاق کے اعتبار سے تو وہ سفید ہے۔“

ایک عضو کھوجانے کا کیا غم دوسرے اعضاء تو سلامت ہیں

ابن عباسؓ کا شعر ہے:

اگر اللہ میری آنکھوں سے نور لے لے تو میری زبان اور کانوں میں تو روشنی ہے۔ میرا دل ذکی ہے۔ عقل میں کمی نہیں، میرے منہ میں تلوار کی طرح چلتی زبان ہے۔ جو تکلیف لاحق ہوتی ہے اُس میں خیر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے لئے خیر ہو۔“ ۲۱۶:۲

بشار بن برد نے کہا:

”دشمن مجھے عار دلاتے ہیں حالانکہ عیب تو انہیں کے اندر ہے۔ اندھا کہا جانا کوئی عیب کی بات نہیں، جب آدمی مردانگی اور تقویٰ رکھے تو آنکھوں کا اندھا پن کیا نقصان دے گا۔ اندھے پن میں اجر ہے؛ خیرہ ہے اور عصمت ہے اور میں ان تین چیزوں کا ہی محتاج ہوں۔“

ابن عباسؓ اور بشار بن برد کی باتوں میں فرق ہے اسی طرح صالح بن عبد القدوس جب اندھا

غم نہ کریں

کا انکار کرنے لگتا ہے گویا کہ اس نے کوئی خیر دیکھا ہی نہیں اور کوئی فراخی پائی ہی نہیں۔ ایسے میں اسے شدت کے بعد کوئی نعمت ملے تو کہتا ہے کہ ”میری مشکلات دور ہو گئیں۔“ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد مجھے کوئی نقصان یا آفت لاحق نہ ہوگی۔ اب وہ ”اتر اتا ہے“ فخر کرتا ہے، دوسروں پر فخر کرتا ہے اور اپنے ہاتھ میں جو ہوتا ہے اس پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا: سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اعمال صالحہ کئے ان کے لئے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔“ (۱۱:۱۱)

زمین اور بھی آسمان اور بھی ہیں

ایک کا قول ہے سفر اندیشوں اور تفکرات کو ختم کر دیتا ہے۔ حافظ الرامہرمزی اپنی کتاب ”المحدث الفاضل“ میں طلب علم کے لئے سفر اور اس کی لذتوں کے وصف اور سفر کی مذمت کرنے والوں کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ”سفر کرنے والوں پر معترض یہ جان لیتا کہ سفر کرنے والے کو سفر میں کتنی لذت ملتی ہے، وطن سے جدائی پر کیا نشاط حاصل ہوتا ہے، منازل، پڑاؤ اور ظاہر و باطن میں مختلف ملکوں کے نشیب و فراز، باغات اور کھیتوں کے مناظر سے آدمی کے اعضاء و جوارح کو کتنا سکون اور لطف ملتا ہے، نئے چہرے دیکھنے، ملکوں کے عجائب کے مشاہدہ، رنگوں اور زبانوں کے فرق و اختلاف، گھنے اور سایہ دار درختوں کے سایہ میں بیٹھنے آرام کرنے، مساجد میں کھانے، وادیوں میں پینے اور رات کی نیند میں، نوکر چاکر کو چھوڑ کر ساتھیوں سے لٹنی لٹنی دوستی کرنے میں کیا مزہ ہے۔ اور جب مسافر اپنے مقصد کو پالیتا اور اس مجلس میں آجاتا ہے جس کا سفر کیا تھا اور مشتتیں اٹھائی تھیں تو اسے پتہ چلے کہ دنیا کی لذتیں اور عیش و آرام تو انہیں مشاہدہ، ان کے محاسن، ان مناظر سے شاد کام ہونے اور ان فوائد کو لوٹنے میں ہیں اور ان لذتوں سے یہ معترض اور اس کے جیسے لوگ محروم ہیں۔“

شاعر نے کہا: ”جس جگہ تمہاری اہانت ہو وہاں سے خیمہ اٹھا لو، ذلت کی جگہ سے بچو، ذلت بچنے کی ہی چیز ہے۔“

وقفہ

”اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے انہیں ابتلا میں ڈالتا ہے۔ جو اس پر راضی ہو جائے اس سے

غم نہ کریں

شدائد اور بلائیں آپڑیں گی جو ختم ہونے کا نام نہ لیں گی اور وہ اندیشے لاحق ہوں گے جن سے بچنا مشکل ہوگا۔ ایسی حالت میں تو بس بندہ اور اس کے رب کے مابین سرگوشیاں ہی کام آسکتی ہیں کیونکہ رب تعالیٰ ہی بھیدوں کو جانتا اور بصیرت عطا کرتا ہے۔ اللہ کے بجائے بندوں سے زیادہ تعلق رکھا جائے تو اس میں پریشانیاں بڑھیں گی فائدہ نہیں ہوگا۔ مایوسی کے وقت اللہ کی جانب سے ایک روحانی قلبی سکون کا جھوٹا آتا ہے جو بندوں میں سے جسے وہ چاہے اس کو نصیب ہوتا ہے۔ فراخی لانے اور معاملہ کو آسان کرنے کے لئے اللہ سے ہی رجوع کرنا چاہئے۔ وہی بہترین مرجع ہے۔ ہمارے لئے وہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ میں نے تنوخی کی کتاب 'الفرج بعد الشدة' کا کئی بار مطالعہ کیا اس سے تین خاص فائدے حاصل ہوئے۔ ایک اس بات کا یقین کہ تکلیف کے بعد فراخی کا ہونا سنت الہی ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جیسے رات کے بعد صبح کا آنا یقینی ہے۔ دوسرے مصائب زیادہ تر بندے کے دین و دنیا میں فائدوں کا باعث ہوتے ہیں جب کہ راحتیں برعکس ہوتی ہیں۔ تیسری بات نقصان کو دفع کرنے والا فائدے پہنچانے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے جو پریشانی ہمیں لاحق ہوتی ہے وہ چوک نہیں سکتی تھی اور جو چوک گئی وہ لاحق نہیں ہو سکتی تھی۔

دنیا اس سے بہت حقیر ہے کہ اس پر غم کیا جائے

ابن المبارک مشہور و معروف عالم دین ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عدی بن زید کا قصیدہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ امیر طاہر بن الحسین کا نخل مجھے دے دیا جائے۔ عدی کا قصیدہ مشہور ہے اس میں یہ مصرعے بھی ہیں جن کا مفہوم یوں ہے:

”دوسروں کی مصیبتوں پر خوشی منانے والے کیا تجھ سے اس بات کا کوئی پیمانہ باندھا گیا ہے کہ ان جیسی مصیبت تجھ پر نہیں پڑے گی؟ کیا زمانہ نے تجھ سے کوئی معاہدہ کر لیا ہے کہ تو پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا؟ پھر یہ خوشی کس لئے؟“

صحیح حدیث میں آیا ہے: ”اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کی ایک ٹانگ کے برابر بھی قیمت رکھتی تو وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی اس میں سے نہ پلاتا۔“ یہی دنیا کی قیمت اور اس کا وزن ہے لہذا

غم نہ کریں

لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ الوہیت کی صفات اور صفات کمال میں منفرد ہے۔ اس کلمہ کی روح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی تمہارا رب مانا جائے، وہی اللہ واحد ہے۔ محبت، اجلال، تعظیم، خوف اور اُمید اور ان کے جو تابع ہیں یعنی توکل انابت، رغبت اور خوف سب اسی کے لئے خاص کئے جائیں۔ اس کے سوا کسی سے محبت نہ ہو، ساری محبتیں اس کی محبت کے تابع ہوں اور ان سے اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہو، اس کے سوا نہ کسی سے خوف ہو نہ امید، نہ اس کے علاوہ کسی پر توکل ہو، رغبت صرف اسی سے ہو، خوف بس اسی کا، قسم بس اسی کے نام کی کھائی جائے۔ نذر صرف اسی کی مانی جائے۔ توبہ اسی سے کی جائے، حکم اسی کا مانا جائے، ثواب کی اُمید اسی سے ہو، شہادت میں اسی سے استغاثہ کیا جائے، پناہ اسی کی پکڑی جائے، سجدہ اسی کو ہو، ذبح اسی کے لئے اور اسی کے نام سے کیا جائے اور ان تمام باتوں کا جامع یہ کلمہ ہے کہ عبادت کی تمام تر اقسام صرف اور صرف اسی کے ساتھ خاص ہیں۔

کسی آفت کا لاحق ہو جانا آپ کو تفوق سے نہیں روک سکتا

عکاظ شمارہ ۱۰۲۶۲ مورخہ ۷/۴/۱۴۱۵ھ کے ضمیمہ میں ایک نابینا ادیب کا انٹرویو شائع ہوا ہے جس کا نام محمود بن محمد المدنی ہے۔ انہوں نے ادب کی کتابیں دوسروں کی آنکھوں سے پڑھیں۔ تاریخ کی کتابوں، مجلات، ششماہی رسالوں اور اخبارات کا مطالعہ کیا۔ ایسا بھی ہوتا کہ ایک دوسرے کو پڑھ کر سنتے سنتے رات کے تین تین بھی بچ جاتے، پھر وہ زمانہ آیا کہ یہ صاحب علم و فن، علم و ادب اور صحافت کے میدان میں مرجع خلائق ہو گئے۔

مصطفیٰ امین نے الشرق الاوسط کے اپنے کالم ”فکرۃ“ کے تحت لکھا:

”خالموں کے ظلم، مکاروں کے مکر اور جاہلوں کے جبر پر صرف پانچ منٹ صبر کر لو، کوڑا جلد ہی ٹوٹ جائے گا، بیٹریاں کٹ جائیں گی، مجبوس باہر نکل آئے گا، اندھیرا چھٹ جائے گا، آپ بس صبر و انتظار کریں۔ شاعر کے بقول:

۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ و ۱۴۰۰ و ۱۵۰۰ و ۱۶۰۰ و ۱۷۰۰ و ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ و ۲۰۰۰

۱۱۱۱ و ۱۲۱۲ و ۱۳۱۳ و ۱۴۱۴ و ۱۵۱۵ و ۱۶۱۶ و ۱۷۱۷ و ۱۸۱۸ و ۱۹۱۹ و ۲۰۲۰

۲۱۲۱ و ۲۲۲۲ و ۲۳۲۳ و ۲۴۲۴ و ۲۵۲۵ و ۲۶۲۶ و ۲۷۲۷ و ۲۸۲۸ و ۲۹۲۹ و ۳۰۳۰

۳۱۳۱ و ۳۲۳۲ و ۳۳۳۳ و ۳۴۳۴ و ۳۵۳۵ و ۳۶۳۶ و ۳۷۳۷ و ۳۸۳۸ و ۳۹۳۹ و ۴۰۴۰

۴۱۴۱ و ۴۲۴۲ و ۴۳۴۳ و ۴۴۴۴ و ۴۵۴۵ و ۴۶۴۶ و ۴۷۴۷ و ۴۸۴۸ و ۴۹۴۹ و ۵۰۵۰

۵۱۵۱ و ۵۲۵۲ و ۵۳۵۳ و ۵۴۵۴ و ۵۵۵۵ و ۵۶۵۶ و ۵۷۵۷ و ۵۸۵۸ و ۵۹۵۹ و ۶۰۶۰

۶۱۶۱ و ۶۲۶۲ و ۶۳۶۳ و ۶۴۶۴ و ۶۵۶۵ و ۶۶۶۶ و ۶۷۶۷ و ۶۸۶۸ و ۶۹۶۹ و ۷۰۷۰

۷۱۷۱ و ۷۲۷۲ و ۷۳۷۳ و ۷۴۷۴ و ۷۵۷۵ و ۷۶۷۶ و ۷۷۷۷ و ۷۸۷۸ و ۷۹۷۹ و ۸۰۸۰

۸۱۸۱ و ۸۲۸۲ و ۸۳۸۳ و ۸۴۸۴ و ۸۵۸۵ و ۸۶۸۶ و ۸۷۸۷ و ۸۸۸۸ و ۸۹۸۹ و ۹۰۹۰

۹۱۹۱ و ۹۲۹۲ و ۹۳۹۳ و ۹۴۹۴ و ۹۵۹۵ و ۹۶۹۶ و ۹۷۹۷ و ۹۸۹۸ و ۹۹۹۹ و ۱۰۰۰

۱۰۱۰ و ۱۰۲۰ و ۱۰۳۰ و ۱۰۴۰ و ۱۰۵۰ و ۱۰۶۰ و ۱۰۷۰ و ۱۰۸۰ و ۱۰۹۰ و ۱۱۰۰

۱۱۱۰ و ۱۱۲۰ و ۱۱۳۰ و ۱۱۴۰ و ۱۱۵۰ و ۱۱۶۰ و ۱۱۷۰ و ۱۱۸۰ و ۱۱۹۰ و ۱۲۰۰

۱۲۱۰ و ۱۲۲۰ و ۱۲۳۰ و ۱۲۴۰ و ۱۲۵۰ و ۱۲۶۰ و ۱۲۷۰ و ۱۲۸۰ و ۱۲۹۰ و ۱۳۰۰

۱۳۱۰ و ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰

۱۴۱۰ و ۱۴۲۰ و ۱۴۳۰ و ۱۴۴۰ و ۱۴۵۰ و ۱۴۶۰ و ۱۴۷۰ و ۱۴۸۰ و ۱۴۹۰ و ۱۵۰۰

۱۵۱۰ و ۱۵۲۰ و ۱۵۳۰ و ۱۵۴۰ و ۱۵۵۰ و ۱۵۶۰ و ۱۵۷۰ و ۱۵۸۰ و ۱۵۹۰ و ۱۶۰۰

۱۶۱۰ و ۱۶۲۰ و ۱۶۳۰ و ۱۶۴۰ و ۱۶۵۰ و ۱۶۶۰ و ۱۶۷۰ و ۱۶۸۰ و ۱۶۹۰ و ۱۷۰۰

۱۷۱۰ و ۱۷۲۰ و ۱۷۳۰ و ۱۷۴۰ و ۱۷۵۰ و ۱۷۶۰ و ۱۷۷۰ و ۱۷۸۰ و ۱۷۹۰ و ۱۸۰۰

۱۸۱۰ و ۱۸۲۰ و ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰ و ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰

۱۹۱۰ و ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰

۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ و ۲۰۳۰ و ۲۰۴۰ و ۲۰۵۰ و ۲۰۶۰ و ۲۰۷۰ و ۲۰۸۰ و ۲۰۹۰ و ۲۱۰۰

۲۱۱۰ و ۲۱۲۰ و ۲۱۳۰ و ۲۱۴۰ و ۲۱۵۰ و ۲۱۶۰ و ۲۱۷۰ و ۲۱۸۰ و ۲۱۹۰ و ۲۲۰۰

۲۲۱۰ و ۲۲۲۰ و ۲۲۳۰ و ۲۲۴۰ و ۲۲۵۰ و ۲۲۶۰ و ۲۲۷۰ و ۲۲۸۰ و ۲۲۹۰ و ۲۳۰۰

سرخ تر شرفی تہ۔ "لم یختر آتہ" کے معنی ہے کہ اس شخص نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے۔
 یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے۔
 یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے۔

(۵:۵) "یہ اس شخص کو نہیں دیکھا ہے، اور اس شخص کو نہیں دیکھا ہے۔"

اس شخص نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے، اور اس شخص کو نہیں دیکھا ہے۔
 یہ شخصیت جو اس شخص کو نہیں دیکھا ہے، اور اس شخص کو نہیں دیکھا ہے۔
 اس شخص نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے، اور اس شخص کو نہیں دیکھا ہے۔
 اس شخص نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے، اور اس شخص کو نہیں دیکھا ہے۔
 اس شخص نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے، اور اس شخص کو نہیں دیکھا ہے۔

اس شخص نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے، اور اس شخص کو نہیں دیکھا ہے۔
 اس شخص نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے، اور اس شخص کو نہیں دیکھا ہے۔

اس شخص نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے، اور اس شخص کو نہیں دیکھا ہے۔
 اس شخص نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے، اور اس شخص کو نہیں دیکھا ہے۔
 اس شخص نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے، اور اس شخص کو نہیں دیکھا ہے۔
 اس شخص نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے، اور اس شخص کو نہیں دیکھا ہے۔

اس شخص نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے، اور اس شخص کو نہیں دیکھا ہے۔
 اس شخص نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے، اور اس شخص کو نہیں دیکھا ہے۔
 اس شخص نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے، اور اس شخص کو نہیں دیکھا ہے۔
 اس شخص نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے، اور اس شخص کو نہیں دیکھا ہے۔

تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا بدلہ اور سزا اللہ جلد ہی دیتا ہے: بغاوت و وعدہ ان جیسا کہ فرمایا ”تمہاری بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑے گی۔“ دوسری عہد کی خلاف ورزی: فرمایا ”جو شخص عہد توڑتا ہے وہ اپنے خلاف ہی کرتا ہے“ تیسری چیز مکرو فریب ہے۔ فرمایا ”برا مکر مکاروں کو ہی گھیر لیتا ہے“ ظالم اللہ کے قبضہ بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتا۔ فرمایا ”ان کے گھر دیکھو، ان کے ظلم کی وجہ سے اوندھے منہ پڑے ہیں۔ یاد رکھئے کہ عمل صالح کا نتیجہ جلد بھی ملتا ہے دیر میں بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور شکر قبول کرنے والا ہے: ”تو اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب اور آخرت کا اچھا انجام عنایت کیا۔“ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان سے محبت رکھتا ہے“ تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا“ ”جب بندہ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کا معاملہ اس رب کے ساتھ ہے جو روزی دیتا اور نصرت فرماتا ہے“ اللہ ہی رازق ہے“ ”نصرت اللہ کے پاس سے ہی آتی ہے“ وہی توبہ قبول کرنے والا ہے“ وہی توبہ اور رحیم ہے“ وہ اپنے دوستوں کے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے۔ ”ہم ہیں انتقام لینے والے لہذا اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا اور سب سے برتر ہے“ ”کیا اس کا کوئی ہم نام تمہیں معلوم ہے؟“

شیخ عبدالرحمن بن سعدی کا ایک بہترین رسالہ ہے جس کا عنوان ہے ”الوسائل المفيدة فى الحياة السعيدة“ اُس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اسباب سعادت میں سے یہ ہے کہ بندہ اس بات کو دیکھے کہ اللہ کی اُس پر کیا نعمتیں ہیں۔ وہ پائے گا کہ وہ کتنے ہی لوگوں سے فائق ہے جنہیں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ اس وقت بندہ یہ محسوس کرے گا کہ اللہ کا اس پر بڑا فضل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آدمی اگر باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت اور ذکر اذکار کی پابندی کرتا ہے تو وہ بہت سے لوگوں سے دینی معاملات میں بھی فائق ہے۔ یہ ایسی نعمت جلیلہ ہے جو انمول ہے ”اس نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری و باطنی نعمت مبذول فرمائی۔“

ذہبی نے محدث کبیر ابن عبدالباقی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بغداد میں جامع دارالسلام سے نکلنے کے بعد جائزہ لیا تو پایا کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو یہ تمنا کرتا کہ وہ اپنی جائے نماز پر ہوتا۔ ان کی اس بات میں ایجابی اور منفی دونوں پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔“ (۷۰:۱۷)

وقفہ

اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں چند ایسے کلمات نہ سکھا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت کہو؟ وہ یہ کہ اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔“ ایک روایت میں یوں ہے: ”جسے کوئی پریشانی، فکر، غم، بیماری یا شدت لاحق ہو اور وہ کہے اللہ ربی لا شریک لہ تو اس کی مصیبت ختم کر دی جائے گی۔“ بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو تہہ بہ تہہ تاریکیوں کی مانند آدمی کے دل پر چھا جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے رب کی طرف لپکتا ہے، اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے ڈال دیتا ہے اور مخلوق میں سے کسی کو شریک نہیں کرتا تو اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح کی دعائیں جو آدمی غفلت بھرے اور ست دل سے ادا کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔“ شاعر کہتا ہے:

”مال اور تعلقات کے فوت ہونے کا ہمیں کوئی غم نہیں اگر ہماری روحیں سلامت ہیں۔ مال کمایا جاسکتا ہے، عزت بھی حاصل ہو جائے گی اگر اللہ نفوس کو ہلاکت سے بچالے۔“

حاسد سے حفاظت کا نسخہ

- (۱) معوذات (وہ آیتیں اور اذکار جن میں اللہ سے پناہ لی گئی ہے)، اذکار اور عام دعائیں: اللہ نے فرمایا کہ ”حاسد کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔“ (۵:۱۱۳)
- (۲) حاسد سے اپنے معاملات چھپائیے: جیسا کہ حضرت یعقوبؑ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا ”تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے آنا۔“ (۶۷:۱۲)
- (۳) حاسد سے دور رہئے: فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ”اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھے چھوڑ دو۔“
- (۴) حاسد کی اذیت سے بچنے کے لئے اُس کے ساتھ احسان کریں۔ جیسا کہ فرمایا گیا: ”احسن طریقے سے برائی کو دفع کرو۔“ (۹۶:۲۳)

لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیے

حسن اخلاق برکت و سعادت کا باعث ہے، بد اخلاقی بدبختی اور بد نصیبی کی بات ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ”آدمی اپنے حسن اخلاق سے نمازی و روزہ دار کا درجہ پالیتا ہے۔“ ”کیا میں نہ بتاؤں کہ تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت میں سب سے قریب بیٹھنے والا کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں“ تم اخلاق کے بلند مرتبہ پر فائز ہو۔“ ”اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے آپ کو ان کے لئے نرم بنایا ہے اگر آپ سخت دل ترش رو ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے“ لوگوں سے بھلی بات کہو۔“ ام المومنین عائشہ صدیقہؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں فرماتی ہیں کہ ”آپ کا اخلاق قرآن تھا۔“ کشادہ دلی اور حسن اخلاق جلد ملنے والی نعمت اور خوشی ہے جو انہیں کو عطا ہوتی ہے جن کے ساتھ اللہ خیر چاہے۔ سرعت انفعال مزاج کی حدت اور شدت غضب مستقل برائی اور ہمیشہ کا عذاب ہے۔

پریشان نہ ہوں اس عمل کریں

جس کو نیند نہ آتی ہو وہ کیا کرے؟ بے خوابی میں نیند مشکل سے آتی ہے آدمی بستر پر کروٹیں

بدلتا ہے۔

- (۱) شرعی اذکار پڑھیں فرمایا ”اللہ کے ذکر سے ہی قلوب کو اطمینان ملتا ہے“ (۲۸:۱۳)
 - (۲) دن میں نہ سوئیں الایہ کہ بہت ضروری ہو جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”دن ہم نے معاشی دوڑ بھاگ کے لئے بنایا ہے۔“ (۱۱:۷۸)
 - (۳) سونے تک لکھتے پڑھتے رہیں ”اور کہو اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔“ (۱۱۳:۲۰)
 - (۴) دن میں مفید کام کر کے جسم کو تھکا دیں ”اور اللہ نے دن اٹھنے کے لئے بنایا ہے۔“ (۴۷:۲۵)
 - (۵) بیدار کن چیزیں مثلاً قہوہ اور چائے کم لیجئے۔ شاعر کہتا ہے ۔
- ”ہم نے اپنے دوستوں سے رات کے طویل ہونے کی شکایت کی تو کہنے لگے ہمارے نزدیک

تورات بڑی چھوٹی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو نیند آتی ہے اور ہماری آنکھوں سے دور رہتی ہے۔“
 آدمی گناہ کرتا ہے تو اس سے تعلق پیدا ہوتی ہے۔ جب کہ اطاعت میں حلاوت، ایمان میں
 بشاشت اور خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں ”معاصی دل کو توحید کی جولان گاہ میں جانے
 سے روک دیتے ہیں“ کہئے دیکھو کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔“

معصیت کے برے نتائج

- (۱) بندے اور اس کے رب کے بیچ پردہ حائل ہو جاتا ہے ”ہرگز نہیں یہ (برے لوگ) اُس دن
 اپنے رب (کے دیدار) سے محبوب ہوں گے۔“ (۱۵:۸۳)
- (۲) مخلوق کو خالق سے وحشت ہوتی ہے کیونکہ جب آدمی کے اعمال اچھے نہ ہوں تو برے گمان پیدا
 ہوتے ہیں۔
- (۳) مستقل رنج رہتا ہے: ”جو عمارت انہوں نے بنائی وہ ان کے دلوں میں شک و شبہ ڈالتی ہے۔“
- (۴) دل میں خوف و اضطراب پیدا ہوتا ہے: ”ہم کافروں کے دل میں رعب ڈال دیں گے کیونکہ
 یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔“ (۱۵۱:۳)
- (۵) معیشت میں تنگی آتی ہے ”بلاشبہ اس کے لئے تنگ زندگی ہے۔“ (۱۲۴:۲۰)
- (۶) دل میں سختی اور ظلمت چھا جاتی ہے ”ہم نے ان کے دل سخت کر دیئے۔“ (۱۳:۵)
- (۷) چہرے میں تاریکی اور ترشی پیدا ہوتی ہے ”پس وہ لوگ جن کے چہرے کالے پڑ گئے۔ کیا تم
 نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے؟“ (۱۰۶:۳)
- (۸) مخلوق کے دلوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے ”تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔“
- (۹) رزق میں تنگی ہوگی ”اگر انہوں نے تورات و انجیل کو قائم کیا ہوتا اور جو ان پر ان کے رب کی
 طرف سے اتارا گیا تو اپنے اوپر اور پیروں کے نیچے سے رزق باتے۔“ (۶۶:۵)
- (۱۰) معصیت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینا ہے۔ اس سے ایمان میں کمی اور مصائب کا نزول ہوتا
 ہے۔ ”وہ لوٹے اللہ کے غضب پر غضب کو لے کر“ ۹۰:۲ ”ان کے اعمال کی وجہ سے دلوں پر

۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

سید

۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

”ایسا آدمی بھی بلند رتبہ ہوتا ہے جس کی چادر پرانی اور قمیص کی جیب میں پیوند لگا ہو۔“

اس قصہ سے یہ سبق ملتا ہے

بڑائی اور عظمت ظاہری سچ دھج اور ٹیپ ٹاپ کی چیز نہیں، مال کم ہونا بد بختی کی علامت نہیں، اسی طرح خوش نصیبی یہ نہیں کہ آدمی کے پاس قمیص اور آسائش کی ڈھیر ساری چیزیں ہوں۔

”انسان کو جب اس کا رب آزما تا ہے اور اس کو عزت و نعمت سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت افزائی کی اور جب روزی تنگ کر کے اسے آزما تا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی۔“ (۱۶-۱۵:۸۹)

صلاحیتیں اور اچھی صفات ہی انسان کی قیمت ہیں، اس کا کپڑا، جو تا، محل یا کوٹھی نہیں۔ اس کا وزن علم، کرم، حلم اور عقل میں ہے

”تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ تقویٰ والا ہے۔“ ہمارے موضوع سے اس بحث کا تعلق یہ ہے کہ سعادت و خوش نصیبی بہت زیادہ مال داری، بہترین محل اور سونے چاندی میں نہیں ہے، خوش نصیب وہ اہل دل ہے جو ایمان والا ہے، راضی بقضائے محبت والا ہے جسے روشنی حاصل ہے۔

”تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد، مہوت نہ کر دے“ کہہ دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہئے جو مال یہ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر اللہ کا فضل ہے۔“ اپنے کو خوئے تسلیم و رضا کا عادی بنائیے۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کیا آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں سیڑھی لگالیں گے، یہ بھی آپ کو فائدہ نہ دے گا۔ نہ قضا و قدر سے بچا سکے گا۔ پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ راضی ہوں اور مان لیں، ”جہاں بھی تم رہو گے تمہیں موت پالے گی اگرچہ تم مضبوط بنائے ہوئے برجوں میں کیوں نہ ہو“ میری زندگی کے سخت اور مشکل ترین اوقات میں وہ ساعت بھی تھی جب ڈاکٹر نے مجھے خبر دی کہ میرے بھائی محمد کا ہاتھ کندھے سے کاٹا جائے گا۔ یہ خبر مجھ پر صاعقہ بن کر گری لیکن میں نے اپنے اوپر قابو پالیا، میری روح اللہ کے اس فرمان کی طرح متوجہ ہو گئی کہ ”جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔“ اور یہ کہ ”صبر کرنے

...تو، پھر سوچو کہ اگر خدا نے اسے پیدا کیا، تو اسے پھر اس کی زندگی دے گا۔

کہاں تک کہ:

تو سوچو کہ اگر خدا نے اسے پیدا کیا، تو اسے پھر اس کی زندگی دے گا۔
تو سوچو کہ اگر خدا نے اسے پیدا کیا، تو اسے پھر اس کی زندگی دے گا۔

...تو سوچو کہ اگر خدا نے اسے پیدا کیا، تو اسے پھر اس کی زندگی دے گا۔

تو سوچو کہ اگر خدا نے اسے پیدا کیا، تو اسے پھر اس کی زندگی دے گا۔
تو سوچو کہ اگر خدا نے اسے پیدا کیا، تو اسے پھر اس کی زندگی دے گا۔
تو سوچو کہ اگر خدا نے اسے پیدا کیا، تو اسے پھر اس کی زندگی دے گا۔

...تو سوچو کہ اگر خدا نے اسے پیدا کیا، تو اسے پھر اس کی زندگی دے گا۔
تو سوچو کہ اگر خدا نے اسے پیدا کیا، تو اسے پھر اس کی زندگی دے گا۔

کہاں تک کہ:

تو سوچو کہ اگر خدا نے اسے پیدا کیا، تو اسے پھر اس کی زندگی دے گا۔
تو سوچو کہ اگر خدا نے اسے پیدا کیا، تو اسے پھر اس کی زندگی دے گا۔
تو سوچو کہ اگر خدا نے اسے پیدا کیا، تو اسے پھر اس کی زندگی دے گا۔
تو سوچو کہ اگر خدا نے اسے پیدا کیا، تو اسے پھر اس کی زندگی دے گا۔
تو سوچو کہ اگر خدا نے اسے پیدا کیا، تو اسے پھر اس کی زندگی دے گا۔

کہاں تک کہ

...تو سوچو کہ اگر خدا نے اسے پیدا کیا، تو اسے پھر اس کی زندگی دے گا۔

کہاں تک کہ:

تو سوچو کہ اگر خدا نے اسے پیدا کیا، تو اسے پھر اس کی زندگی دے گا۔

تو سوچو کہ

مال کے خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرو

ایک عربی شاعر کے قول کا مفہوم ہے کہ مال جمع کرو، مال سے عزت ملتی ہے۔ مال ہو تو تمہیں دوھیال و فنیال کی محتاجی نہ رہے گی، وہ فلسفہ جو اس کا قائل ہے کہ مال کو اسراف میں اڑا دیا جائے فضول خرچی کی جائے یا مال سرے سے جمع ہی نہ کیا جائے صحیح نہیں بلکہ یہ ہندو جو گیوں اور جاہل صوفیوں کی خرافات ہے۔ اسلام کی دعوت تو یہ ہے کہ کمائی بھی پاکیزہ ہو۔ مال بھی پاک ہو اور اسے صحیح راستہ میں خرچ کیا جائے تاکہ بندے کو مال سے عزت ملے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اچھا مال اچھے آدمی کے ہاتھ میں ہو تو کیا خوب بات ہے۔“ یہ حدیث حسن ہے۔ کثرت سے قرض لینے اور مارڈالنے والی غربت سے تفکرات بے چینی اور غم پیدا ہوتا ہے۔

”کیا تمہیں انتظار ہے سرکشی میں ڈالنے والی مالداری یا بھلا دینے والی محتاجی کا“ ایک حدیث میں نبی کریمؐ نے کفر اور فقر دونوں سے پناہ مانگی اور فرمایا کہ ”فقر کفر تک پہنچا سکتا ہے۔“ آپ کے یہ فرمان اس روایت سے متعارض نہیں جو ابن ماجہ کی روایت کردہ ہے کہ فرمایا:

”دنیا سے زہد بر تو اللہ تم سے محبت کرے گا، لوگوں کے مال سے بے رغبتی بر تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔“

اگرچہ یہ حدیث کمزور ہے البتہ معنی صحیح ہے کہ تمہارے پاس بقدر کفاف مال ہونا چاہئے۔ اتنا ہو کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے آدمی شریفانہ باوقار زندگی گزارے ”جو آدمی مستغنی ہوگا اللہ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔“

بقول شاعر: ”میں ہاتھ اس مالک کے آگے ہی پھیلاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے میں درہم و دینار کی فرمائش نہیں کرتا۔“

صحیح حدیث میں وارد ہے کہ ”اگر تم اپنے وارثوں کو ثروت مند چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں لوگوں کا محتاج بنا کر چھوڑ دو۔“ بقول شاعر:

”مال کے ذریعہ میں لوگوں کے وہ حقوق ادا کرتا ہوں جن کی حق تلفی لوگ کرتے ہیں، جتنی بھی

میری استطاعت ہے۔“

ایک نے عزت نفس کے سلسلہ میں کہا ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں کہوں ”لو“ اور سب سے خراب بات ”نہیں اور اگر مگر ہے“ قرآن وحدیث کے مطابق ”دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔“ نہ مانگنے والوں کی تعریف میں فرمایا ”وہ عفت برتتے ہیں اور اس وجہ سے لوگ انہیں مال دار سمجھ لیتے ہیں“

مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی چچھ گیری کر کے ان سے روزی یا مال مت مانگو۔ روزی، عمر اور افزائش کی ضمانت اللہ نے لی ہے۔ ایمان کی عزت سینہ چوڑا کرتی ہے اہل ایمان شرفاء ہوتے ہیں انہیں عزت ملتی ہے، ان کے سر بلند اور ان کی ناک اونچی ہوتی ہے فرمایا گیا:

”لوگ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لئے ہے“

ابن الوردی نے کہا:

میں ان ہاتھوں کو بوسہ دینے کی رغبت بالکل نہیں رکھتا جن کا کاٹ دینا میرے نزدیک بوسہ سے اچھا ہے۔ اگر کوئی مجھے نوازے تو میں ان کا غلام بن جاؤں اگر ایسا نہیں تو پھر مجھے شرمندگی ہی ہوگی۔

غیر اللہ سے تعلق نہ رکھیں

جب اللہ ہی مارنے جلانے والا اور روزی دینے والا ہے تو پھر لوگوں سے کیا خوف اور کیا ڈر ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں سے تعلق، ان کی رضا جوئی اور تقرب کی کوشش، ان کی تعریف اور یہ اندیشہ کہ ان کی مذمت کی تو نقصان ہوگا، ان چیزوں سے نہ صرف یہ کہ رنج و غم پیدا ہوتے ہیں بلکہ یہ توحید کی کمزوری کی بھی دلیل ہے۔ بقول شاعر :

زندگی کڑوی ہو لیکن کاش تم ٹیٹھے رہو۔ لوگ چاہے ناراض ہوں پر تم راضی رہو، اگر تمہاری سچی محبت حاصل ہے تو سب آسان ہے۔ زمین پر جو کچھ ہے سب مٹی کا ہی تو ہے۔

جب تک کہ اس کی تلوار کی دھار کندہ پڑ گئی جو کہ خون سے سرخ نیزوں کو توڑ دیا کرتی تھی۔“
 انہیں اسباب میں سے معاصی سے بچنا بھی ہے۔ کیونکہ معصیت سے دل میلا ہوتا، سینہ میں
 وحشت بیٹھتی اور ظلمت چھا جاتی ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے:
 ”میری رائے میں گناہ دل کو مار دیتے ہیں اور گناہ کرتے چلے جانے سے ذلت نصیب ہوتی
 ہے۔“

انہیں میں یہ ہے کہ مباحات کی کثرت سے بھی اجتناب ہو مثلاً، کھانا پینا، بات چیت، نیند اور
 میل جول کم ہو۔ فرمایا ”وہ جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں“ ”جو بھی بات آدی کرتا ہے اسے ایک
 مستعد نگرماں اچک لیتا ہے“ ”اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔“
 شاعر نے کہا:

بھائی تم بہت سوتے ہو، کیا نہیں معلوم کہ زندگی کے بعد ایک بہت لمبی دور از نیند سونا ہے۔ خلق
 و تدبیر کے امور فیصل ہو چکے ہیں، جو بھی حرکت ہوتی ہے، پتہ کھڑکتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔
 تو رنج و فکر کس بات پر؟ حدیث میں ہے کہ اللہ نے مخلوق کی تقدیریں آفرینش عالم سے ۵۰ سال پہلے لکھ
 دی تھیں۔ متنبی کہتا ہے:
 ”چھوٹے آدمی کی نظر میں چھوٹے امور ہی بڑے ہوتے ہیں جب کہ بڑا آدمی بڑے امور کو
 بھی چھوٹا سمجھتا ہے۔“

آزادی کا مزہ لطیف ہے

شیخ راشد اپنی کتاب ”المسار“ میں کہتے ہیں: جس آدمی کے پاس تین سو ساٹھ روٹیاں، زیتون کا
 گھڑا اور ۱۶۰۰ کھجوریں ہوں اُسے کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ سلف میں ایک نے کہا جو پانی اور سوکھی روٹی
 پر اکتفا کر لے وہ اللہ کے علاوہ کسی کا غلام نہیں ہو سکتا ”اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جسے جتایا جائے“
 ایک شاعر کے قول کا مفہوم ہے:

”میں نے اپنے حرص و آز کی پیروی کی جس نے مجھے غلام بنا دیا۔ اگر میں نے قناعت سے کام

غم نہ کریں

لیا ہوتا تو میں آج آزاد ہوتا۔ جو لوگ مال جمع کر کے یا منصب اور نوکری کے ذریعہ خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ تو درحقیقت گھانٹے کا سودا کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ انہیں صرف رنج و تفکرات کی شکل میں ملے گا۔“

”تم ہمارے پاس تہا تہا آتے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا تمہیں جو کچھ ہم نے دیا اسے پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے ہو۔“ (۹۴:۶)

”تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔“ ۱۶:۸۷

سفیان ثوریؒ نے مٹی کا تکیہ بنا لیا

سفیان ثوریؒ حج کرنے گئے۔ مزدلفہ میں انہوں نے مٹی کے ایک ڈھیر کا تکیہ بنا لیا لوگوں نے ان سے کہا: ایسی جگہ میں آپ اور مٹی کا تکیہ جب کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے محدث ہیں؟ فرمایا یہ تکیہ خلیفہ ابو جعفر المنصور کے تکیہ سے بہتر ہے۔ شعر:

”خدا کرے وہ ہاتھ جو تجھے ذلیل کرنے کے لئے اٹھیں تم تک پہنچنے سے پہلے ہی تلوار سے کاٹ ڈالے جائیں۔“

”کہہ دو ہمیں وہ پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے۔“ (۵۱:۹)

افواہ بازوں کی طرف کان نہ دھریں

جھوٹے وعدے، فضول قسم کے غلط تخمینے اور قیاسات جن سے اکثر لوگ خوف کھاتے ہیں صرف اوہام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”شیطان تم کو تباہی سے ڈراتا ہے اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے، اللہ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ وسعت والا اور علیم ہے۔“ (۲۶۸:۲)

قلق بے خوابی اور السریہ سب قنوطیت، مایوسی، ناکامی و نامرادی کے نتائج ہیں۔ بقول شاعر:

”ہمیں سزا نہ دو ہمیں تو ایسا قلق لاحق ہے جو رات بھر سونے نہیں دیتا۔“

ہے۔ اللہ فرماتا ہے:

”چاند سورج بھی ایک حساب سے چل رہے ہیں“ ”نہ سورج کو چاند پکڑ سکتا ہے نہ رات دن سے پہلے آتی ہے یہ سب ایک دائرہ میں گردش کر رہے ہیں۔“

حرص سود مند نہیں ہوتی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی نفس اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اپنے مقدر میں لکھی روزی اور عمر کی تکمیل نہ کر لے۔“ تب جزع فزع کیوں ہو؟ حرص اور لالچ کیوں آئے؟ جب ہر چیز طے شدہ اور مقدر ہے

”اللہ کے نزدیک ہر چیز ایک اندازہ سے ہے“ ”اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔“

پریشانیاں آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی

ابن المعتز شاعر کے بارے میں منقول ہے کہ کہا کرتا تھا: جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس سے اچھی سواری کسی کی نہیں ہوتی۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس سے تیز سفر کسی کا نہیں ہوتا!! صحیح حدیث میں وارد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مومن کو جو بھی رنج فکر، پریشانی، نکان اور دکھ تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ کوئی کاٹنا بھی اسے لگتا ہے تو اللہ اس کے ذریعہ اُس کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔“ یہ وہی کر سکتا ہے جو صبر کرے، ثواب کی امید رکھے، انابت اختیار کرے اور یہ یقین رکھے اس کا معاملہ اللہ واحد، وہاب سے ہے۔ مستحبی نے اپنے حکیمانہ آیات میں بعض ایسی چیزیں لکھی ہیں جن سے انسان کو قوت ملتی اور انشراح حاصل ہوتا ہے :

”زمانہ سے بے پروائی سے ملو جب تمہاری جان میں جان ہے، جو چیز خوش کن ہے وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی اور غم کسی غائب کو لوٹا نہیں سکتا“ تاکہ فوت شدہ پر تم افسوس نہ کرو اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر اتراؤ نہیں۔“

ہمیں اللہ کافی ہے

”ہمیں اللہ کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے“ یہ جملہ حضرت ابراہیمؑ نے اس وقت کہا جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو آگ ان کے لئے ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی۔ میدان اُحد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تو اللہ نے آپ کو نصرت سے نوازا۔ ابراہیمؑ کو جنتیق میں رکھا گیا جبریل حاضر ہو کر بولے کیا مجھ سے کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا تم سے تو نہیں مگر اللہ سے یقیناً ہے! سمندر کی خاصیت ڈبونا اور آگ کی جلانا ہے لیکن حسینا اللہ و نعم الوکیل کہنے کے سبب ایک خشک ہو گیا دوسری بجھ گئی۔ حضرت موسیٰ نے سامنے دریا اور پیچھے دشمن کو دیکھا تو فرمایا ”ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے ہدایت دے گا“ چنانچہ وہ اللہ کے اذن سے نجات پا گئے۔ سیرت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسولؐ جب غار میں داخل ہوئے تو اللہ نے کبوتر کو خدمت پر لگا دیا اس نے گھونسلہ رکھ لیا مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا مشرکین وہاں تک آئے اور دیکھ کر کہنے لگے یہاں محمدؐ نہیں داخل ہوئے ہوں گے بقول شاعر :

انہوں نے مکڑی کے جالے اور کبوتر کے گھونسلہ کو دیکھا یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے اپنی عنایت سے بہت سی زر ہوں اور بڑے بڑے قلعوں سے بھی بے نیاز کر دیا۔ عنایت ربانی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ یہ یقین کر کے کہ رب تعالیٰ قدر ناصر اور سچا دوست و مددگار ہے اس کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہو جائے، شوقی نے اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے:

اگر اللہ کی عنایت ہو جائے تو سارے کے سارے حادثے اور ایسے امن و امان بن جائیں

”آپ ہماری نگرانی میں ہیں۔“ (۴۸:۵۲)

”اللہ بہترین محافظ اور ارحم الراحمین ہے“ (۶۳:۱۲)

خوش نصیبی کے عناصر

ترمذی نے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ”جو اپنے گھر میں مامون ہو کر سوئے، صحت مند ہو، دن بھر کی روزی اس کے پاس ہو تو گویا دنیا تمام آرائشوں کے ساتھ اُسے مل گئی“ معنی یہ ہے کہ جب

غم نہ کریں

وراحت خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔ ان ٹیکسوں سے چند ہی لوگ بچ پاتے ہیں۔ اس میں آدمی کو روزانہ اپنے خون پسینے سے اپنی شہرت، راحت، عزت اور شرف و کرامت کا ٹیکس دینا پڑتا ہے ”امارت کا سوال مت کرنا“

”دودھ پلانے والی کیا خوب ہوتی ہے اور دودھ چھڑانے والی کتنی خراب ہوتی ہے۔“ ”میرا

اقتدار مجھ سے چھن گیا۔“

شاعر کہتا ہے :

”فرض کر لو کہ دنیا تمہیں مفت میں مل جائے لیکن کیا اس کا انجام زوال نہیں ہے؟“

سوچئے کہ دنیا کی ہر چیز آپ کو مل جائے لیکن اُس کا انجام کیا ہوگا؟ فنا اور زوال

”اور تیرا جلال و عظمت والا رب باقی رہے گا“

صالحین میں ایک نے اپنے بیٹے سے کہا:

”بیٹے سرداری کی تمنا نہ کرو کیونکہ سرداری بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ

سرداری نہ چاہو کیونکہ سب و شتم، ہڑتالیں اور ناراضگی قائد اور ذمہ داروں کے خلاف ہی ہوتی ہے۔

ایک شاعر کے نزدیک تو معاملہ یہ ہے:

”جو برسر اقتدار ہو اگر وہ عدل و انصاف بھی کرے تب بھی آدھے لوگ اس کے دشمن ہوتے

ہیں۔“

آؤ نماز کی طرف

”اے ایمان والو! صبر و صلوة سے استعانت حاصل کرو۔“ (۴: ۲۵) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپؐ فرماتے ”اے بلال نماز کا اعلان کر کے ہمیں آرام پہنچاؤ“ اور

فرماتے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔“ جب سینہ تنگ ہو جائے، معاملہ مشکل

ہو جائے، سازشیں زیادہ ہوں تو نماز سے مدد لو، جب ایام تاریک ہو جائیں، راتیں مشکل پڑ جائیں،

دوست بدل جائیں تو نماز پڑھو۔

لہذا وہ اس کے لئے ایک اور چیز بھی دیکھ کر حیرت مندی کہ اس نے اس کے لئے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔
 اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔ اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔
 اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔ اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔
 اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔ اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔

اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔ اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔
 اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔ اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔
 اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔ اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔
 اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔ اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔

(۱۰:۴۰) "اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔"

(۱۱:۵۵) "اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔"

(۱۲:۶۰) "اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔"

اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔ اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔
 اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔ اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔
 اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔ اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔
 اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔ اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔

اس کے لئے اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے۔

- (۳) بسم اللہ الذی لایضرمع إسمه شئی فی الأرض ولا فی السماء وهو السميع العليم، تین مرتبہ پڑھیں۔
- (۴) اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك، اسے چار مرتبہ پڑھیں۔
- (۵) اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم واستغفر لك لما لا أعلم۔ تین بار۔
- (۶) أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وماكان من المشركين۔ تین مرتبہ۔
- (۷) سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضانفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته۔ تین بار۔
- (۸) رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً۔ تین بار۔
- (۹) أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق۔ تین بار۔
- (۱۰) اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور
- (۱۱) لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير۔ سو بار۔

وقفہ

ابن القیمؒ کہتے ہیں کہ ”تمام صوفیاء کا اتفاق ہے کہ بے توفیق یہ ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے نفس کے سپرد کر دے اور درمیان سے ہٹ جائے اور توفیق یہ ہے کہ اللہ تمہیں نفس کے حوالہ نہ کرے بلکہ

غم نہ کریں

ساتھ رہے۔ بندے اسی توفیق اور بے توفیقی کے مابین ہیں بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ توفیق سے بے توفیقی ہو جائے چنانچہ بندہ اللہ کی عطا پر اس کا ذکر و شکر کرتا ہے تو مزید توفیق ملتی ہے اور اگر معصیت، مخالفت اور ناشکری و غفلت کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے تنہا چھوڑ دیتا اور بے توفیق کر دیتا ہے۔ جو بندہ اس حقیقت کو کما حقہ جان لے اُسے معلوم ہوگا کہ توفیق کی شدید ضرورت ہر لمحہ اور ہر آن ہوتی ہے۔ اس کا ایمان اور اس کی توحید سب اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ اس کو چھوڑ دے تو اس کی توحید اور ایمان سب جاتا رہے گا اسے تھامنے والا وہی ہے جو آسمان کو زمین پر گرنے سے بچائے ہوئے ہے۔“

قرآن ایک بابرکت کتاب

خوش بختی اور انشراح صدر کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ تدبیر اور گہرائی سے اللہ کی کتاب کی قرأت اور تلاوت کی جائے کیونکہ اللہ نے اسے ہدایت، رحمت، نور اور قلب کو شفا بخشنے والا قرار دیا ہے:

”تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے موعظت اور سینوں کو شفا بخشنے والا نسخہ آ گیا ہے۔“ (۵۷:۱۰) ”یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں۔“ (۲۴:۲۷)

”یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے اگر وہ اللہ کے پاس سے نہ ہوتا تو یہ اس میں بہت سا اختلاف دیکھتے۔“ (۸۲:۴) ”ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے آپ پر اس لئے اتاری ہے کہ لوگ اس میں تدبر کریں یہ کتاب برکت والی ہے۔“ (۲۹:۳۸)

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ تلاوت کے لحاظ سے مبارک ہے۔ اس پر عمل کرنا اسے حکم بنانا اور اس سے استنباط کرنا بھی بابرکت ہے۔ صالحین میں سے ایک نے کہا کہ: مجھے ایک نامعلوم غم اور فکر کا احساس ہوا تو میں نے قرآن شریف لے کر تلاوت شروع کر دی، خدا کی قسم وہ غم دفعتاً زائل ہو گیا۔ تکدر کی جگہ اللہ نے مجھے خوشی و شادمانی عطا فرمائی۔

”بلاشبہ یہ قرآن اس راستہ کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔“ (۹:۱۷) اس کے

ذریعہ اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جو سلامتی کے راستوں پر چلتے اور اللہ کی رضا جوئی چاہتے ہیں۔“ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔“ (۵۲:۴۲)

شہرت کی حرص نہ کریں

شہرت کی حرص کی قیمت تکدر اور رنج و فکر ہیں۔ وہ دل کی صفائی اور سکون و چین اُڑا دیتی ہے۔ لوگوں کی رضا جوئی کا تکلف کرنا پڑتا ہے۔ اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ ”وہ زمین میں تکبر و فساد نہیں برپا کرتے۔“ (۸۳:۲۸) ایک شاعر نے کہا ہے:

نفس کو گم نام کر دینے والا اسے زندہ اور روحانی بنا دیتا ہے۔ اس کی راتیں مضطربانہ پہلو بدلتے نہیں گزرتیں۔ ہوائیں جب تیز و تند ہوتی ہیں تو اونچے درختوں کو ہی اکھاڑ پھینکتی ہیں۔

ایک اثر ہے ”جو ریا کاری کرے گا اللہ اس کے ساتھ دکھاوا کرے گا جو شہرت چاہے گا اُسے شہرت مل جائے گی۔“

”یہ لوگوں سے دکھاوا کرتے ہیں۔“ (۱۴۲:۴) ”یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف ہو۔“ (۱۸۸:۳) ”ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتر اہٹ اور دکھاوا کرتے ہوئے نکلے۔“ (۴۷:۸)

بقول شاعر:

ریا کاری کا لباس پردہ فاش کر دیتا ہے۔ اگر تم اُس سے لپٹو گے تو ننگے ہو جاؤ گے۔“

اچھی زندگی

یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ خوش نصیبی کے اسباب میں ایمان باللہ بہت اہم ہے۔ خوشی کے جو عوامل و اسباب اوپر گزرے ایمان باللہ کے بغیر وہ کسی کام کے نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ کو رب مانا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور اسلام کو دین۔ اقبالؒ کہتے ہیں :

غم نہ کریں

اس سے بھی بڑا اور لطیف مقام یہ ہے کہ جو تم پر ظلم کرے اور ایذا پہنچائے اس پر رحم کرو کیونکہ وہ قابل رحم ہی ہے۔ ایک مسلمان کو اذیت دینے، اس پر اصرار کرنے اور دھڑلے سے تکلیف پہنچانے والا قابل رحم ہی ہوتا ہے۔ اس کے لئے نرم گوشہ رکھئے اور اس غلط تصور سے اسے نجات دلائیے حدیث میں آیا ہے ”اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم“ روایات کے مطابق مسطح سے غلطی ہوئی۔ حضرت عائشہ کے سلسلہ میں ان کے رویہ سے حضرت ابو بکرؓ کو تکلیف پہنچی۔ حضرت ابو بکرؓ ہی مسطح کے اخراجات اٹھاتے تھے۔ اب انہوں نے ان پر خرچ نہ کرنے کی قسم کھالی۔ تو اللہ کا یہ قول نازل ہوا۔

”تم میں جو وسعت والے ہیں وہ قرابت داروں، مساکین اور مہاجرین پر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں، انہیں معاف کر دیں درگزر کریں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے۔“ (۲۳:۲۴)

آیت سن کر حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کیوں نہیں میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اللہ میری لغزشیں معاف فرمائے۔ چنانچہ مسطح کا خرچہ پھر سے دینے لگے اور ان کو معاف کر دیا۔ عیینہ بن حصن نے حضرت عمرؓ سے کہا: اے عمر اللہ کی قسم تم نہ ہمیں ڈھنگ سے دیتے ہو نہ ہم میں عدل سے کام لیتے ہو۔ حضرت عمرؓ نے اسے مارنے کا ارادہ کیا لہذا بن قیس بولے: امیر المؤمنین اللہ کا ارشاد ہے کہ درگزر کرو معروف کا حکم کرو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر حضرت عمرؓ رک گئے کہ وہ اللہ کی کتاب پر مضبوطی سے جم جاتے تھے۔ رضی اللہ عنہ۔ حضرت یوسفؑ نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا ”آج تم پر ملامت نہیں اللہ تمہاری کوتاہی معاف کرے وہ ارحم الراحمین ہے“ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں قریش کے اپنے جانی دشمنوں کے لئے کہی جنہوں نے آپ کو اذیتیں دیں، شہر بدر کیا اور لڑائیاں لڑیں۔ فتح مکہ کے دن ان سے آپ نے فرمایا ”جاؤ تم سب آزاد ہو“ حدیث میں یہ بھی آیا ہے ”پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔“

ابن المبارک کے ایک شعر کا مفہوم ہے:

”جن سے تمہاری دوستی ہو جائے ان کے ساتھ شفقت اور قرابت کا سلوک کرو۔ ہر آدمی کی

غم نہ کریں

تک نے کہا ہے کہ جس کا کپڑا میلا ہوگا اس کا نفس بھی مکدر ہوگا۔ یہ ایک ظاہر بات ہے۔ ایسے بہت سے ہیں جن کی طبیعت اس لئے مکدر ہو جاتی ہے کہ ان کے کپڑے میلے ہیں ان کی وضع و قطع بدل گئی ہے۔ لائبریری میں ترتیب نہیں۔ اور اوراق بکھرے پڑے ہیں۔ وعدوں کی پابندی نہیں ہوتی اور روزانہ کا پروگرام بھی مرتب نہیں۔ حالانکہ دنیا نظام پر ہی چل رہی ہے۔ جو دین اسلام کی حقیقت سے واقف ہو جائے اُسے پتہ چلے گا کہ یہ دین بندہ کی زندگی کی تنظیم کے لئے آیا ہے، قلیل ہو یا کثیر، کم ہو یا زیادہ ہر چیز اس کے نزدیک حساب سے ہے۔ ”ہم نے اس کتاب میں کچھ نہیں چھوڑا“ ترمذی کی ایک حدیث ہے ان اللہ نظیف یحب النظافة اللہ تعالیٰ پاک ہے پاکیزگی پسند کرتا ہے۔ ”صحیح مسلم میں اس کے الفاظ یوں ہیں کہ ”اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے۔“ ایک حدیث حسن میں یوں آیا ”خوبصورتی اختیار کرو تا کہ لوگوں میں ممتاز نظر آؤ۔“ جمال اختیار کرنے کا پہلا مرحلہ ہے غسل کا اہتمام۔ بخاری کی روایت کردہ حدیث ہے ”سات دن میں ایک دن غسل کرنا مومن کے لئے ضروری ہے جس میں اپنا سر اور جسم دھوئے۔“ یہ کم از کم مقدار ہے ورنہ بعض صالحین روزانہ ایک بار غسل کرتے تھے جیسے کہ حضرت عثمان بن عفانؓ کے بارے میں آتا ہے۔

”یہ نہانے کے لئے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لئے بھی۔“ (۴۲:۳۸)

جمال اختیار کرنے کے چند فطری امور ہیں۔ یعنی ڈاڑھی بڑھانا، مونچھ کترانا، ناخن ترشوانا، جسم سے زائد بال ہٹا دینا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، دانتوں میں خلال کرنا، کپڑے صاف کرنا اور اپنے ظاہر پر توجہ دینا۔ اس سے سیدہ میں کشادگی اور وسعت پیدا ہوگی۔ اسی میں سفید رنگ کا کپڑا پہننا بھی ہے۔ حدیث میں ہے ”سفید کپڑے پہنو اور اسی میں اپنے مردوں کو دفن بھی کرو۔“

امام بخاریؒ نے ایک باب ہی باندھا ہے باب لبس البیاض: اس میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ ملائکہ سفید کپڑوں میں آتے ہیں، ان کے عمامے بھی سفید ہوتے ہیں۔ انہیں اسباب میں یہ بھی ہے کہ کاموں کے اوقات کا پانی میں لکھ لئے جائیں وقت کی تنظیم ہو۔ پڑھنے کا وقت الگ، عبادت کا الگ، مطالعہ کا الگ اور آرام کا الگ ہو۔

”ہر ایک کام کے لئے وقت متعین ہے“ (۳۸:۱۳) ”تمام چیزوں کے خزانے ہمارے پاس

ہیں ہم اسے معلوم مقدر میں ہی نازل کرتے ہیں۔“ (۲۱:۱۵)

کانگریس کی لائبریری میں ایک بورڈ ہے جس پر لکھا ہے ”کائنات ایک نظام پر مبنی ہے۔“ یہ بالکل درست ہے آسمانی شریعتوں میں تنظیم و تربیت کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ کائنات فضول اور بے کار پیدا نہیں کی گئی ہے۔ بلکہ وہ ایک اندازہ و اسکیم پر مبنی ہے۔

”سورج چاند سب مقررہ نشانہ پر چلے آ رہے ہیں“ ”نہ سورج کو چاند چھو سکتا ہے نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ یہ سب اپنے دائرہ میں گھوم رہے ہیں۔“ چاند کی ہم نے منزلیں طے کر دی ہیں حتیٰ کہ وہ ایک مقام پر کھجور کی سوکھی ٹہنی کی مانند نظر آتا ہے۔ ”ہم نے رات اور دن دونوں کو نشانی بنایا ہے جب رات کی نشانی ختم ہو جاتی ہے تو دن کو لے آتے ہیں تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب جان لو ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔“ ”اے ہمارے رب تو نے یہ سنسار یونہی نہیں بنا دیا۔“ ”ہم نے آسمان وزمین اور ان کے بیچ کی چیزوں کو کھلواڑ کے لئے نہیں بنایا۔“ ”اگر ہم کھیل ہی چاہتے تو اپنی طرف سے کچھ اور کھیل اختیار کر لیتے۔“

مشغولیت بہترین علاج ہے

یونانی حکماء اوہام و خرافات اور نفسیاتی بیماریوں کے لئے کام کاج علاج تجویز کرتے تھے ایسے مریضوں کو وہ کھیتی اور باغبانی کے کاموں میں لگا دیتے تھوڑے وقت کے بعد یہ مریض اچھے ہو جاتے ”زمین کے اوپر چلت پھرت رکھو“ ”کہہ دو کہ کام کرو“ واقعہ یہ ہے کہ دست کار اور محنت کش سب سے زیادہ آرام و راحت سے رہتے ہیں ان سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو دیکھئے کہ حرکت و نشاط اور مستقل کام کرنے کے باعث قوی بھی رہتے ہیں اور پرسکون بھی ”میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور عاجزی سے۔“



(۱۵:۷۰)

وَأَمَّا الْفِتْيَانُ الْمُؤْمِنُونَ فَلْيُحْبَبُوا فِي الْبَيْتِ كَمَا حُبِّبْنَا لَهُمُ الْبَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

”وَأَمَّا الْفِتْيَانُ الْمُؤْمِنُونَ فَلْيُحْبَبُوا كَمَا حُبِّبْنَا لَهُمُ الْبَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ“

(۱۵:۷۰) ”وَأَمَّا الْفِتْيَانُ الْمُؤْمِنُونَ فَلْيُحْبَبُوا كَمَا حُبِّبْنَا لَهُمُ الْبَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ“

۱۱: بزرگواران! ای جوانان مؤمن!

همانگونه که ما برای شما دختران مؤمن را محبوب گردانیدیم،

همانگونه که ما برای شما پسران مؤمن را محبوب گردانیدیم،

همانگونه که ما برای شما دختران مؤمن را محبوب گردانیدیم،

همانگونه که ما برای شما پسران مؤمن را محبوب گردانیدیم،

همانگونه که ما برای شما دختران مؤمن را محبوب گردانیدیم،

همانگونه که ما برای شما پسران مؤمن را محبوب گردانیدیم،

همانگونه که ما برای شما دختران مؤمن را محبوب گردانیدیم،

همانگونه که ما برای شما پسران مؤمن را محبوب گردانیدیم،

(۷) وَاللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَنَاتِكُمْ هُمْ أَوْلَىٰ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَنَاتِكُمْ هُمْ أَوْلَىٰ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

(۸) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَنَاتِكُمْ هُمْ أَوْلَىٰ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

”وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَنَاتِكُمْ هُمْ أَوْلَىٰ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ“

(۱) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَنَاتِكُمْ هُمْ أَوْلَىٰ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

”وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَنَاتِكُمْ هُمْ أَوْلَىٰ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ“

”وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَنَاتِكُمْ هُمْ أَوْلَىٰ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ“

”وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَنَاتِكُمْ هُمْ أَوْلَىٰ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ“

”وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَنَاتِكُمْ هُمْ أَوْلَىٰ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ“

”وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَنَاتِكُمْ هُمْ أَوْلَىٰ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ“

”وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَنَاتِكُمْ هُمْ أَوْلَىٰ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ“



— ایک خط لکھ کر، میں نے تجھے بھی بتا دیا کہ میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔
 میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔
 میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔

— تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔
 میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔
 میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔
 میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔
 میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔

تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے

(۱۲:۱۲) — تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔
 میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔
 میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔
 میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔
 میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے۔

میں نے تمہیں کبھی ملنے کا ارادہ کیا ہے

احساس کمتری سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے

”تم اسے اپنے لئے شرنہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہے۔“ (۱۱:۲۳) بعض عبقری اس لئے بڑے ہوئے کہ انہیں کمتری کا احساس تھا۔ مثلاً بہت سے علماء آزاد کردہ غلام یا معمولی انسان تھے۔ جیسے عطاء، سعید بن جبیر، قتادہ، بخاری، ترمذی، ابوحنیفہ، دنیا کے بہت ذہین ترین اور شریعت کے ماہرین کو کورچشمی لاحق تھی جیسے ابن عباسؓ، قتادہ، ابن ام مکتوم، اعمش یزید بن ہارون، علماء متاخرین میں شیخ محمد بن ابراہیم آل الشیخ، شیخ عبداللہ بن حمید، شیخ عبدالعزیز بن باز ناپینا تھے۔ اسی طرح متعدد عرب عبقری شخصیتیں، موجدین اور اذکیاء ایسے تھے جنہیں آزار لاحق تھے کوئی اندھا تھا کوئی گوٹکا کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، کوئی چلتے پھرنے سے معذور اس کے باوجود انہوں نے اپنے علوم، اختراعات و تحقیقات سے انسانی زندگی میں اثر ڈالا:

”اللہ تمہیں ایسا نور دے گا جس سے تم چلو گے۔“ (۲۸:۵۷)

بہت بڑی علمی سند ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی یا ایم اے یا بی اے کی ڈگری نہیں لی تو کوئی خاص بات نہیں۔ آپ آگے نکل سکتے ہیں ڈگری کے بغیر ہی موثر ہو سکتے اور امت کو بہت فائدہ دے سکتے ہیں۔ کتنے بڑے اور اہم آدمی ڈگری نہیں رکھتے لیکن اپنی ثابت قدمی حوصلہ و ارادہ اور عزیمت و استقلال سے انہوں نے راستہ بنا لیا۔ عصر حاضر میں دعوت، تربیت فکر و شعور، دینی علم اور ادب وغیرہ میں جن لوگوں کا بڑا کردار ہے ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں نہ تھیں۔ مثلاً ابن باز، مالک بن نبی، العقاد، طنطاوی، ابو زہرہ، ابوالاعلیٰ مودودی، ابوالحسن علی ندوی وغیرہم۔ قرون اولیٰ کے علماء سلف اور عبقری شخصیتوں کی تو بات ہی دیگر ہے۔

اس کے برخلاف دنیا میں لکھو کھا ڈاکٹریٹ کی ڈگری لئے پھر رہے ہیں جن کا دنیا میں کوئی نام

و نشان نہیں :

پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں

”کیا تم ان میں سے کسی کے وجود کا احساس کرتے ہو یا ان کا کوئی چرچا ہوتا ہے“

رہے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو
ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو
پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو بیمار دار
اور جب مرجائیے تو نوحہ خواں کوئی نہ ہو
(غالب)

چنانچہ حضرت عثمانؓ کی شہادت پر جب فتنے برپا ہو گئے تو بہت سے لوگ بادیہ نشینی اور ہجرت اختیار کر گئے۔ ان میں ابن عمرؓ، اسامہؓ بن زید اور محمد بن مسلمہ بھی تھے۔

میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہیں فقر، تکدر اور تنگی لاحق ہے۔ اس کا سبب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ وہ اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ آپ پائیں گے کہ ان میں مالدار لمبی کمائی والا ہے جسے ہر طرح کی عافیت حاصل ہے۔ لیکن اُس نے اللہ کی اطاعت سے اعراض کیا، نماز میں کوتاہی کی، بڑے بڑے گناہ کئے تو اللہ نے جسم کی عافیت اور رزق کی کشادگی چھین کر اسے فقر و فاقہ اور رنج و غم میں ڈال دیا۔ اب ایک بلاء ختم ہوتی نہیں کہ دوسری آگئی ایک مصیبت سے چھٹکارا ملا نہیں کہ دوسری میں پھنس گیا ”جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اُس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔“ ”یہ اس لئے کہ اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت ختم نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے کو نہ بدل لیں۔“ اور فرمایا ”تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے بہت سی چیزوں کو وہ معاف کر دیتا ہے“ اور ”اگر وہ سیدھے رستہ پر چلتے رہتے تو ہم ان کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلاتے۔“

میں چاہتا تھا کہ میرے پاس کوئی جادوئی نسخہ ہوتا جس سے آپ کے رنج و بلاء اور غم و فکر کو زائل کر دیتا لیکن میرے بس میں یہ کہاں؟ تاہم علماء ملت اور ماہرین شریعت کے شفا خانہ کا ایک طبی نسخہ ضرور آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ خالق کی عبادت کیجئے، روزی پر راضی رہئے۔ قضا و قدر کے آگے سر تسلیم خم کیجئے، دنیا سے دل نہ لگائیے، امیدیں کم رکھئے، بس یہی نسخہ ہے۔

ایک مشہور امریکی ماہر نفسیات ولیم جیمس جو علم نفسیات کا باوا آدم کہا جاتا ہے، کی بات پڑھ کر بڑا تعجب ہوا وہ کہتا ہے، ہم انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہماری ملکیت میں نہیں۔ جو

نے اعراض کیا تو ہم نے ان پر بھیانک سیلاب بھیج دیا۔ تو ہر ایک کو ہم نے اس کی دم سے پکڑ لیا،” اللہ کا عذاب ان پر اچانک ٹوٹ پڑے گا انہیں پتہ بھی نہ چل پائے گا۔“

احقوں کے ساتھ چند لمحے

روسیوں نے چاند کی جانب ایک راکٹ بھیجا وہ واپس آیا تو کیونزوم کے ایک چمپین نے روسی جریدہ ”بریوڈ“ میں ایک مقالہ لکھا اور اُس میں کہا کہ ہم تو آسمان تک ہو آئے۔ ہمیں وہاں کوئی خدا، جنت دوزخ اور فرشتے نہیں ملے، اس پر احمد حسن الزیات نے مجلہ الرسالہ میں کیونزوم پر ایک جاندار مقالہ لکھا انہوں نے لکھا، احمق سرخو! تعجب ہے تم سمجھتے ہو کہ رب تعالیٰ کو یونہی عرش پر بیٹھا دیکھ لو گے۔ اور جنت کے باغات میں حوریں تمہیں دیا و حریر میں ملبوس نظر آ جائیں گی، تم کوثر کے بہنے کی آواز سن لو گے، جنہم میں جلنے والوں کی بوسوگھ لو گے۔ اگر تم نے یہ سمجھا ہے تو تمہاری سمجھ کا ستیاناس ہو۔ تمہاری اس ضلالت پسندی کی توجیہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ تمہارے سروں میں کیونزوم والحاد کا خناس بھرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کیونزوم ایسا دن ہے جس کا کوئی کل نہیں ایسی زمین ہے جس کا آسمان نہیں۔ ایسا عمل جس کا کوئی انجام نہیں ایسی کوشش جو بے نتیجہ ہے۔“ الخ

”کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا عقل رکھتے ہیں۔ یہ تو بس چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔“ ”ان کے دل سمجھتے نہیں، آنکھیں دیکھتی نہیں، کان سنتے نہیں۔“ ”جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں،“ ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چھیل میدان میں سراب ”ان کے اعمال راکھ کا ڈھیر ہیں جسے تیز تند آندھی اُڑائے پھرتی ہے۔“

عقدا نے اپنی کتاب ”بیاروں کا مذہب“ میں کیونزوم پر غصہ سے ایلٹے اور اس الحاد پر دانستہ پیتے ہوئے لکھا ہے: فطرت سلیمہ دین اسلام کو قبول کرتی ہے جو دین حق ہے۔ رہے وہ جو عقلی طور پر بیمار ہیں پسماندہ ہیں، جن کی جھولی میں سڑے بے افکار ہیں، وہی الحاد کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔

”ان کے دلوں پر ٹھپہ لگ گیا ہے اس لئے یہ سمجھتے نہیں۔“

الحاد فکر کو کچلنے والا خیال ہے، اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی نہیں، یہ نہایت بچکانہ بات ہے۔

اسی لئے قرآن کہتا ہے

”کیا اللہ کے بارے میں بھی شک ہے.....“

مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا۔ ابن تیمیہؒ نے لکھا ہے کہ خالق کا انکار تو کسی نے بھی نہیں کیا، صرف فرعون نے ظاہراً کیا تھا حالانکہ اندر سے وہ بھی اس کے وجود کا قائل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تھا ”تو جانتا ہے کہ ان کو رب السموات والارض نے ہی نازل کیا ہے میں جانتا ہوں اے فرعون تو تباہ ہوگا۔“ لیکن انجام کار فرعون بھی دل کی آواز کو زبان پر لے آیا اور بول پڑا۔

”میں ایمان لایا کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ میں بھی

مسلمین میں سے ہوں۔“ (۹۰:۱۰)

ایمان ہی راہ نجات ہے

کتاب ”اللہ يتجلى في عصر العلم“ اور کتاب ”الطلب محراب الايمان“ میں ایک حقیقت کا بیان ہے کہ بندے کہ تفکرات اور رنج و فکر سے چھٹکارے کے لئے سب سے بڑا مددگار اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور اپنے معاملات اس کے حوالے کر دینا ہے۔ فرمایا ”میں اپنے معاملات اللہ کے حوالہ کرتا ہوں“ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ پر ایمان رکھے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا“

جو یہ سمجھ لے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قضاء و قدر کا فیصلہ ہے تو اس کا دل تسلیم و رضا کی جانب

مائل ہوگا فرمایا

”ان سے ان کے بوجھ اور بیڑیاں اتار پھینکے گا۔“ (۱۵۷:۷)

بقول شاعر

”میں جانتا ہوں کہ اللہ کی جانب سے جو چیز بھی مجھے لاحق ہوتی ہے وہ پہلے کے لوگوں کو بھی

لاحق ہوئی ہے۔“

مغرب کے بڑے بڑے نفسیات کے مصنفین مثلاً کریسی مارسین، الیکسس کارلائل اور ڈیل کارنیگی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ مادی مغرب جو تیزی سے اخلاقی طور پر زوال پذیر ہو رہا ہے، اس کو صرف ایمان باللہ ہی بچا سکتا ہے۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ مغرب میں خود کشیوں کی بڑھتی تعداد کا سب سے بڑا سبب الحاد اور اللہ رب العالمین سے بے زاری و بے پروائی ہے

”یہ یوم حساب کو بھول گئے اس لئے ان کو شدید تکلیف ہوگئی“ ”جو اللہ کے ساتھ شُرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گرا تو اُسے پرندوں نے اُچک لیا یا ہوا سے اڑائے پھرتی ہے اور دور دراز مقام میں پہنچا دیتی ہے۔“ (۳۱:۲۲)

جریدہ شرق اوسط نے اپنے شمارہ نمبر ۳۱/۳/۱۴۱۵ھ میں سابق امریکی صدر جارج بش کی بیوی کی ڈائری کے حوالے سے لکھا کہ: اس نے کئی بار خود کشی کی کوشش کی اور کار کو اوپر سے کھائی میں گرانا چاہا، پھانسی کا پھندا لگانے کی کوشش کی۔

قرمان جنگ احد میں مسلمانوں کے ہمراہ قتال کر رہا تھا اُس نے اتنی جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ لوگوں نے کہا: اسے جنت ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا: نہیں وہ اہل دوزخ میں سے ہے!! قرمان کو شدید زخم لگے اُس سے صبر نہیں ہوا اور اُس نے تلوار سے اپنے آپ کو مار لیا۔ فرمایا: ”وہ جن کی محنت دنیاوی زندگی میں اکارت ہوگئی اور جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا عمل کر رہے ہیں۔“ یہی اللہ کے قول ”جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔“ کا مفہوم ہے۔ صحیح ایمان والا ایسا نہیں کر سکتا، چاہے جو ہو جائے۔ وہ وضو کر کے دو رکعتیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے لے تو کافی ہوگا کہ اس کا سارا غم کدورت اور رنج و فکر مٹ جائے۔

”رات کے وقت میں اور دن کے اطراف میں اللہ کی تسبیح بیان کرو یقیناً تمہیں خوشی ہوگی۔“ قرآن اس بات پر افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ دنیا ایمان کی طرف کیوں نہیں آتی اور انحراف و ضلالت کی شکار کیوں ہے۔

بات واضح کر دی گئی، دلیل سامنے آچکی، حق ظاہر ہو گیا، حجت پوری ہوگئی، پھر لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔

غم نہ کریں

”ہم آفاق و انفس میں ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے حتیٰ کہ حق ان کے سامنے واضح

ہو جائے۔“ (۵۳:۲۱)

یہ بات سامنے آجائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اللہ ہی تھا معبود ہے :

کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق

زباں اور دل کی شہادت کے لائق

اسلام ہی دین کامل ہے ”اور جس نے بہت خوبی کے ساتھ اپنی اطاعت اللہ کے حوالہ کر دی تو

اُس نے مضبوط سہارا پکڑ لیا۔“ (۲۲:۳۱)

کافروں میں بھی درجات ہیں

صدر جارج بش کی ڈائری ”آگے کا سفر“ میں لکھا ہے کہ انہوں نے سوویت یونین کے صدر برجنیف کے جنازہ میں ماسکو میں شرکت کی۔ جارج بش کا کہنا ہے کہ: میں نے اس جنازہ کو تیرہ دن تارک اور منحوس دیکھا۔ اس میں ایمان، روح اور حرارت کچھ بھی نہ تھا۔ بش عیسائی ہے روسی ملحدین تھے اس لئے بش کے تاثرات یہ رہے۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے ”تم پاؤ گے کہ ایمان والوں سے قریب تر عیسائی ہیں“ (۸۲:۵) معاملہ اصل میں داخلی احساس کا ہے، اگر بش دین حق اسلام کو جانتا تو اُس کا تاثر اور گہرا ہوتا؟ ”جو لوگ اسلام کے علاوہ دین چاہیں گے وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا۔ اور آخرت میں وہ خسارہ میں رہیں گے۔“ (۸۵:۳)

اس سے مجھے یاد آیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ایک بار ایک بٹائی کی گفتگو ہوئی۔ بٹائی نے ایک منحرف و گمراہ صوفی گروہ ہے۔ اس بٹائی نے ابن تیمیہ سے کہا آخر کیا بات ہے کہ ہم تمہارے یعنی اہلسنت کے پاس آتے ہیں تو ہماری کرامتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن جب ہم مغل تاتاری کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ہماری کرامت ظاہر ہو جاتی ہے؟ جواب میں ابن تیمیہ نے کہا تمہاری ہماری اور تاتاریوں کی مثال تم نہیں جانتے؟ ہم تو سفید گھوڑے ہیں، تم چتکبرے اور تاتاری کالے سیاہ۔ چتکبرے کالوں کے بچ جائے وہ بالکل سفید معلوم ہوگا لیکن جب سفیدوں کے درمیان آئے گا تو کالا سا لگے گا۔ بات یہ

ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہ کچھ روشنی ہے۔ اگر تم اہل کفر میں جاؤ تو یہ نور ظاہر ہو جائے گا لیکن ہمارے پاس بڑا اور برتر نور ہے قرآن و سنت کا نور، ہمارے پاس آؤ گے تو تمہاری تاریکی اور سیاہی ظاہر ہو جائے گی۔ ہماری تمہاری اور تاریکیوں کی مثال بھی بس ایسی ہے:

”وہ لوگ جن کے چہرے اجلے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔“ (۱۰۷:۳)

فولادی ارادہ

عالم اسلام کا ایک مسلمان طالب علم مغرب میں خاص طور پر لندن پڑھنے کے لئے گیا۔ طالب علم دیندار اور نمازی تھا روز علی الصبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا اور نماز پڑھتا۔ گھر کی ایک بڑھیا روز اُسے پابندی سے ایسا کرتے دیکھتی۔ کچھ دنوں کے بعد اُس سے رہا نہیں گیا تو اُس سے پوچھ لیا کہ تم یہ روز اتنے سویرے کیا کرتے ہو؟ اُس نے جواب دیا ’میرے خدا نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔‘ کہنے لگی وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں کی زمستانی فضا میں تم اپنی عبادت موخر کر سکتے ہو، پوری نیند لے کر پڑھ لیا کرو۔ اُس نے کہا کہ نمازوں کے اوقات متعین ہیں میں تاخیر سے پڑھوں گا تو قبول نہ ہوگی۔ بوڑھی نے اپنا سر ہلا کر کہا

”کیا فولادی ارادہ ہے اس سے تو لوہا بھی ٹوٹ جائے گا!!“

زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی
نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کی یاد سے کوئی تجارت اور خرید و فروخت نہیں روکتی، نہ نماز سے

غافل کرتی۔“

یہ ایمانی ارادہ قوت یقین اور توحید کے غلبہ کی بات ہے۔ یہی ارادہ تھا جس نے لمحہ بھر میں فرعون کے ساحروں کو بدل دیا۔ پہلے وہ ذلیل تھے، جیسے ہی ایمان لائے فوراً موسیٰ و فرعون کے بیچ عالمی

معرکہ میں حق کے ساتھی اور فریق بن گئے۔ اعلان کر دیا:

”فرعون! ہمیں رب تعالیٰ نے جو روشن دلیل دی ہے اُس پر اور اللہ پر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ لہذا تجھے جو کچھ کرنا ہو کر لے۔“

یہ ایسا چیلنج تھا جسے فرعون نے سنا ہی نہ تھا۔ اس کا پلٹ پر پورا دربار سکتہ میں رہ گیا۔ اس لمحہ اور جبار کو کلمہ حق سنا دیا گیا۔ حبیب بن زیدؓ مسیلمہ کے پاس اُسے توحید کی دعوت دینے گئے تھے۔ اس نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر مارنا شروع کیا لیکن تلوار سے جسم کٹتا رہا نہ اُف کی نہ چلائے حتیٰ کہ جانِ جان آفریں کے سپرد کر دی

”شہیدوں کے لئے ان کے رب کے پاس بڑا اجر اور نور ہے“

(۱۹:۵۷)

خبیبؓ بن عدی کو سولی کے پھندی پر چڑھایا گیا۔ خوشی خوشی یہ شعر پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے:

ولست ابا لی حین اقتل مسلماً

علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی

”ایمان کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو کیا پروا کہ کس پہلو پر موت آئے گی۔“

اللہ کی طرف

جب تاریکی شدید ہوتی ہے، بجلی کڑکتی اور تیز دتند ہوا چلتی ہے تو فطرت جاگ پڑتی ہے۔ قرآن میں فرمایا ”اس کشتی پر تیز دتند آندھی آگئی، ہر جگہ موج اٹھنے لگی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ بس اب تو گھر گئے تب انہوں نے خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی“ (۲۲:۱۰)

لیکن مسلمان اپنے رب کو خوشحالی و تنگ حالی ہر صورت میں پکارتا ہے

”اگر ایسا نہ ہوتا کہ یونسؑ تسبیح کرنے والوں میں سے ہوں تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک ٹھہرے رہتے۔“ (۱۲۳:۳۷-۱۲۴)

زیادہ تر لوگوں کا شیوہ یہ ہے کہ کسی تنگی و مصیبت میں گرفتار ہوئے تو لگے اللہ کے آگے گڑ

گڑانے اور رونے چلانے، جوں ہی ان کا مقصد حاصل ہوا تو وہ اعراض کر لیتے اور منہ موڑ لیتے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مناجات کو باز مچھنے اطفال نہیں بنایا جاسکتا نہ اُسے بہلایا اور دھوکہ دیا جاسکتا جیسے بچوں کو بہلایا لیتے ہیں۔

”یہ اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اللہ ان کو فریب دے گا“ (۱۳۲:۴)

جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ گویا فرعون کی نقل کرتے ہیں، اس کے شاگرد ہیں جس نے وقت

گزرنے کے بعد ایمان کا اعلان کیا تو اُس سے کہا گیا

”اب ایمان لا رہے ہو پہلے تو نافرمانی کرتے رہے اور فساد پھیلاتے رہے۔“ (۹۱:۱۰)

میں نے سنا ہے کہ جب عراق نے کویت پر قبضہ کر لیا تو بی بی سی نے یہ خبر نشر کی کہ اس کی اطلاع پا کر سابق وزیر اعظم برطانیہ مارگریٹ تھیچر جو اُس وقت امریکی ریاست کولوراڈو میں تھی فوراً ہی گر جا کی طرف بھاگی اور سجدہ میں گر گئی۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے واقعات کی توجیہ اس کے علاوہ اور کیا کی جاسکتی ہے کہ کفر و ضلالت کے باوجود مشکل اوقات میں فطرت خداوندی عموماً آتی ہے کیونکہ انسان اُسی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے جیسا کہ حدیث ہے ”ہر بچہ فطرتاً توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔“

روزی میں تاخیر ہو جائے تو غم نہ کریں

روزی اپنے وقت پر ضرور ملے گی۔ جو اپنے مقدر کی روزی جلد پانا اور وقت سے آگے نکلنا چاہتا ہے جب اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو شدید رنج و قلق کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے آدمی نماز میں امام سے آگے بڑھے تو کیا فائدہ ہوگا، سلام تو امام کے بعد ہی پھیرے گا! رزق کا معاملہ بھی یہی ہے، رزق اور دوسرے تمام امور مقدر ہیں جو آفرینش خلق سے بھی ۵۰ صدی پہلے لکھ دئے گئے تھے:

”اللہ کا معاملہ آ رہا ہے اُس کی جلدی نہ مچاؤ۔“ (۱:۱۶) ”اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اُس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔“ (۱۰۷:۱۰)

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں ”اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں فاجر کی سخت کوشی اور ثقہ کی دون بہمتی

غم نہ کریں

سے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت عظیم اور سچی بات ہے۔ پوری تاریخ دیکھ ڈالنے کتنے ہی اللہ کے دشمن سخت کوشی، جدوجہد، مضبوط ہمتی، ارادہ عظیم، کوشش اور مقصد کی لگن سے سرشار ملیں گے جب کہ بہت سے مسلمان سستی، کاہلی، فتور، پست ہمتی اور باہمی عدم تعاون کے شکار ملیں گے۔ اسی سے عمر کے قول کی گہرائی اور گیرائی سمجھ میں آتی ہے۔

ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور العاص بن وائل نے اپنے مال اللہ کے رسول سے دشمنی اور حق کے مقابلہ میں صرف کیے۔

”یہ اپنے مال اس راہ میں خرچ کریں گے لیکن ان کو حسرت ہوگی جب یہ مغلوب ہوں گے۔“
 کتنے مسلمان اپنے مال فضائل اور ایمان کے راستوں میں خرچ کرنا نہیں چاہتے۔
 ”جو بخل کرتا ہے تو یہ بخل اس کے ہی خلاف پڑے گا۔“ (۳۸:۲۷)
 یہ مثال ہے فاجر کی سخت کوشی اور ایمان والوں کی کمزوری کی۔

گوالڈاما ئیر یہودن تھی۔ اس کی یادداشتوں میں عداوت کے عنوان سے یہ لکھا ہے کہ زندگی کے ایک مرحلہ میں وہ ۱۶-۱۶ گھنٹے لگاتار کام کرتی تھی۔ اپنی منحرف فکر اور باطل مقاصد کی خدمت کا یہ عالم! اسی کے ذریعہ تو وہ بن گوریان کے ساتھ مل کر یہودی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جو چاہے اس کی کتاب دیکھ لے۔ اس کے مقابل ہزار ہا مسلمان ایک گھنٹہ بھی کام نہیں کرتے بس ان کا محبوب مشغلہ لہو و لعب، کھانا پینا، سونا اور وقت ضائع کرنا ہے۔

”تمہیں کیا ہوا جب تم سے اللہ کے راستہ میں نکلنے کے لئے کہا جاتا ہے تو سستی کے مارے زمین سے چپکے جاتے ہو۔“ (۳۸:۹)

حضرت عمرؓ رات دن کام کرتے تھے، کم سوتے تھے، اُن کے گھر والوں نے کہا ’آپ سوتے کیوں نہیں؟‘ فرمایا:

”میں رات کو سوؤں تو میں ضائع ہوں گا دن میں سو جاؤں تو رعایا ضائع ہوگی۔“ قاتل یہودی مویشے دایان کی یادداشتوں میں ”تلوار اور حکومت“ کے عنوان سے یہ ملتا ہے کہ ہمہ وقت چلت پھرت میں رہتا، آج ایک ملک میں کل دوسرے میں۔ آج اس شہر کل اس شہر میں، میٹنگ اور اجلاسوں میں

شرکت کرتا، کانفرنسیں کرتا، سودے بازی اور معاہدات کرتا اس نے رات دن ایک کر رکھے تھے پھر اپنی ڈائری بھی لکھتا۔ میں نے دل میں کہا، ہائے افسوس ملعون یہودی کتنی محنت کر رہے ہیں اور مسلمان کیسے عاجز و لاچار بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی فاجر کی جدوجہد اور ثقہ کی عاجزی و بے بسی کی ایک مثال ہے۔

بے کاری، نکلے پن اور خالی رہنے سے حضرت عمرؓ کو اتنی نفرت تھی کہ مسجد میں آ کر پڑے ہوئے کچھ نوجوان کو وہاں سے نکال دیا اور پٹائی کی اور فرمایا: نکلوروزی تلاش کرو! آسمان سے سونا چاندی نہیں برسے گا۔ بے کاری اور نکلے پن کے ساتھ وسوسے، کدورت اور نفسیاتی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ رنج و فکر سے عصبی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ عمل، نشاط اور چستی سے خوشی و سرور ملتا اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ زندگی میں ہر آدمی اپنا کردار ادا کرنے لگے تو ہمارے رنج و فکر، حزن و ملال اور عقلی عصبی اور نفسیاتی بیماریاں سب ختم ہو جائیں۔ کارخانے قائم ہوں، ورکشاپ چلیں، دعوتی امدادی اور وفاہی کام کرنے والی سوسائٹیاں قائم ہوں۔ کیسے لگائے جائیں۔ اور ادبی مراکز نیز علمی تربیت گاہیں اور اجلاس انعقاد پذیر ہوں۔ ”کہہ دو عمل کرو۔“ ”زمین میں پھیل جاؤ“ آگے بڑھو“ ”مقابلہ کرو“ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام دست کاری کے ذریعہ روزی کماتے تھے۔

شیخ راشد نے اپنی کتاب ”زندگی کا بناؤ“ میں اس مسئلہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ بہت سارے لوگ زندگی میں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے۔ کتنے ہی لوگ زندہ ہیں مردوں کی طرح رہتے ہیں، انہیں زندگی کا راز معلوم نہیں۔ وہ نہ اپنے مستقبل کی تعمیر کرتے نہ اپنی امت کا کچھ بھلا کرتے بلکہ ”انہوں نے پیچھے رہ جانے والوں میں ہونا پسند کر لیا۔“ (۹: ۸۷)

”وہ مومنین جو بیٹھے ہیں جن سے کفر کو کوئی نقصان نہیں وہ اور مجاہدین فی سبیل اللہ برابر نہیں ہو سکتے۔“ (۹۵: ۴)

وہ کالی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی اُس نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور اسی کی بدولت جنت میں جگہ بنالی۔

”ایک ایمان والی باندی آزاد مشرک سے بہتر ہے گرچہ تمہیں یہ مشرک اچھی لگے۔“ (۲۲۱: ۲) اس لڑکے نے اپنا کردار ادا کیا جس نے رسول اللہ ﷺ کا منبر بنایا کیونکہ اس کا کام بڑھنی کا

ہی تھا۔ ”جو لوگ اپنی کمائی سے ہی کھاتے ہیں“

۱۹۸۵ء میں امریکہ نے اس بات کی اجازت دی کہ مسلمان داعی اس کی جیلوں میں جا کر اصلاح و تبلیغ کا کام کریں۔ کیونکہ امریکہ کو معلوم ہے کہ اگر یہ مجرم، قاتل اور پیشہ ور اسلام کی ہدایت پا جائیں گے تو اپنے اپنے سماج کا صالح اور کارآمد عنصر بن جائیں گے

”کیا اس کے کوئی برابر ہے جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اسے نور عنایت کیا جس کے

ذریعہ وہ کارگاہ حیات میں کام سے لگا ہے۔“ (۱۲۲:۶)

حادثات کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھنے اور معاملات کو سنبھالنے کے تعلق سے دو بڑی مفید اور نفع بخش دعائیں حدیث میں آتی ہیں۔ (۱) حدیث علیؑ ہے جس کو مسلمؓ نے روایت کیا ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا ”یہ کہا کرو: اللھم اھدنی وسددنی“ (اے اللہ مجھے راستہ دکھا اور صحیح رہنمائی کر) دوسری دعا ابوداؤد کی روایت کردہ حدیث میں یوں منقول ہے: اللھم اٰلھمنی رشدی، وقنی شرنفسی“

شاعر کا کہنا ہے کہ اگر اللہ بندے کی مدد نہ کرے تو بندہ کا اپنا اجتہاد غلط ثابت ہوتا ہے۔

زندگی سے لگاؤ، بقاء کی آرزو، ہمیشہ رہنے کی تمنا اور موت سے ڈر، وہ چیزیں ہیں جن سے زندگی میں کدورت، سینہ کی تنگی، رنج و ملال، بے خوابی، قلق اور اضطراب جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔

یہودیوں کے دنیوی زندگی سے پیار پر اللہ نے ان کی ملامت کی اور فرمایا:

”انہیں تم زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، مشرکین سے بھی زیادہ ان کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ کاش اُسے ہزار سال کی زندگی مل جائے“۔ (۹۶:۲) حالانکہ کتنی ہی دراز زندگی ہو عذاب سے تو پھر بھی نہیں بچ سکتے ”جو کچھ کر رہے ہیں اللہ سب جانتا ہے“

آیت کریمہ میں حیاۃ کو نکرہ استعمال کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ معمولی سی زندگی بھی چاہے چوپایوں اور جانوروں کی ہو وہ بھی ان کو بہت پیاری ہے۔ اسی طرح ألف سنۃ لایا گیا ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی ایک دوسرے سے ملتے تو سلام یوں کرتے کہ ”تم ہزار سال جیو۔“ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت لمبی عمر چاہتے ہیں۔ اچھا اگر ان میں ہزار سال مل بھی جائیں پھر کیا ہوگا؟

انجام تو وہی دوزخ ہے۔ ”آخرت کا عذاب شدید ہوگا وہاں کوئی ان کے کام نہ آسکے گا۔“
 عام عربوں میں ایک جملہ یہ رائج ہے کہ ”لاہمَّ واللہ یدعی مفہوم یہ ہے کہ آسمان میں خدا
 موجود ہے جو دعا سنتا ہے پھر رنج و ملال کیوں کرتے ہو۔ تم اپنا معاملہ اس کے حوالہ کرو گے تو وہ اسے حل
 کر دے گا۔“ مضطر جب پکارتا ہے تو کون ہے اس کی پکار سننے اور اس کی پریشانی دور کرنے والا
 ”جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتائیے کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اور پکارنے
 والے کی پکار سنتا ہوں۔“ (۱۸۶:۲)

یہ لمحے زندگی میں بار بار آنا نہیں کرتے

شیخ علی ططاوی کی یادداشتوں میں ان کی زندگی کے دو خاص واقعات ملتے ہیں۔ نمبر ایک وہ
 بتاتے ہیں کہ بیروت کے ساحل پر تیر رہے تھے کہ ڈوبنے کے قریب ہو گئے۔ بے ہوشی کی حالت میں
 انہیں اٹھایا گیا۔ اس وقت وہ آہ وزاری کے ساتھ دعا کرنے لگے کہ اگر ایک گھنٹہ بھی اور زندگی مل جائے
 گی تو ایمان کی تجدید کریں گے اور عمل صالح کریں گے تاکہ ایمان کی بہار آجائے۔

دوسرا واقعہ یہ ہے کہ شام سے ایک قافلہ کے ساتھ حج کے لئے روانہ ہوئے، ابھی صحرائے
 تبوک میں ہی پہنچے تھے کہ یہ لوگ راستہ بھول گئے۔ تین دن ہو گئے۔ کھانے پینے کا سامان ختم
 ہو گیا، موت سامنے دکھائی دینے لگی۔ ططاوی اٹھے اور لوگوں کو الوداعی خطبہ دیا۔ توحید سے لبریز
 حرارت سے سرشار خود بھی روئے دوسروں کو بھی رلایا یہ احساس ہوا کہ ایمان میں بلندی آگئی ہے۔ اب
 اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معین و مددگار نہیں ہے۔ ”اسی سے سوال کرتے ہیں جو آسمان میں ہیں اور جو
 زمین میں ہیں ہر روز اس کی نئی شان ہوتی ہے۔“ (۲۹:۵۵) اللہ فرماتا ہے: ”کتتے ہی نبی گزرے جن
 کے ساتھ بہت سے صالحین دشمنوں سے لڑے ہیں وہ نہ کمزور پڑے نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، اللہ
 کے راستہ میں جو پیش آیا اس پر صبر کیا اور اللہ صبر کرنے والوں کو چاہتا ہے۔“ (۱۳۶:۳)

اللہ کو وہ قوی ایمان والے پسند ہیں جو اس کے دشمنوں کو صبر و استقلال سے چیلنج دیتے ہیں نہ
 کمزور پڑتے نہ ان پر مایوسی طاری ہوتی، نہ ان کے قوی شمل ہوتے نہ ذلت، ضعف اور ناکامی کا احساس

غم نہ کریں

طاری ہوتا ہے، بلکہ ڈٹ جاتے ہیں۔ جہد و جہد جاری رکھتے اور محاذ پر جتے ہیں۔ یہ اللہ اور رسول پر ایمان کا تقاضا ہے۔ ”توی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، خیر دونوں میں ہے۔“ حضرت ابو بکرؓ کی انگلی فی سبیل اللہ زخمی ہو گئی تو فرمایا: تو انگلی ہی تو ہے جو خون آلود ہو گئی اور جو کچھ تجھے تکلیف ہوئی وہ اللہ کے راستے میں ہوئی۔ غار کے منہ پر بھی حضرت ابو بکرؓ نے اپنی انگلی رکھ دی تھی تاکہ اُس کے کیڑوں سے رسول اللہؐ کی حفاظت کریں۔ بچھونے ڈنک مار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دم فرمایا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ عسترہ سے کسی نے پوچھا: تمہاری شجاعت اور لوگوں پر غالب آجانے کا راز کیا ہے؟ کہا: ابھی معلوم ہو جائے گا اپنی انگلی میرے منہ میں رکھو اور میری اپنے منہ میں اس نے ایسا ہی کیا پھر دونوں نے ایک دوسرے کی انگلی میں دانت سے کاٹ لیا عسترہ نے برداشت کر لیا۔ اس آدمی سے برداشت نہ ہو اور وہ بلبلا اٹھا۔ عسترہ نے اپنی انگلی نکال کر کہا اسی صبر و برداشت کے ذریعہ میں لوگوں پر غالب آ جایا کرتا ہوں۔“

مومن کو جس بات سے فخر و مسرت ہونی چاہئے وہ یہ ہے کہ اللہ کا لطف، رحمت اور درگزر اس سے قریب ہیں۔ وہ ایمان کے مطابق ہی اللہ کے لطف و کرم کو محسوس کر سکتا ہے۔ ساری کائنات، ذی روح، بے زبان مخلوقات، پرندے، چوپائے وغیرہ سبھی یہ جانتے ہیں کہ ان کا ایک پالنہار اور مالک ہے۔

”ہر چیز اُس کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم اُس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔“ (۴۴:۱۷)

بقول شاعر: اے رب صرف تیری ہی حمد کی جاتی ہے، ساری مخلوقات تیری ہی چوکھٹ پر کھڑی

ہوتی ہے۔

ہمارے ہاں جو تائی کے وقت کسان اپنے ہاتھوں سے زمین کی لائنوں میں دانے ڈالتے اور پکارتے جاتے ہیں: حَبِّ يَا بَسَّ فَي بَلْدِيَا بَسِّ بَيْن يَدِيكَ يَا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تو حیدی احساس ہے اور نفوس کا اس کی طرف متوجہ ہونا ہے، فرمایا: ”جو تم کاٹے ہو اس کے بارے میں بتاؤ، کیا تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔“ (۶۳:۵۶)

عبدالحمید کشک بہترین خطیب تھے، نابینا تھے، ایک دن خطبہ دینے کھڑے ہوئے، منبر پر پہنچ

کراچی جیب سے کھجور کا ایک چوڑا سا پتہ نکالا جس پر قدرتی طور پر اللہ جلی حرفوں اور خوبصورت کوئی خط میں لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو وہ دکھلایا اور بے ساختہ کہا:

أَنْظُرْ لَتَلَكِ الشَّجَرَةَ ذَاتَ الْغُصُونِ النَّضْرَةَ
مَنْ الَّذِي أَنْجَبَهَا وَزَانَهَا بِالْخَضْرَةِ
ذَلِكَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي قَدَرْتَهُ مَقْتَدِرَهُ

اس تروتازہ پودہ کو دیکھو، اسے کس نے اُگایا اور کس نے سرسبز کر دیا۔ وہ اللہ نے ہی کیا جس کی قدرت جو چاہے کر سکتی ہے۔

یہ سن لوگ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ فاطر السموات والارض کی نشانیاں کائنات میں بکھری ہوئی ہیں۔ جو اس کی وحدانیت صمدیت، ربوبیت اور الوہیت کی گواہی دیتی ہیں، ”اے ہمارے رب تو نے یہ سب یونہی پیدا نہیں کر دیا۔“ (۱۹۱:۳)

خوشی و مسرت کے حصول کی بنیادی بات یہ احساس ہے کہ ہمارا ایک رب ہے جو رحم کرتا، مغفرت کرتا اور توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس رب عظیم کی رحمت کی بشارت آپ کو بھی ہے جس کی رحمت آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ فرمایا ”میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔“ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لطف و کرم کے کیا ٹھکانے ہیں؟ ایک صحیح حدیث میں وارو ہے کہ ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ تشہد میں بیٹھ کر اس نے یہ دعا کی کہ یا اللہ! مجھ پر اور محمدؐ پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ کر۔ آپؐ نے فرمایا تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا۔ فرمایا ”اللہ مومنین پر بڑا مہربان ہے“ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرتا ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے پر کرتی ہے۔“

ایک آدمی نے اللہ کے عذاب کے خوف سے اپنے آپ کو (موت کے بعد) جلو الیا اللہ نے اس کے جسم کو اکٹھا کر کے پوچھا۔ بندے! تو نے ایسا کیوں کیا؟ بولا میرے رب مجھے تیرا خوف تھا اور اپنے گناہوں پر پشیمانی، تو اُسے اللہ نے جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ واقعہ صحیح حدیث میں آیا ہے۔ فرمایا ”جو اپنے رب کی عظمت سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا تو اُس کا ٹھکانہ جنت ہے“

غم نہ کریں

(۷۹:۴۰-۴۱) اللہ نے ایک موحد لیکن مسرف آدمی کا حساب لیا اُس کے پاس کوئی نیکی نہ پائی البتہ وہ دنیا میں تجارت کرتا تھا اور محتاجوں کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا تجھ سے زیادہ کرم کرنا تو ہمارے لئے زیادہ ہے۔ فرمایا اس کو معاف کر دو۔ چنانچہ اُسے بھی جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ”جس سے مجھے اُمید ہے کہ وہ روز جزا میرے گناہ معاف کر دے گا۔“ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔“ مایوس نہ ہو اس سے اے ہمت مردانہ

امام مسلم نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اُس نے کہا یا رسول اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے اس لئے مجھ پر حد جاری فرمائیے آپ نے فرمایا: کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! فرمایا تب جاؤ اللہ نے تجھے معاف کر دیا“

”جو کوئی برائی کرے گا یا اپنے اوپر ظلم کرے گا پھر اللہ سے استغفار کرے گا وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔“ (۱۱۰:۴)

ایک لطف خفی بندے کو اوپر نیچے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ لطف خفی اللہ رب العالمین کا ہے اُس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں محفوظ رکھا۔ اہل کہف کو غار میں میٹھی نیند سلا دیا۔ ان تینوں کو رہائی دی جو غار کے اندر بند ہو گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی، موسیٰ علیہ السلام کو ڈوبنے سے اور نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچایا، یوسف علیہ السلام کو کنوئیں سے نکالا اور ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دی۔

طور پر جس نے موسیٰ کو اونچا کیا
نار نمرود کو جس نے ٹھنڈا کیا

وقفہ

حضرت اُم سلمہؓ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا:
جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ ان کلمات کو زبان سے نکالے جن کا حکم اللہ نے دیا ہے یعنی

”انا لله وانا اليه راجعون“ اللهم أجرني في مصيبتى واخلف لى خيراً منها۔ تو اللہ اس نقصان کا بہتر اجر اور نعم البدل عطا فرمائے گا۔“ شاعر نے کہا:

دوستو! خدا کی قسم آدمی کو کتنی ہی بڑی مصیبت پیش آئے وہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ جب وہ لاحق ہو جائے تو اس کے آگے سپر انداز نہ ہو۔ اگر پاؤں پھسل جائے تو شکوہ و شکایت نہ کرو کہ کتنے ہی شرفاء مصائب میں گرفتار ہوئے جنہیں انہوں نے برداشت کیا چنانچہ وہ مصیبتیں ماند پڑ گئیں اور گزر گئیں۔ گردش زمانہ مجھے ترنوالہ سمجھ رہی تھی لیکن اس نے میری استقامت دیکھی تو وہ بھی کمزور پڑ گئی۔“
ایک اور شاعر نے کہا :

”کوئی حادثہ ہوتا ہے تو میرا سینہ تنگ نہیں ہو جاتا۔ رنج و فکر میں میرا امتحان ہوتا ہے۔ کسی دن شروع میں غم ہوتا ہے اور آخر میں مسرت اور شادمانی، کوئی مصیبت پڑے تو میں دل شکستہ نہیں ہوتا کہ اس کے خاتمہ یا اس سے چھٹکارے کا وقت قریب آچکا ہوتا ہے۔“

اچھے کاموں سے خوشی ملتی ہے

حاتم طائی کے دیوان کے آغاز میں اس کا ایک بہترین جملہ ہے
”اگر برائی کا چھوڑ دینا کافی ہو تو اسے چھوڑ دو“

مفہوم یہ ہے کہ شر سے اجتناب اور خاموشی ہی برتنی چاہئے ”آپ ان سے اعراض کریں“ ”یہ جو تکلیف دے رہے ہیں اس پر نہ جائیں۔“

خیر سے محبت ایک ربانی عطیہ اور الفتح العظیم کی بخشش و مہربانی ہے۔ ابن عباسؓ اللہ کی نعمتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تین چیزوں میں نعمت ہے کہیں بارش ہوتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اگرچہ میری وہاں نہ کوئی بکری ہے نہ اونٹ۔ کسی انصاف پسند قاضی کے بارے میں سنتا ہوں تو اس کے لئے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ حالانکہ اس کے پاس میرا کوئی قضیہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی کتاب کی کسی آیت کا مفہوم کھلتا ہے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ جو میں جانتا ہوں اور بھی جان جائیں۔ یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی چاہنا اور ان کے درمیان اچھائی پھیلانا ہے کہ سینہ ان کے لئے

غم نہ کریں

کھلا رہے اور مخلوق خدا کی پوری پوری خیر خواہی ہو۔ شاعر کہتا ہے:

”میرے اور میری زمین کے اوپر وہ بادل نہ برسیں جو سارے ملک کو سیراب نہ کرتے ہوں۔“

مطلب یہ ہے کہ میرے لئے ہی کیوں بادل برسیں وہ تو سب کے لئے ہونے چاہئیں کہ میں

انانیت پرست اور ان میں سے نہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا:

”وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور اللہ نے جو فضل انہیں دیا ہے

اسے چھپا لیتے ہیں۔“

حاتم طائی کے ذیل کے اشعار پڑھئے اس کی فیاضی اور دریادلی اور مردانگی کی بنیاد اُس کی بلند

فکری ہے۔ کہتا ہے:

”اس عالم الغیب کی قسم جو مردہ اور بوسیدہ ہڈیوں کو بھی زندہ کرے گا میں لذیذ کھانے بھی پیٹ

بھر کر اس لئے نہیں کھاتا کہ کسی دن کمینہ نہ کہلاؤں۔“

علم را بردل زنی یارے بود

اگر علم اللہ کی معرفت سکھائے تو کیا کہنے ”اہل علم اور ایمان والے بولے تم اللہ کی کتاب کے

مطابق قیامت تک ٹھہرو گے“ ایک علم ایمانی ہوتا ہے ایک کافر انہ جیسا کہ فرمایا ”وہ دنیاوی زندگی کے

ظاہر کو جانتے ہیں آخرت سے غافل ہیں“ اور فرمایا ”بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم محض اٹکل ہے

بلکہ یہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں بلکہ اندھے ہیں۔“ اور فرمایا ”بس یہی ان کا مبلغ علم ہے“

اور فرمایا ”ان کو اس کا قصہ تو سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات دیں لیکن وہ پستی کی طرف مائل ہوا۔ اپنی

خواہشات کی پیروی کی تو اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ اسے پھنکارو تو زبان نکال دے گا چھوڑ دو تب

بھی زبان نکالے گا۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات جھٹلائیں اب ان کی باتیں

لوگوں کو بتا دیجئے تاکہ یہ کچھ غور و فکر سے کام لیں۔“ یہودیوں اور ان کے علم کے بارے میں فرمایا ”ان

کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔“ چار پائے برو کتابے چند۔ یہ علم تو ہے لیکن

ہدایت دینے والا نہیں دلیل ہے جس سے تشفی نہیں ہو سکتی، حجت ہے لیکن حجت قاطعہ نہیں۔ نقل ہے لیکن

غم نہ کریں

”آفس کی دراز میں ایک فائل میں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے جس میں میں اپنی روزانہ کی کارستانیاں، لغزشیں اور غلطیاں جو رات دن سرزد ہوتی رہتی ہیں لکھا کرتا ہوں۔“

اس بارے میں علمائے اسلام اور سلف امت احتساب نفس اور باریک بینی سے اپنی ہی غلطیوں کو پکڑنے میں مہکرمذکور سے بھی بڑھے ہوئے تھے

”اور نہیں میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔“ (۲:۷۵)

حسن بصری کہتے ہیں کہ مومن اپنا احتساب اس سے بھی زیادہ کرتا ہے جتنا ساجھی دار اپنے ساجھی کا کرتا ہے۔ ربیع بن خثیم جمعہ سے جمعہ تک کی اپنی باتیں لکھا کرتے تھے اگر ٹھیک پاتے تو اللہ کی حمد کرتے اور برپاتے تو استغفار کرتے۔

سلف میں ایک نے کہا میں نے ۴۰ سال پہلے ایک گناہ کیا جس کی مغفرت کی دعا میں برابر کرتا رہتا ہوں۔

”وہ لوگ جو اپنے مال میں سے دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔“

اپنا احتساب کیا کیجئے

اپنے پاس ایک ڈائری رکھئے اور اس کے ذریعہ اپنا احتساب کرتے رہئے اس میں اپنی منفی عادتیں لکھئے اور ان کے معالجہ میں پیش رفت ہوئی ہو اسے بھی نوٹ کیجئے، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں: ”اپنا احتساب کر لیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اعمال کو تو لے جانے سے پہلے وزن دار بنا لو اور خدا کے سامنے پیشی کے لئے اچھی طرح تیار ہو جاؤ۔“

ہماری روزمرہ کی زندگی میں تین غلطیاں برابر ہوتی رہتی ہیں۔

نمبر ایک: وقت کی بربادی۔ نمبر ۲: لا یعنی باتیں کرنا۔ ”آدمی کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتیں چھوڑ دے“ تیسری بات یہ کہ ہم کمترین اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت توجہ دیتے ہیں۔ مثلاً افواہ بازوں کی بات پر کان دھرنا، حوصلہ شکنی کرنے والوں کی پیشین گوئیوں اور وسوسہ اندازوں کے وہم و خیال کو سننا۔ اس سے فوری کدورت اور رنج و غم تو پیدا ہوتے ہی ہیں خوش بختی اور طمانیت قلب

کی دولت بھی چھن جاتی ہے۔ امرء القیس کہتا ہے: ”پرانے ٹیلے تجھے صبح سلام کرتا ہوں، کیا پرانے زمانوں کے لوگ سلامت ہیں۔ سلامتی تو بس اس کو ملتی ہے جسے نعمت حاصل ہو جس کی امیدیں کم ہوں اور جس کی راتیں خوشگوار گزرتی ہوں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباسؓ کو ایسی دعا سکھائی جو دنیا و آخرت دونوں کی خوشی کی جامع ہے۔ یہ جامع مانع اور کافی شافی دعا جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگی گئی ہے یہ ہے۔ ”اللہم إني أسألك العفو والعافية“۔ فرمایا گیا ہے: ”اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب اور آخرت کا بہترین اجر عنایت کیا“ (۱۴۸:۳) ”وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی کا شکار۔“ (۱۲۳:۲۰)

دفاع کا سامان کر لیں

بندے کو اس سے بھی خوشی ملتی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کے ساتھ احتیاط کا دامن نہ چھوڑے اسباب کو کام میں لائے، نبی اکرمؐ نے جنگوں میں مقابلہ کے لئے نکلے آپ نے زرہ بھی زیب تن کی حالانکہ آپ تو متوکلین کے سردار ہیں، ایک نے آپ سے پوچھا کہ میں اپنی سواری کو کھونٹے سے باندھ دوں یا توکل کر لوں، فرمایا: اسے باندھو اور توکل کرو۔ یعنی اسباب اختیار کرنا اور ساتھ ہی اللہ پر توکل یہی توحید کی جان ہے جب کہ اسباب اختیار نہ کرنا محض توکل کرنا شریعت سے ناواقفیت ہے جیسے کہ سبب اختیار کرنا اور توکل چھوڑ دینا بھی توحید میں کمی کی بات ہے۔ اس سلسلہ میں ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے ناخن کاٹنا، جو بڑھ کر زخم بن گیا اُس نے احتیاط نہ کی حتیٰ کہ مر گیا۔ ایک شخص سردان کے گدھے پر چڑھا اور اس کا پیٹ بھینچ دیا وہ مر گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مشہور مصری مصنف طہ حسین اپنے ڈرائیور سے کہتا تھا:

”جلد بازی نہ کرو تھی ہم جلدی پہنچیں گے۔“ ایک مثال میں جو کہا گیا ہے کہ بسا اوقات

جلدی چمانے سے دیر ہو جاتی ہے۔ یہی اس کا مفہوم ہے۔ شاعر بھی کہتا ہے:

کبھی کبھی صبر سے کام لینے والا ضرورت پوری کر لیتا ہے اور جو جلدی مچاتا ہے وہ لغزش کھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بچاؤ اور احتیاط تقدیر کے منافی نہیں بلکہ اسی کا ایک حصہ ہے اس کی روح ہے،

غم نہ کریں

فرمایا ”چاہئے کہ احتیاط و نرمی برتے۔“ ”ایسے لباس تمہیں دیے جو گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے لباس جو تمہاری توانائی کو محفوظ رکھتے ہیں۔“

لوگوں کو اپنا بنائیے

آدمی کی خوشی کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں لوگوں کو اپنا بنانے، ان کی محبت حاصل کرنے اور ان کا دل جیت لینے کی صلاحیت ہو، حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا ”بعد والوں میں میرا اچھا تذکرہ کر دے، مفسرین نے لسان صدق سے مراد اچھا تذکرہ اور ذکر خیر لیا ہے۔ حضرت موسیٰؑ کے بارے میں فرمایا ”تیرے لئے میں نے محبت پیدا کر دی“، بعض اس آیت کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں کہ جو بھی تجھے دیکھتا ہے تجھ سے محبت کرتا ہے۔ حدیث صحیح میں آیا ہے ”تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔“ یعنی حق کی زبان اور اس کا قلم ہو۔ یہ بھی حدیث صحیح میں آیا ہے کہ حضرت جبریلؑ آسمان والوں میں پکارتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے لہذا اُس سے محبت کرو تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر زمین میں بھی اس کے لئے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔“ محبت کے اسباب میں سے خندہ پیشانی، نرم کلامی اور حسن اخلاق ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو آپ کی طرف کھینچ کر لائے گی وہ نرم خوئی ہے۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”نرم خوئی جس چیز میں بھی ہو اُسے زینت دے گی اور جس چیز سے نکال لی جائے اُسے بدنما کر دے گی۔“ اور فرمایا ”جو نرم خوئی سے محروم ہو اوہ ہر بھلائی سے محروم ہو گیا“ ایک حکیم تو یہ بھی کہتا ہے کہ چکار سے تو سانپ بھی اپنے بھٹ سے نکل آتا ہے۔ یورپ والے کہتے ہیں کہ ”شہد توڑو لیکن چھہ نہ توڑو۔“ حدیث صحیح میں ہے کہ مؤمن اس شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاک چیز کھاتی اور پاک چیز پیدا کرتی ہے اور جب کسی خوشبودار پودے پر بیٹھتی ہے تو اسے توڑ نہیں دیتی۔“

ملکوں ملکوں گھومئے اور قدرت کی نشانیاں دیکھئے

مسرت کے اسباب میں ایک سفر بھی ہے، ملکوں ملکوں کی سیر اور شہروں کا مشاہدہ ہے۔ اس کے

بارے میں آغاز کتاب میں بھی کچھ عرض کیا جا چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ”کہہ دو دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا ہے“ ”کہہ دو زمین میں چل پھر کر دیکھو“ ”کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے۔“ شاعر کہتا ہے:

”کسی ایسے مقام میں مت ٹھہرو، جہاں رسوائی ہو جو دلوں پر اثر ڈالے۔ مغرب و مشرق میں چلو پھر واپسی میں فائدہ ہے۔“

جو شخص سفر نامہ ابن بطوطہ پڑھے گا اسے ابن بطوطہ کے مبالغوں سے قطع نظر اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں دنیا کے عجائبات اور ساتھ ہی عبرتیں معلوم ہوں گی۔ کائنات کی کھلی کتاب کو پڑھنے کے لئے مناسب ہوگا کہ آدمی خود سفر کرے، اپنی آب و ہوا، دانہ پانی اور مکان بدلے۔ ایسے ہی آدمی کے بارے میں تو ابو تمام کہتا ہے:

شام میں میرے گھر والے ہیں، بغداد کی آرزو ہے
رقعتین میں میں ہوں فسطاط میں میرے پڑوسی ہیں

”کہہ دو زمین میں چلو“ تو زمین کی سیاحت کرو۔“ حتیٰ کہ ذوالقرنین وہاں پہنچ گیا جہاں سورج نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ”میں برابر چلوں گا تا آنکہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں ورنہ چلتا ہی رہوں گا۔“

کچھ باتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی

نفس کو سعادت دینے اور شرح صدر کی نعمت دینے والی ایک چیز قیام لیل بھی ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ بندہ جب تہجد کے لئے اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا پھر وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اُس کی صبح نشاط اور خوشگوار کی ساتھ ہوتی ہے۔ ”وہ رات میں تھوڑا سا ہی سوتے تھے“ ”رات میں اٹھ کر تہجد کے نوافل پڑھا کرو“ قیام لیل سے جسم کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ حدیث صحیح میں ہے جو ابوداؤد نے روایت کی ہے کہ فرمایا ”عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا جو قیام لیل کرتا تھا لیکن اب نہیں کرتا۔“ ”عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، کاش کہ رات میں تہجد بھی پڑھا کرتا۔“

غم نہ کریں

فانی اشیاء پر افسوس نہ کریں کہ دنیا میں تو جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا سوائے اللہ کی ذات کے۔ فرمایا ”ہر چیز کو فنا ہے بقا صرف اسی کو ہے۔“ دنیا میں جو بھی ہے فنا ہوگا بس رب ذو الجلال والاکرام کو ہی بقا ہے۔“ جو آدمی دنیا کے لئے روتا ہے وہ بچہ کی طرح ہے جو کھلونا کھو جانے پر روتا ہے۔

وقفہ

رنج اور فکر دونوں میں دوستی ہے اور دونوں ہی روح کو تکلیف دیتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ فکر مستقبل کی پریشانی ہے تو رنج ماضی کی مصیبت یا محبوب کے فوت ہونے پر ہوتا ہے۔ دونوں ہی سوہاں روح ہیں، عربی میں ماضی سے متعلق دکھ کو حزن اور مستقبل کی تکلیف کو ”ہم“ کہتے ہیں۔ ماٹور دعا میں یوں وارد ہے:

”اے اللہ میں دنیا و آخرت میں تجھ سے عافیت کا طالب ہوں، اپنے دین، دنیا، اہل اور مال سب میں عافیت چاہتا ہوں، یا اللہ میرے عیوب کی پردہ پوشی کر، خوف کو دور کر دے۔ اوپر نیچے دائیں بائیں سامنے اور پیچھے ہر طرف سے میری حفاظت فرما۔ میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں۔“

ایک عربی شاعر نے کہا کہ اللہ اپنے قدیم و جدید احسانات کو نہیں گنتا۔ اس لئے رنج و غم میں نہ پڑو کہ رنج ہمیشہ نہیں رہے گا۔ امید ہے کہ مصیبت کے بعد نظر رحمت سے مجھے دیکھیں:

قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں
موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں

آپ کی قیمت جنت ہے

شاعر کہتا ہے:

جب میرا نفس، جو اشیاء کا مالک ہے، یہی دنیا سے جانے والا ہے تو پھر کسی چیز کے چلے جانے پر میں کیوں روؤں، دنیا اپنے سونے چاندی، منصب، محلوں اور کوٹھیوں کے باوجود ایک قطرہ آنسو کے

برابر بھی نہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا ”دنیا اور اشیاء دنیا ملعون ہیں۔ سوائے اللہ کے ذکر کے اور متعلقات ذکر کے اور عالم یا طالب علم کے“ دنیا تو اصلاً امانت ہے جیسا کہ لبید کہتا ہے:

”مال اور رشتہ دار تو سب امانتیں ہیں ایک دن سب کو لوٹانا پڑے گا۔“

کروڑوں روپے جائیدادیں، گاڑیاں یہ سب بندے کی موت میں ایک لمحہ کی تاخیر نہیں کرا سکتے۔ حاتم طائی کہتا ہے:

”تیری قسم مالدار سے آدمی کو ذرا بھی فائدہ نہیں ہوتا جب سینہ میں سانس پھڑپھڑائے اور دم نکلنے لگے۔“

اسی لئے حکماء کہتے ہیں:

”ہر چیز کی ایک معقول قیمت رکھئے کہ دنیا و مافیہا مومن کی جان کے برابر نہیں۔“ یہ دنیوی زندگی لہو و لعب ہی تو ہے، ”حسن بصری“ کہتے ہیں جنت کے علاوہ اپنی قیمت مت لگاؤ کیونکہ مومن کا نفس قیمتی ہوتا ہے حالانکہ بعض لوگ اسے بہت سستا بیچ دیتے ہیں۔ جو لوگ مال ختم ہو جانے، گھر ڈھے جانے، گاڑی جل جانے وغیرہ پر تو ماتم چاڑھ لیتے ہیں لیکن اپنے ایمان کی کمزوری، برائیوں، گناہوں اور رب کی نافرمانی پر متاسف نہیں ہوتے انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا نوحہ و ماتم بے کار تھا۔ اسی چیز سے اقدار، موقف اور مشن سے واقفیت و ناواقفیت کا پتہ چل جاتا ہے:

”بلاشبہ یہ لوگ جلدی ملنے والی (دنیا) کو چاہتے ہیں اور اپنے پس پشت ایک بڑے دن کو ڈال رہے ہیں۔“ (۷۶:۷۷)

حقیقی محبت

اللہ کے دلیوں اور پیاروں میں سے بننے کی کوشش کرو تا کہ تمہیں خوشی ملے۔ سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کی محبت کو اپنا سب سے بڑا مقصد اور غایت اولیٰ بنا لے، اسی کو اللہ نے لطیف تعبیر میں یوں کہا ”اللہ ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں“ (۵۴:۵) بعض کہتے ہیں کہ

غم نہ کریں

اس آیت میں ”یحبونہ“ تعجب خیز نہیں، تعجب خیز تو ”یحبہم“ ہے۔ کیونکہ اُس نے پیدا بھی کیا۔ رزق بھی دیا۔ ان کو راہ دکھائی، سب کچھ دیا بھی، پھر محبت بھی کرتا ہے، فرمایا ”کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔“ دیکھئے کہ حضرت علیؓ کی تعریف میں زبان رسالت سے کیا نکلا جس نے ان کے سر پر فخر کا تاج رکھ دیا کہ ”یہ وہ آدمی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔“ ایک صحابی کو ”قل هو اللہ احد“ اتنی پسند تھی کہ ہر رکعت میں اسے دہراتے، اسے پڑھ کر بے خود ہوتے اور زبان سے دہراتے دل کو آرام دیتے ان کا وجدان اُس سے حرکت میں رہتا۔ ان کی کیفیت دیکھ کر رسول اکرمؐ نے فرمایا ”تمہاری اس سورہ سے محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔“

ایک عالم کے حالات پڑھتے ہوئے دو مصرعے مجھے ملے اور بڑے پسند آئے، وہ کہتے ہیں:
 ”جب لوگوں کو لیلیٰ اور سلمیٰ کی محبت ہی پاگل بنا ڈالتی ہے۔ تو وہ عاشق کیا نہ کرے گا جس کا دل
 محبوب حقیقی (اللہ) میں اٹکا ہوا ہو۔“

”یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں کہو پھر کیوں وہ تمہیں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں“ (۱۸:۵)

لیلیٰ کے دیوانے قیس کو ایک عورت کی محبت نے مار ڈالا، قارون کو مال کی محبت لے ڈوٹی، فرعون منصب کی چاہت میں مارا گیا لیکن حمزہؓ، حظلہؓ اور جعفرؓ اللہ اور رسول کی محبت میں قتل ہوئے۔ دونوں موتوں میں کتنا فرق ہے۔ ہمیں تفاوت رہ از کجاتا کجاست

وقفہ

امریکہ میں ہر سال ۳۰۰ پولیس والے خودکشی کر لیتے ہیں جن میں دس تو صرف نیویارک میں کرتے ہیں۔ جب کہ ۱۹۸۷ء سے وہاں پولیس والوں میں خودکشی کا گراف بڑھتا جا رہا ہے، افسران اس صورت حال سے پریشان ہیں۔ پولیس کی قومی یونین نے اس کے اسباب کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان کی خودکشی کا سب سے بڑا سبب دائمی اعصابی بے چینی تھی کہ ان کو بحرانوں میں تو ثابت قدمی کی

ٹریڈنگ دی جاتی ہے جب کہ جرائم کا گراف بڑھتا ہی جا رہا ہے لیکن مجرموں کے ساتھ نبر آزمانی میں بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کی لاشیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ان کے پاس ہمیشہ اسلحہ رہتا ہے جس سے ان کو خودکشی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ ۱۰۰ میں سے ۸۰ کیسوں میں خودکشی اپنے ہی ہتھیار سے کی گئی۔ ایک بار تو لگا تار تین دنوں تک پولیس افسران نے اپنے میرین ریوالور سے خودکشی کی، تین دنوں میں تین افسران مر گئے۔

شریعت سادہ اور آسان ہے

مسلمان کے لئے یہ امر بھی طمانیت بخش ہے کہ شریعت آسانی اور رواداری پر مبنی ہے فرمایا ”اَللّٰہُ ہم نے تمہارے اوپر قرآن اس لئے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑھاؤ“ (۱:۲۰) ”ہم آسان راستہ کی تمہیں رہنمائی کر دیں گے“ (۸:۸۷) ”اللہ ہر نفس کو اس کی طاقت کے برابر ہی مکلف بناتا ہے“ (۲۸۶:۲) ”اللہ نے ہر آدمی کو جتنا دیا ہے اسی کا مکلف بنایا ہے۔“ (۷:۶۵) ”تمہارے دین میں اُس نے کوئی تنگی نہیں رکھی“ (۷۸:۲۲) ”پیغمبران سے ان اُفلال اور بوجھوں کو ختم کر دیتا ہے جو ان پر تھے“ (۱۵۷:۷) ”تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ عمر کے ساتھ سیر ہے۔“ (۵:۹۳) ”اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلوں پر ڈالا، رب کریم! جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اس کا مکلف نہ بنانا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مولیٰ ہے۔ تو کافروں پر ہمیں فتح و نصرت دے“ (۲۸۶:۲)

”میری امت کے لئے خطا، نسیان اور جبراً جو کام کرایا جائے وہ معاف ہے“ دین آسانی کا نام ہے، دین پر جو بھی شدت برتنا چاہے گا وہ ناکام ہوگا۔“ صحیح راستہ دکھاؤ تقریب پیدا کرو بشارت دو“ میں آسان اور سادہ دین لے کر آیا ہوں“ تمہارے دین میں سیر کا سب سے زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔“ ایک ہم عصر شاعر کو ایک حکومت میں وزارت پیش کی گئی اس شرط پر کہ وہ اپنے پیغام حق، اپنے مشن اور تمناؤں سے دست بردار ہو جائے تو اُس نے اشعار کی زبان میں جواب دیا اور کہا:

غم نہ کریں

”اپنی دنیا اپنے پاس ہی رکھو، میرے دل کو آزاد چھوڑ دو۔ تم مجھے غریب الوطن، تنہا بے یار و مددگار سمجھتے ہو حالانکہ تم سے بڑی دولت میرے پاس ہے۔“

راحت کی بنیادیں

۳۱۵/۲۳۱ھ کے مجلہ ”اہلاً وسہلاً“ کے شمارہ میں ایک مقالہ بعنوان ”قلق سے بچاؤ کے بیس اصول“ شائع ہوا ہے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر حسان شمس پاشا۔ اس مقالہ میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ ہر چیز قضا و قدر سے ہوتی ہے، مخلوق کی روزی تو آسمان میں خدا کے ہاں ہے، اس کا کوئی مالک نہیں۔ لہذا بندہ کیوں افسوس کرے اور جو واقع ہو اس پر کیوں ملول ہو کہ تقدیر پر کسی کا بس نہیں چل سکتا۔ ماضی اپنے غموں و تفکرات کے ساتھ چلا گیا اب کبھی وہ واپس نہ آئے گا۔ ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کر اسے واپس نہیں لاسکتی۔ مستقبل عالم غیب میں ہے۔ ابھی نہیں آیا نہ اس نے دستک دی تو اس کے آنے سے پہلے مت بلاؤ۔ لوگوں سے احسان و سلوک دل کو مسرت بخشتا ہے۔ سینہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ ان کے لئے بڑی برکت، ثواب اور اجر و راحت کا سبب ہوتا ہے۔ مومن کا شیوہ ہوتا ہے کہ وہ ظالمانہ تنقید کی پرواہ نہ کرے۔ کیونکہ سب دشتم سے اللہ رب العالمین بھی نہیں بچا جو کامل و اکمل ہے۔ جلیل و جمیل ہے، جس کے اسماء مقدس ہیں۔ میں نے شعر کی زبان میں یوں کہا ہے:

تم گرم گرم آنسو کیوں بہاتے ہو تمہارا دل دہشت گردی سے ہول رہا ہے۔ معاملہ رب جلیل کے حوالہ کر دو اور دیکھ لو کہ کیسے راہیں کھلتی ہیں۔

عشق ایک آفت ہے

عشق مجازی سے دور رہئے یہ وہ آگ ہے کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ وہ مسلمان خوش نصیب ہے جو شعراء کے عشق، آہ و بکا، نالہ ہائے فراق اور ہجر و وصال کے شکووں سے محفوظ ہے۔ یہ چیزیں دل کو خالی کر دیتی ہیں۔

”کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے اسے اللہ نے گمراہ کر دیا

تیر ہے۔“ شاعر کہتا ہے:

”جب تم اپنی آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھو گے تو مناظر تمہیں تھکا دیں گے اور وہ دیکھو گے جس کے کامل پر قادر ہو سکتے ہو نہ ناقص پر صبر آئے گا۔“

(۳) عبادت و بندگی اور ذکر، دعا اور نوافل میں کوتاہی ”نماز فحش باتوں اور منکر سے روکتی ہے“ بیماری عشق کا علاج ہو سکتا ہے جیسا کہ فرمایا ”اسی طرح ہم نے اس سے برائی اور فحشاء کو دور

کر دیں کیونکہ وہ ہمارے مومن و مخلص بندوں میں تھا۔“ (۲۳:۱۲) اس علاج کی تدبیر یہ ہے کہ:

(۱) اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر بندہ اپنے گوگردے، اسی مولیٰ سے شفاء اور عافیت کا طالب ہو۔

(۲) غضب بصر کرے، شرم گاہ کی حفاظت کرے، ”وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں“

(۳۰:۲۳) ”اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“ (۵:۲۳)

(۳) جس میں دل اٹکا ہو اس کے گھر دوارا اور شہر کو چھوڑ دے اس کا ذکر نہ کرے۔

(۴) اعمال صالحہ میں لگ جائے ”یہ وہ لوگ ہیں جو خیر کے کاموں میں سبقت کرتے تھے اور خوشی

و غمی میں ہمیں پکارتے تھے۔“ (۹۰:۲۱)

(۵) شریعت کے مطابق شادی کر لے ”جو عورت تمہیں پسند آئے اس سے شادی کر لو“ (۳:۴)

”اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے

تا کہ تم سکون حاصل کرو۔“ (۲۱:۳۰)

”اے جوانو! تم میں سے جو شادی کے لائق ہو وہ ضرور شادی کرے۔“ (حدیث شریف)

برادرانہ حقوق کی ادائیگی

ایک مسلمان بھائی اس سے خوش ہوگا کہ اُسے اس کے پسندیدہ تر نام سے پکارو۔ بقول شاعر میں اپنے دوست کو لقب سے نہیں کنیت سے پکارتا ہوں تاکہ وہ خوش ہو کیونکہ لقب سے پکارنا اچھا نہیں لگتا۔ کوئی مسلمان بھائی آئے تو خندہ جینی سے اس سے ملاقات کرو۔“ بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی ایک صدقہ ہے“ اسے بات چیت پر ابھارو یعنی یہ موقع دو کہ وہ اپنے بارے میں بتائے اپنے

دلوں کو شفا دے، جسم سے بیماری کو بھگائے دلوں کی انگلیٹھی گرم کر دے، چہرہ کو روشن کرے، جوارح کو چست بنائے رزق کا ذریعہ بنے، ظلم کو دفع کرے، مظلوم کی مددگار ہو، شہوتوں کی آگ بجھائے، نعمت کی حفاظت کرے، بدبختی دور کرے، رحمت لائے اور رحمت کو بھگائے۔

آسان شریعت

بندہ مؤمن کو اس سے بھی خوش ہونا چاہئے کہ شریعت میں بے پناہ ثواب ہے۔ عطاء کا کوئی ٹھکانہ نہیں، توحید اور اس جیسی مکلفات عشر اور کفارات گناہ میں یہ چیز واضح ہے مثلاً نماز، جمعہ کی نماز، ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ، حج، روزہ وغیرہ اعمال صالحہ، ان کے علاوہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کا بدلہ کئی کئی گنا زیادہ ہوتا ہے مثلاً دس گناہ سے لے کر سات سو گنا اور اس سے بھی زیادہ تک۔ پھر توبہ ہے جو ما قبل کی ساری خطاؤں اور گناہوں کو معاف کراتی ہے۔ مصیبتیں ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی ایک دوسرے کے لئے غائبانہ دعائیں ہیں۔ موت کی تکلیف بھی گناہ کا کفارہ بنتی ہے۔ جب آدمی کی نماز جنازہ ہوتی ہے تو لوگ اُس کے لئے دعا کرتے ہیں۔ سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ارحم الراحمین کی رحمت ہے ”تم اگر اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے“ (۱۸:۱۶)

”اس نے تمہارے اوپر ظاہری اور باطنی نعمتیں انڈیل دی ہیں۔“

تم سر بلند ہو پھر ڈر کس کا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں تین بار خوف محسوس ہوا: پہلی بار جب عالم فرعون کے دربار میں داخل ہوئے تو کہا: اے رب ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہمارے اوپر سرکشی یا زیادتی نہ کرے فرمایا: ”تم نہ ڈرو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور دیکھتے اور سنتے ہیں۔“ (۳۶:۲۰) اس قول کو تو مومن کو حرز جاں بنالینا چاہئے اور اپنے حافظہ میں ڈال لینا چاہئے۔ دوسری مرتبہ جب ساحروں نے اپنے ڈنڈے پھینکے تو موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا تو فرمایا ”تم ہی سر بلند ہو ڈرو مت۔“ تیسری مرتبہ جب فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کا پیچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اپنا ڈنڈا

مارو، اور موسیٰ نے فرمایا ”ہرگز نہیں میرا رب مجھے ضرور راستہ بتلائے گا۔“ (۶۲:۲۶)

چار چیزوں سے دور رہیں

چار چیزیں زندگی میں تنگی، کدورت اور ضیق صدر پیدا کرتی ہیں، پہلی اللہ کے فیصلہ و تقدیر پر اظہار ناراضگی اور اس سے راضی نہ ہونا دوسری: معاصی میں پڑ جانا اور توبہ نہ کرنا ”کہہ دو وہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے“ ”تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔“ تیسری لوگوں سے حسد، انتقام کا جذبہ اور ان کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر حسد ”کیا یہ اللہ کے لوگوں کے اوپر فضل پر بھی حسد کرتے ہیں۔“ ”حاسد کبھی خوش نہیں رہتا“ چوتھی چیز اللہ کے ذکر سے اعراض ”جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔“

اللہ تعالیٰ سے لو لگائیے

بندے کو سکون تبھی ملتا ہے جب وہ خدائے تعالیٰ سے لو لگائے۔ اس بات کو قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا ہے۔ فرمایا ”تو اس نے سکینت نازل کی اپنے رسول اور مومنین پر“ (۲۶:۲۸) ”پھر اللہ نے سکینت نازل کی اپنے رسول پر“ (۲۶:۹)

سکینت یہ ہے کہ بندہ پورے طور پر رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس پر کامل بھروسہ کی وجہ سے دل مطمئن ہو جائے اور اس پر توکل سے آدمی کا دل ماسوا سے بے نیاز ہو جائے۔ سکینت اس کو کہتے ہیں کہ نفس کے خدشات ختم ہوں وہ سکون و ثبات کی حالت میں آجائے، گمانوں کے لشکر چھٹ جائیں۔ یہ وہ حالت امن ہے جو اہل ایمان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان کو حیرت و اضطراب سے نجات دیتی ہے۔ شکوک و شبہات ختم کر دیتی ہے، یہ کیفیت مختلف ہوتی ہے، جتنا بندے کی اللہ سے ولایت، تعلق، ذکر و شکر اور استقامت ہوگی جتنا وہ اتباع رسول اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا، خالق سے محبت کرے گا، مالک کے احکام مانے گا، ماسوا سے بے نیاز ہوگا صرف اللہ کو پکارے گا، تنہا اس کی عبادت کرے گا اسی اعتبار سے سکینت کی کیفیت حاصل ہوگی۔ ”اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا و آخرت کی

زندگی میں قول ثابت کے ذریعہ سے ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔“ (۲۷:۱۴)

دو بڑی باتیں

امام احمدؒ فرماتے ہیں: دو باتوں نے آزمائش میں مجھے زبردست فائدہ پہنچایا:
 پہلی بات یہ ہے کہ ایک شخص جسے شراب پینے کے جرم میں قید کیا گیا تھا۔ اس نے کہا اے احمد!
 ثابت قدم رہنا تمہیں سنت کے راستہ میں کوڑے لگائے جاتے ہیں جب کہ مجھے شراب پینے پر کئی بار
 کوڑے مارے گئے اور میں نے صبر کیا۔
 ”اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تمہاری طرح دوسروں کو بھی تکلیف پہنچی ہے جب کہ تم کو اللہ سے
 وہ امید ہے جو دوسروں کو نہیں ہے“ (۱۰۴:۴)

”لہذا صبر کیجئے اللہ کا وعدہ حق ہے اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ تمہارا استخفاف نہ
 کریں۔“ (۶۰:۳۰) دوسری بات یہ تھی کہ جب امام احمدؒ کو قید کر کے جیل کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو
 ایک دیہاتی نے کہا احمد صبر کرنا کیونکہ تم یہاں قتل ہوئے نہیں کہ فوراً جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔“ اُن کا
 رب انہیں اپنی رحمت، رضامندی، باغات اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی بشارت دیتا ہے۔“ (۲۱:۹)

مصیبتوں کے فوائد بھی ہیں

ان فائدوں میں یہ ہے کہ دعا میں بندگی کی شان پیدا ہو جاتی ہے، ایک کا قول ہے کہ کتنی عظیم
 ہے وہ ذات جس نے مصیبت میں دعا کی توفیق دی، ایک اثر یوں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی
 نیک بندے کو مصیبت میں مبتلا کیا اور ملائکہ سے فرمایا میں اس کی دعا اور آہ وزاری سن رہا ہوں۔“ ایک
 فائدہ یہ ہے کہ نفس کی سرکشی ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے ”ہرگز نہیں یقیناً انسان سرکشی کر بیٹھتا ہے
 جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے“ ایک فائدہ یہ ہے کہ مصیبت زدہ سے لوگ اظہار ہمدردی کرتے
 ہیں، اُس سے ان کو محبت ہو جاتی ہے، اس کے لئے دعا کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان
 فائدوں میں یہ ہے کہ اس مصیبت سے کوئی بڑی بلا ٹل جاتی ہے، پھر یہ کہ وہ بہت سے گناہوں اور

کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ ہنستے مسکراتے گزر بسر کرتے ہیں۔ ان کے سینے کھلے اور ان کے جسم مضبوط اور دل مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ زندگی بس آج کی ہے وہ ماضی و مستقبل کی یاد میں کھوئے نہیں رہتے بلکہ اپنے کاموں میں اپنی زندگیاں ختم کر دیتے ہیں: مجھے کوئی پروا نہیں جب کہ میرا نفس زندہ یا مردہ چیزوں سے نجات کے لئے میرا ساتھ دیتا ہے۔ ان کے اور مخلوق کو ٹھیکوں میں رہنے والوں کا موازنہ کیجئے کہ یہ شاندار مخلوق میں رہنے کے باوجود موسموں اور انتشار و فتنی کا شکار ہوتے ہیں جس کے باعث رنج و ملال ان کو پراگندہ دل کر دیتا ہے۔ بقول شاعر:

لعنت ہو اس دنیا کے سوار کے لئے اس کا ماحول ٹھیک نہیں ہر حوصلہ مند اس میں جتنا لئے مصیبت رہتا ہے۔

یادگار سے آدمی امر ہو جاتا ہے

مومن کی خوش نصیبی میں یہ بھی ہے کہ اس کا ذکر خیر کیا جائے۔ یہ اس کے لئے دوسری زندگی ہوتی ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ بغیر مال، منصب، کوشش اور عمل کے اس کا ذکر خیر ہوتا رہے وہ نادان ہے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ بعد والوں میں ان کا تذکرہ خیر ہو اور ان کے لئے دعا کی جائے۔ کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا نام کرم و سخاوت اور اچھے کارناموں کے باعث زندہ جاوید ہو گیا۔ حضرت عمرؓ نے ہرم بن سنان کے ایک بیٹے سے پوچھا تمہیں زہیر نے کیا دیا اور تم نے اُسے کیا دیا۔ اس نے کہا اس نے ہماری مدح کی ہم نے اسے مال دیا، فرمایا: بخدا تم نے جو دیا وہ تو ختم ہو گیا اُس نے جو تمہیں دیا وہ باقی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زہیر نے اپنی مدح سے ان کا نام زندہ جاوید کر دیا۔ بقول شاعر:

خوشی کے وقت تمام مخلوق میں مواسات کا مستحق وہ شخص ہے جس نے غمی میں تمہارا ساتھ دیا ہو شرفاً مصیبت سے نجات کے بعد برے وقتوں میں کام آنے والے کو یاد کرتے ہیں۔



عظیم مرثیے

تین مرثیے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہے گئے انہیں زندہ جاوید بنا دیا۔ مشہور روزیرا بن بقیہ کو عضد الدولہ نے قتل کر دیا۔ اس کا مرثیہ ابوالحسن الانباری نے اپنے شاندار و جاندار قصیدہ میں کہا جس کے بعض ابیات کا ترجمہ یہ ہے:

”زندگی اور موت دونوں میں بلندی کا ہونا ایک معجزہ سے کم نہیں۔ لوگ تمہارے ارد گرد کھڑے ہوئے ایسے لگ رہے تھے کہ سخاوت کے دن ہوں اور لوگ دُفود بنا کر آئے ہوں۔ یوں لگتا تھا کہ وہ نماز کے قیام میں کھڑے ہیں اور تم انہیں خطبہ دے رہے ہو۔ تمہارے دونوں ہاتھ ان کی طرف بڑھے ہوئے تھے اور انہیں عطیے اور انعام دے رہے تھے۔ زمین کا پیٹ جب ان کا رناموں کو چھپانے سے عاجز ہو گیا تو انہوں نے فضا کو تمہاری قبر بنا دیا اور تمہارے ماتم کے لئے رونے والیاں بلا لیں۔ تمہاری کس زمین کو کہوں کہ سیراب کی جائے تم تو موسلہ دھار بارشوں کا نشانہ ہو۔ اللہ کی رحمتیں تم پر برابر ہو رہی ہیں اور خوشبوئیں بکھری ہوئی ہیں جن سے دل ٹھنڈا ہو۔ دلوں میں تمہاری عظمت بیٹھی ہوئی ہے جس کو حافظانِ روایت اور ثقافت محافظ ملے ہیں۔ رات میں تمہارے اطراف میں آگ جلتی ہیں جیسا کہ تمہاری زندگی میں ہوا کرتا تھا۔“

کتنی خوبصورت عبارت ہے، کیا حسین اشعار ہیں اور کیسی شاندار اقدار کی ترجمانی کرتے ہیں، کتنے بلند معانی پنہاں ہیں، سبحان اللہ! شاعر نے کیا عمدہ تحفہ ممدوح کو دیا ہے، اس کے سر پر کیا تاج پہنا دیا ہے کہ جب ممدوح کے قاتل عضد الدولہ نے یہ اشعار سنے تو اس کی آنکھوں میں آنسو گئے۔ کہنے لگا کاش کہ میں قتل کیا جاتا، یا مجھے سولی دی جاتی اور یہ مرثیہ میرے بارے میں کہا جاتا۔

محمد بن حمید الطوسی جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو ابو تمام نے مرثیہ کہا:

”اسی طرح اس معاملہ کو بڑا سمجھو اور آسان نہ لو، جو آنکھ نہ روئے اس کے پاس کوئی عذر نہیں۔“

محمد کے بعد تو امیدیں ختم ہو گئیں۔ تلوار نے سفر سے روک دیا۔ محمد نے شہادت کے سرخ جوڑے پہن لئے۔ جو تار یک رات میں ریشم لگتے ہیں۔“

آخر تک پورا قصیدہ یونہی ہے۔ معصم نے اسے سن کر کہا کہ جس کے بارے میں یہ مرثیہ کہا گیا ہے وہ مر نہیں سکتا۔ مشہور سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کے خاندان میں ایک کریم و شریف آدمی تھا جس نے اپنا مال اور مرتبہ مصیبت زدوں کی غم خواری میں لگایا، آفت کے ماروں کے ساتھ کھڑا ہوا۔ مسکینوں کو دیا، بھوکوں کو کھلایا، خوف زدوں کی پناہ گاہ بنا۔ جب وہ مر گیا تو ایک شاعر نے کہا:

”ابن سعید اس حال میں رخصت ہوا کہ مشرق و مغرب میں ان کے گن گائے جا رہے تھے۔ میں اس کی سخاوت کے بارے میں نہیں جانتا تھا حتیٰ کہ اس کی وفات ہوگئی۔ وہ زمین کے ایک چھوٹے سے حصہ میں سکون سے لیٹ گیا۔ زندہ تھا تو اُس کی سمائی سے بڑے بڑے میدان عاجز تھے۔ جب تک میری آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں میں اسے روؤں گا۔ آنسو خشک ہو گئے تو دل روئے گا۔ میں کتنی ہی بڑی مصیبت میں ہوں اس سے گھبرایا نہیں کرتا اور تمہاری موت کے بعد تو خوشی بھی نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے علاوہ کوئی مرا ہی نہیں نہ کسی کا ماتم ہوا۔ اگر تمہارے مرے زبردست ہیں تو موت سے پہلے تمہاری تعریف میں بھی زبردست قصیدے کہے گئے تھے۔“

ابونواس مصر کے امیر انحصیب کی تاریخ لکھتا ہے اور اس کا نام جریدہ عالم پر ثبت کر دیتا ہے۔

وہ کہتا ہے :

”اگر انحصیب کے بلاد میں ہم نہ جائیں تو کہاں جائیں گے۔ سخاوت اس سے بچ کر جا نہیں سکتی بلکہ جہاں وہ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی سخاوت چلتی ہے۔ وہ ایسا آدمی ہے کہ مال سے نیک نامی خریدتا ہے اور جانتا ہے کہ زمانہ التلا پلٹتا رہتا ہے۔ لوگ انحصیب کی زندگی اور کارناموں کو ان آیات کے حوالے سے ضرور یاد رکھیں گے۔“

وقفہ

۱؎ اے اللہ ہمارے دل میں اپنا اتنا ڈر پیدا فرما جو ہمیں معصیت سے روکے اور تیری اطاعت پر آمادہ کرے تاکہ ہم جنت کے مستحق ہو جائیں۔ ہمیں اتنا یقین عنایت کر جس سے ہم مصائب دنیا کو برداشت کر لیں۔ اپنے کانوں، نگاہوں اور قوتوں میں نئی زندگی دے سکیں۔ اس زندگی کو ہمارا وارث

پیا سے کو پلائیے، مریض کی عیادت کیجئے، جنازہ کے ساتھ چلئے، بے ہوش مصیبت زدہ کی غم گساری کیجئے، بھٹکتے کی رہنمائی کیجئے، مہمان کا اکرام کیجئے، پڑوسی پر مہربان رہئے، بڑے کا احترام کیجئے، چھوٹے پر رحم، اپنا مال خرچ کیجئے، درہم لٹائیے، اچھی بات بولئے اور کسی کو تکلیف نہ دیجئے یہی آپ کے لئے صدقہ ہوگا۔ یہ خوبصورت معانی، بلند صفات بہت زیادہ مسرت اور انشراح صدر لاتی ہیں، رنج و غم اور افسردگی و کبیدہ خاطر کی کو دور کرتی ہیں۔

حسن اخلاق بھی کیا چیز ہے، اگر اس کی تحسیم کی جاتی تو یقیناً ایک خور و، پرکشش، مسکراتا اور اچھی شہرت کا حامل آدمی ہوتا۔

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے

ظہر کی نماز سے ایک گھنٹہ پہلے میں شدید گرمی میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بوڑھا آدمی اٹھا اور لوگوں کو ٹھنڈا زمزم کا پانی پلانے لگا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک پیالہ تھا اور بائیں میں ایک پیالہ تھا وہ انہیں زمزم کا پانی پلا رہا تھا جب ایک کو پلا دیتا تو دوسرے کو پلانے لگتا۔ اس نے بہت سارے لوگوں کو پلا دیا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا لوگ اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے کہ اس بوڑھے کے ہاتھ سے پی لیں، مجھے حیرت ہوئی کہ بوڑھا کتنا مضبوط، صابر اور خیر پسند ہے اور مسکرا مسکرا کر لوگوں کو پانی دے رہا ہے۔ میں نے جان لیا، بھلائی اور خیر کے کام ان کے لئے آسان ہیں جن کے لئے اللہ آسان کرے۔

اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں

عرفان محبت عام تو ہے فیضان محبت عام نہیں

اللہ تعالیٰ بھلائی کے کاموں کو اہل خیر کے لئے مقدر کر دیتا ہے جو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں اور کسی کا برا نہیں چاہتے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت میں اپنے آپ کو خطرہ میں ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں۔ حاتم اپنے مہمانوں کو کھلانے کے لئے بھوکا سو جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہؓ لشکر کے آرام کی خاطر رات میں جاگا کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ اس وقت شہر میں چکر لگاتے ہیں جب

پاس سے نبی کریمؐ گزرتے اور اس کی قرأت دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر سنتے جب وہ پڑھتی ”ہل اتاک حدیث الغاشیہ“ تو اسے بار بار پڑھتی اور دہراتی تو آپؐ فرماتے ”ہاں میرے پاس وہ خبر آئی ہاں میرے پاس آئی۔“ واقعہ ہے کہ سننے سے کانوں میں رس گھلتا اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ ایک ممتاز مسلمان مصنف نے یورپ کا سفر کیا اور بحری جہاز پر بیٹھے۔ ان کے ساتھ یوگوسلاویہ کی ایک کمیونسٹ عورت بھی سوار ہوئی جو مارشل ٹیٹو کے ظلم سے بھاگ کر آئی تھی۔ راستے میں جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس مسلمان مصنف نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ساتھیوں کو نماز پڑھائی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھی۔ عورت عربی اچھی طرح نہیں جانتی تھی لیکن اُس نے اس عجیب کلام کو سنا اس کی نفسگی اور زیروہم کی طرف کان لگائے۔ پھر ان آیات کے بارے میں مؤلف مذکور سے استفسار کیا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ حیران و ششدر کھڑی رہ گئی۔ مؤلف کہتے ہیں کہ زبان نہ جاننے کی وجہ سے اسے اسلام کی دعوت نہ دے سکا کیجیہ ہے

”اگر تمام انس و جن بھی قرآن کی مثل لانے پر ایکا کر لیں اور ایک دوسرے کا تعاون کریں تو

بھی ایسا نہیں کر سکتے۔“ (۸۸:۱۷)

قرآن قلوب پر چھا جاتا ہے، روحوں پر اُس کی ہیت طاری ہو جاتی ہے وہ دلوں پر ایک زبردست اثر ڈالنے والی قوت ہے۔ سلف صالحین اور قدیم بزرگوں میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تاثیر سے پگھل جاتے اس کی سچی اور موثر لے اور زمزموں سے جھک جھک جاتے تھے۔

”اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے وہ پہاڑ بھی پگھلا

جاتا ہے۔“ (۲۱:۵۹)

دیکھیں کہ علی بن فضیل بن عیاض کی روح پرواز کر گئی جب انہوں نے اپنے باپ کو یہ آیت پڑھتے سنا ”وقفوہم انہم مسؤولون مالکم لاتنصرون“ (۲۵:۳۷) حضرت عمرؓ نے آیت کریمہ کہ ”اگر ایسا قرآن بھیجا جاتا جس سے پہاڑ چل پڑے۔ زمین کٹ کٹ جاتی مردے بول اٹھتے۔“ (۳۱:۱۳) سنی تو اس کے اثر سے بے قرار ہو گئے اور پورے ایک مہینے تک بیمار رہے ابن کثیر کے مطابق لوگ ان کی عیادت کے لئے ایسے ہی آتے رہے جیسے جسمانی بیمار کی عیادت کرتے ہیں۔

غم نہ کریں

ذہبی نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن وہب جمعہ کے دن گزرے انہوں نے ایک لڑکے کو آیت کریمہ ”واذیتحاجون فی النار“ پڑھتے ہوئے سنا تو ہوش جاتے رہے انہیں گھر لایا گیا تین دن بیمار رہے اور چوتھے دن دنیا کو خیر باد کہا۔ ایک عالم نے مجھے بتایا کہ مدینہ میں انہوں نے نماز پڑھی قاری نے سورہ واقعہ پڑھی وہ کہتے ہیں کہ اتنا ذہول اور گہرا خوف طاری ہوا کہ میں بغیر ارادہ کے کانپ گیا آنسو پٹپٹ کرنے لگا اور آہ وزاری کے ساتھ رونے لگا ”اس کے بعد کسی بات پر یہ ایمان لائیں گے۔“

لیکن اس سب کا ہمارے موضوع خوش نصیبی کے اسباب سے کیا تعلق ہے۔

۲۴ گھنٹے لاحق رہنے والی تشویش کافی ہے کہ آدمی کے عقل و شعور کو زنگ لگا دے اور اسے مایوسی میں مبتلا کر دے۔ لیکن اگر وہ رب کریم کی طرف رجوع کرے اور مولیٰ تعالیٰ کی بات پر کان لگائے، کسی اچھے قاری سے اس کا پیارا کلام سنے اور اس پر غور کرے تو اس کا شعور واپس آ جائے گا، دل مضبوط ہوگا، اضطراب ختم ہو جائے گا اور سینہ کے اُبال میں ٹھہراؤ آئے گا۔ میں اس بات سے آپ کو ان لوگوں کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں جو میوزک میں خوشی و مسرت اور راحت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں کتابیں بھی لکھی ہیں۔ بہتیروں کا تو دعویٰ ہے کہ جب موسیقی سننے ہیں وہی سب سے خوبصورت لمحہ اور بہترین وقت ہوتا ہے۔ مغرب میں ایسے مصنفین کی کمی نہیں جو میوزک کو بھی خوشی و مسرت کے اسباب میں شمار کرتے ہیں انہوں نے اس موضوع پر لکھا ہے کہ رنج اور قلق کو دور کرنے میں موسیقی کا بڑا ہاتھ ہے۔ ”کعبہ کے پاس ان کی نماز کیا تھی؟ محض تالی پیٹنا اور چلانا“ ”یہ مدہوشی کے عالم میں ہڈیاں بک رہے ہیں۔“

واقعہ یہ ہے کہ میوزک ایک گناہ آلود متبادل ہے، اس کا سننا حرام ہے ہمارے پاس تو اس سے بہت بہتر وہ چیز ہے جو محمد ﷺ پر نازل ہوئی جو سچائی کا خزانہ اور بہترین رہنمائی کا نسخہ ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”یہ ایسی کتاب ہے جس میں باطل آگے پیچھے کہیں سے نہیں آسکتا وہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ ہے“ لہذا ہمارا قرآن کو سننا ایمانی، شرعی اور محمدی سماع ہے۔

”تم دیکھو گے کہ حق کی معرفت کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں“ (۸۳:۵)

ان کا میوزک کو سننا فضول عبث اور کار لایعنی ہے جسے جاہل احمق اور کم ظرف انجام دیتے ہیں

”کتے ہیں جو اللہ کے راستے سے بھٹکانے کے لئے لہو و لعاب کے خریدار بنتے ہیں۔“ (۶:۳۱)

خوشی کی تلاش ہر کسی کو ہے لیکن.....

علامہ اسکانی کی ایک کتاب بعنوان ”لطف التذییر“ ہے۔ وہ نہایت مفید، بہت ہی جاذب، پرکشش اور توجہ کھینچنے والی کتاب ہے۔ کلام کی غرض و غایت اس میں یہ ہے کہ لوگ خوش بختی امارت و قیادت اور ثروت مندی کے لئے کیا اسباب اختیار کرتے ہیں۔ چال بازیوں، مکاریوں، منافقت و عیاری اور سیاست بازی، جن کے مرتکب بادشاہ، امراء سے لے کر ادیب اور شاعر بھی ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض علماء بھی مستثنیٰ نہیں رہے، یہ سب چاہتے تھے کہ آرام راحت اور خوشی حاصل کر لیں، اپنے مطلوب کو پا جائیں، کتاب میں الگ الگ عنوانوں کے تحت اس کو بیان کیا گیا ہے۔ لطف التذییر میں یہ ہے کہ ہنگامہ کو فرو کیا جائے، نفرت کی آگ بجھائی جائے، تفرقہ بندی ختم ہو۔ شکست خوردہ دشمنوں کے مقابلہ میں کیا کرے۔ جیسے کمزور طاقتور کے مقابلہ میں کرتا ہے کہ برائی کو بات سے دفع کر دے۔ یا شرکو شر کے ذریعہ دفع کرے یا شر کو نرمی سے ختم کر دے۔ لطف التذییر میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ کی مدارات کر کے شر کو نال دیا جائے اور یہ بھی ہے کہ بادشاہ کے ظلم کا انتقام کیسے لیا جائے اس کی سزا سے کیسے بچا جائے۔ اس سے راز کی حفاظت کیوں کر ہو۔ وغیرہ وغیرہ۔ اس کتاب میں میں نے پایا کہ سبھی عزت خوشی اور اطمینان چاہتے ہیں لیکن کم ہی لوگ ہیں جنہوں نے مقصد پایا ہو اور اپنی غرض پوری کر لی ہو اس کتاب سے مجھے تین خاص باتوں کا فائدہ ہوا۔

(۱) یہ کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کو نصب العین نہ بنایا اس کے فائدے خسارے میں، اس کی

خوشیاں غموں میں اور اس کی نیکیاں بدی میں بدل گئیں

”ہم ان کو وہاں سے پکڑ لیں گے جہاں ان کو پتہ بھی نہ چلے۔“

(۲) خوش بختی کے لئے لوگ ٹیڑھے میڑھے راستے پر چلتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں۔ حالانکہ

شریعت کی راہ پر چل کر اسی کو وہ آسان طریقوں سے بھی پاسکتے ہیں

”جو نصیحت انہیں کی جا رہی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا اور زیادہ

غم نہ کریں

پائیدار ہوتا“ (۶۶:۴) انہیں دنیا و آخرت کی بھلائی مل جاتی۔

(۳) بہترے ایسے ہیں کہ ان کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا ہی کر رہے ہیں اور خوشی پا جائیں گے لیکن -- نہ خدا ہی ملانہ وصال صنم، کے مصداق ہو گئے۔ وجہ یہ ہے کہ اُس طریق صحیح کو انہوں نے چھوڑ دیا جس پر اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور اپنی کتابیں نازل کیں، یعنی حق کی جستجو اور سچی بات۔

”صدق و عدل میں تیرے رب کی بات ہی سب سے مکمل ہے اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔“ (۱۱۵:۶)

ایک وزیر صاحب لہو و لعب میں مبتلا رہا کرتے تھے یک بارگی انہیں شدید رنج و الم لاحق ہوا ہمہ وقتی فکر لاحق ہو کر رہ گئی تو مارے حیرت کے پکاراٹھے:

”ارے کہیں موت بک رہی ہے کہ میں اسے خرید لوں۔ اس زندگی میں تو کچھ نہیں رکھا، مجھے دور سے بھی کوئی قبر نظر آتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ اسی میں ہوتا۔ خدا یا بندہ آزاد پر رحم کر جس نے اپنے بھائی کی موت کا غم اٹھایا ہے“:

چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے

وقفہ

”خوش حالی میں اور امن و عافیت کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہئے کیونکہ شکر گزار اور باتدبیر مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ تیر پھینکنے سے پہلے ہی نشانہ درست کر لے۔ اضطراب کی حالت سے پہلے اللہ کی پناہ لے۔ بد بخت کافر اور غبی مومن اس کے برخلاف کرتے ہیں جیسا کہ فرمایا ”جب انسان کو کوئی مضرت لاحق ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کو انابت کے ساتھ پکارتا ہے پھر جب اسے نعمتوں سے نواز دیتا ہے تو جو دعا کی تھی اُسے بھول کر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے۔“ (۸:۳۹)

جو لوگ شدائد اور غموں کے گرداب سے نکلنا چاہتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ اپنے دل

کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا

بیکلام اللہ ہے جو رسول پر اتر اور آپ کے حق میں یہ کلمہ پورا ہو گیا۔ چنانچہ آپ نرم دل، کشادہ ظرف، پر امید، بیدار قلب اور جذبہ انقلاب کے حامل ہو گئے۔ آپ اپنے امور میں آسانی اختیار کرتے، دلوں سے قریب رہتے، عظمت کے باوجود سادگی کے پیکر تھے، بلند ہمت تھے لیکن لوگوں سے قریب تھے، مسکراتے مگر وقار کے ساتھ۔ بلندی کے باوجود لوگوں کے محبوب، شہری دیہاتی سب سے مانوس، خوش اخلاق، خندہ جبیں، تابناک چہرہ، انتہائی حد تک باحیا، مزاح لطف سے خوش ہونے والے، آنے والے کا استقبال کرتے، اللہ کی عطا سے خوش اور ربانی عطیوں پر شاداں، مایوسی آپ کو چھو کر نہ گئی ناکامی کو آپ جانتے ہی نہ تھے، ساتھ چھوڑ دینے یا قنوطیت طاری ہونے کا خیال بھی نہ آ سکتا تھا۔ چلا کر بات کرنے، حلق پھاڑنے، تکلف کرنے اور بال کی کھال نکالنے کو آپ پسند نہ کرتے کیونکہ آپ ایک مشن کے حامل، ایک فکر کے رہبر، ایک امت کے لئے نمونہ اور نسلوں کے قائد اور قوموں کے معلم بھی تھے۔ آپ پر خاندان اور سماج کی ذمہ داری بھی تھی۔ آپ اعلیٰ اقدار کا سرچشمہ فضائل کا مجمع، عطایا کا سمندر اور نور کی ندیاں رواں کرنے والے تھے۔

اختصار کے ساتھ آپ آسان راستہ ہموار کرنے آئے تھے۔ آپ کا امتیاز تھا کہ ”یہ نبی ان کی بیڑیوں اور بوجھ کو جو ان پر پڑا ہوا تھا ہٹاتے ہیں۔“ دوسرے لفظوں میں، آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ کی فضیلت کے لئے یہ کافی ہے کہ آپ ”شہادت دینے والے، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے اور روشن چراغ تھے۔“
خوارج کی کھود کرید، منطقیوں کا زندقہ، متصوفین کی حماقت، متکبرین کا تک چھڑھاپن، شعراء کی فریفتگی، دنیا داروں کا تکبر، علم سے دشمنی کرنے والوں کا انحراف آپ کے آسان اور سہل مشن کے خلاف تھا۔

”تو اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دی جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہ نمائی کرتا ہے۔“ (۲۱۳:۲)

خوشگوار زندگی کا مفہوم

ایک انگریز مفکر کا قول ہے کہ ”جیل میں آہنی سلاخوں کے پیچھے سے بھی تمہارے لئے افق کے پار دیکھنا ممکن ہے اور یہ بھی کہ اپنی جگہ رہتے ہوئے جیب سے پھول نکال کر سونگھو اور مسکراؤ اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم محل میں رہتے ہوئے دیبا و حریر پہن کر بھی چراغ پا ہو جاؤ، ناراض رہو اور بھڑکنا اور اپنے گھر، کنبہ اور اہل خانہ پر ناراض ہو کر چلاؤ۔“

خوش نصیبی کا تعلق زمان و مکان سے نہیں ایمان سے ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت اور دل کی کیفیت میں خوشی کا راز پوشیدہ ہے۔ اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ دل میں یقین ہوگا تو خوش نصیبی حاصل ہوگی جس سے دل و جان کو سکون، راحت اور انشراح کی کیفیت حاصل ہوگی۔ پھر اس کا اثر پھیلے گا اور وسیع ہوگا اور پہاڑوں، وادیوں اور نخلستان تک دراز ہوگا۔

امام احمد بن حنبلؒ نے سعادت کی زندگی گزاری جب کہ ان کا کپڑا سفید اور پیوند لگا ہوتا تھا۔ اپنے ہاتھ سے اسے سی لیتے تھے۔ تین مٹی کے کمرے تھے جن میں سکونت تھی۔ غذا کیا تھی زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کے ٹکڑے، آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ سترہ سال تک جوتوں میں پیوند لگا کر اور ٹانگ کر استعمال کرتے رہے۔ مہینہ میں ایک بار گوشت کھاتے، زیادہ تر روزہ رکھتے، طلب حدیث میں کثرت سے سفر کرتے اس کے باوجود سکون و اطمینان قلب اور راحت حاصل تھی کیونکہ ثابت قدمی و خودداری تھی، انجام پر نظر، ثواب کی امید، اجر کے طالب، آخرت کے لئے کوشاں اور جنت کے طلب گار تھے۔ آپ ہی کے زمانہ میں جن خلفاء نے ایک دنیا پر حکومت کی یعنی مامون، واثق، معصم اور متوکل نے، ان کے پاس، محلات، قصر، سونا چاندی، خزانے، لشکر، جھنڈے، نشانات اور جاندا دیں تھیں، خواہشات تھیں۔ اس کے باوجود زندگی کدورت بھری تھی، رنج و ملال، شور و شین، جنگیں، بغاوتیں اور شور و ہنگامے تھے۔ بعض سکرات موت میں اپنی کوتاہیوں پر نادم اور اللہ کے حضور سے شرمسار تھے۔

ابن تیمیہؒ شیخ الاسلام تھے۔ لیکن نہ بیوی بچے، نہ گھریار، نہ کنبہ، نہ مال اور منصب، جامع بنی امیہ کے پاس ایک کمرہ میں رہتے تھے۔ دن میں ایک روٹی کھاتے، دو کپڑے تھے جنہیں آدل بدل کر

پہنا کرتے، کبھی مسجد میں سو جاتے، پھر بھی جیسا کہ خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ ان کی جنت ان کے سینہ میں تھی۔ ان کا قتل ان کے لئے شہادت تھا۔ جیل میں تنہائی میسر آتی، شہر سے ان کا اخراج سیاحت ہو گئی کیونکہ ان کے دل میں ایمان کا پودا بڑھ کر تناور درخت بن گیا تھا اور برگ و بار لارہا تھا، عنایت ربانی کا پانی اسے مل رہا تھا۔

”وہ ایسا چراغ ہے جو بغیر آگ کے چھوئے روشن ہو رہا ہے۔ نور کے اوپر نور ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت سے نوازتا ہے۔“ ”اللہ نے ان کی خطاؤں کا کفارہ کر دیا اور ان کا حال درست کر دیا۔“ ”جو ہدایت یاب ہوئے اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور انہیں تقویٰ مرحمت فرمایا،“ ”تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی شادابی پاؤ گے۔“

ابو ذر رضی اللہ عنہ مقام ربذہ کی طرف نکلے، اپنا خیمہ وہاں گاڑا، اپنی بیوی اور بیٹیوں کو وہاں لے آئے۔ سال کے زیادہ دنوں میں روزہ رکھتے، اللہ کو یاد کرتے، خالق کی تسبیح بیان کرتے، عبادت کرتے قرآن کی تلاوت کرتے اور اس میں غور فرماتے۔ دنیوی چیزوں میں ان کے پاس کیا تھا، ایک چادر، ایک خیمہ، چند بکریاں، ایک سینی، ایک پیالہ اور ایک ڈنڈا، ساتھیوں نے ایک روز زیارت کی اور کہنے لگے بھائی دنیا سے کوئی سروکار نہیں؟ فرمایا: دنیا کی جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میرے گھر میں ہیں۔ نبی کریم ﷺ ہمیں خبر دے چکے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک تنگ گھاٹی ہے جسے وہی پار کر سکتا ہے جو زیادہ سے زیادہ ہلکا ہوگا۔

حضرت ابو ذر شرح صدر کے ساتھ مطمئن دل والے تھے۔ اتنی دنیا رکھتے تھے جتنی کی ضرورت تھی۔ ضرورت سے زیادہ کو وہ بوجھ، ذمہ داری اور رنج و فکر کا باعث سمجھتے تھے۔ میں نے ایک قصیدہ لکھا ہے بعنوان ”ابو ذر فی القرن الخامس عشر“ جس میں ابو ذر کی غریب الوطنی، توحید اور روح و فکر کے راستہ میں ہجرت کے باوجود ان کی خوش نصیبی کے بارے میں گفتگو کی ہے:

انہوں نے میرے ساتھ لطف و کرم کیا میں نے ان کو دھمکایا۔ انہوں نے موت کی دھمکی دی میں نے لطف کا معاملہ کیا۔ انہوں نے مجھے سوار کیا میں اتر پڑا کہ اپنے ارادہ کو پورا کروں تو انہوں نے مجھے ارادہ سے روکا، میں حق کے راستہ میں چل پڑا، میں موت کا پیچھا کر رہا ہوں وہ بھاگ رہی ہے، میں موت

لہذا اس وقت بھی کہ وہ لوگ ان کے لئے جو وہاں جا رہے ہیں ان کو بھی اس وقت سے لے کر

تین دنوں تک

کے لئے اس وقت سے لے کر ان کے لئے جو وہاں جا رہے ہیں ان کو بھی اس وقت سے لے کر تین دنوں تک

تین دنوں تک

کے لئے اس وقت سے لے کر ان کے لئے جو وہاں جا رہے ہیں ان کو بھی اس وقت سے لے کر تین دنوں تک

تین دنوں تک

کے لئے اس وقت سے لے کر ان کے لئے جو وہاں جا رہے ہیں ان کو بھی اس وقت سے لے کر تین دنوں تک

بچوں کی تعلیم

بچوں کی تعلیم

بچوں کی تعلیم کے لئے اس وقت سے لے کر ان کے لئے جو وہاں جا رہے ہیں ان کو بھی اس وقت سے لے کر تین دنوں تک

انہیں آزمائیں۔“ (۱۳۱:۲۰)

دنیا کے سب سے بڑے مصلح اور ہادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی زندگی گزار کر، آپ بھوک سے کروٹیں بدلتے۔ اتنی کھجوریں بھی نہ پاتے جس سے بھوک مٹ جائے۔ اس کے باوجود آپ جس نعمت، آرام، راحت، انبساط اور قلبی سکون و طمانیت کے ساتھ رہتے اس کی حد اللہ ہی جانتا ہے۔

”ہم نے تمہارا بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی۔“ (۳:۹۴-۲:۳) ”اللہ کا فضل آپ پر بڑا عظیم تھا“ (۱۱۳:۴) ”اللہ کے علم میں ہے کہ رسول کسے بنایا جائے۔“ (۱۲۴:۶)

حدیث صحیح میں ہے ”نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم یہ پسند نہ کرو کہ لوگ اسے جان لیں۔“ نیکی سے ضمیر کو راحت اور نفس کو سکون ملتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے کہا :

زمانہ کتنا ہی دراز ہو جائے نیکی باقی رہتی ہے۔ گناہ سب سے بری زاد راہ ہے، حدیث میں یہ بھی ہے: ”نیکی سے سکون اور گناہ سے خلش پیدا ہوتی ہے۔“ نیکو کا رصاف طور پر اطمینان و سکون سے رہتا ہے اور شک و شبہ میں مبتلا آدمی حادثات، اندیشوں اور حرکات و سکنات سے ہی خوف زدہ رہتا ہے۔ ”یہ ہر آواز کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں۔“ اس کا سبب بس اس کا گناہ ہے کیونکہ گنہگار کو تو قلع، اضطراب اور اندیشوں کا گرفتار ہونا ہی ہے:

جب آدمی کے کام برے ہوں تو اس کے گمان بھی برے ہو جاتے ہیں۔ اور اسے جو وہم و گمان ہوتا ہے اسے وہ سچ سمجھ بیٹھتا ہے۔ خوشی کی جستجو کا ایک ہی نسخہ ہے کہ ہمیشہ بھلائی کی جائے اور برائی سے بچا جائے تاکہ امن و چین ملے:

”وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم (شرک) سے آلودہ نہیں کیا ایسوں کے لئے ہی امن ہے اور وہی ہدایت یاب ہیں۔“ (۸۴:۶)

ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اس کا سر بھی گردوغبار سے اٹا ہوا تھا، اسے سعد بن ابی وقاصؓ کی تلاش تھی جنہوں نے جنگل میں ڈیرہ ڈال رکھا تھا، جہاں شہر کے ہنگاموں اور تمدن کی آلودگیوں سے

بدعا دی تھی چنانچہ اللہ نے اس پر ایسا آدمی مسلط کر دیا جس نے اسے پکڑ کر آگ کے تنور میں ڈال دیا اور اس کے سر میں کیلیں گاڑ دیں۔ جمال عبدالناصر نے صالح مسلمانوں کو جیل میں ڈال دیا جہاں موذی حمزہ البسیونی انہیں طرح طرح کے عذاب دیتا اور گستاخی سے کہتا تمہارا خدا کہاں ہے میں اسے بھی زنجیر میں جکڑ دوں گا۔ (نعوذ باللہ) وہ قاہرہ سے اسکندریہ جا رہا تھا کہ اس کی کار ایک ٹرک سے ٹکرائی ٹرک میں لوہا بھرا ہوا تھا۔ اس کے جسم میں سر سے پاؤں تک لوہا گھس گیا جسے بڑی مشقت سے اس کے جسم سے نکالا گیا نکالنے میں پورا جسم ادھر دھڑک دھڑکے ہو گیا۔

”اس نے اور اس کے لشکر نے زمین میں استکبار کیا انہیں اس کا حق نہ تھا انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے“ (۳۹:۲۸) ”کہنے لگے ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے۔“ (۱۵:۴۱)

صلاح نصر بھی جمال عبدالناصر کے جزیروں میں سے اور زمین میں ظلم و فساد کرنے والوں میں سے تھا اُسے بھی دسیوں مہینوں میں لاقح ہو گئے اسے اپنی عمر کے کئی سال بدبختی میں گزارنے پڑے۔ وہ لا علاج ہو گیا۔ انہیں آقاؤں کے جیلوں میں سرٹا ہوا مر گیا جن کی زندگی بھر خدمت کی تھی

”وہ جنہوں نے ملکوں میں سرکشی کی ان میں خوب فساد پھیلا یا تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔“ (۱۳-۱۱:۸۹) اللہ ظلم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑ لیتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔

”مظلوم کی بدعا سے بچو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔“ (حدیث شریف)

مظلوم کی دُعا

شاعر نے کہا:

بہت سے راتوں کو چلنے والے کسی جگہ کی تلاش میں نہیں چلے اور نہ انہوں نے صحرائی میدانوں کو قطع کیا۔ وہ وہاں چلے جہاں سواریاں دوڑانی نہیں جاتیں۔ گھاٹ پر پہنچ کر رکنا نہیں جاتا، راستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، رات پوری طرح چھائی ہوئی ہے، سونے والے اور باتیں کرنے والے سبھی لیٹے ہوئے ہیں تب وہ چلتے چلے جاتے ہیں۔

غم نہ کریں

ابراہیم التیمی کہتے ہیں جو آدمی مجھ پر ظلم کرتا ہے میں اس پر رحم کرتا ہوں۔ خراسان کے ایک مرد صالح کے دینار چوری ہو گئے وہ رونے لگا، فضیل بولے ارے بھئی! کیوں روتے ہو کہنے لگے جس نے دینار چرائے ہیں قیامت میں اللہ اسے میرے ساتھ اکٹھا کرے گا، مجھے اس پر رحم آیا اس لئے رونے لگا۔ ایک شخص نے علماء سلف میں سے کسی کی غیبت کی تو انہوں نے اسے ہدیہ میں کھجور بھیجے کہا: اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے اس لئے یہ ہدیہ دے رہا ہوں۔

ترے در پہ میں کھڑا ہوں

نیویارک میں اقوام متحدہ کے دفتر میں ایک بورڈ لگا ہے جس میں عالمی شاعر سعدی شیرازی کا ایک خوبصورت قطعہ لکھا ہوا ہے۔ جس کا انگریزی میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ مصرعے اخوت، بھائی چارے اور میل ملاپ پر ابھارتے ہیں۔ اس میں شاعر کہتا ہے :

”جب میں در محبوب پر پہنچا تو وہ مجھ سے بولا میرے دروازے پر کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں، اس نے کہا تم محبت کو جانتے ہی نہیں کیونکہ تم نے اپنے اور میرے درمیان فرق کیا، ایک سال گزرا پھر میں آیا اور عاجزی سے دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا تم کون ہو؟ میں نے کہا دیکھ لو یہاں بھی تم ہو وہاں دروازہ پر بھی تم ہو۔ جہاں دیکھتا ہوں وہاں تم ہی تم ہو۔ کہنے لگا ہاں اب تمہیں محبت کی قدر ہوئی اس کی معرفت ہوئی آؤ اندر آ جاؤ۔“

بندہ کے لئے ضروری ہے کہ اس کا ایک دوست ہو جس سے اسے انسیت ہو، اس کی شادی وغنی میں شریک رہے، اس سے محبت کرے۔

”میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنائے، میرے بھائی ہارون کو۔ اس سے میری پیٹھ مضبوط کر، اسے میرے معاملہ میں شریک کر دے۔ تاکہ ہم تیری خوب خوب حمد و ثنا اور ذکر کریں۔“ (۲۹:۲۰-۳۳)

بقول شاعر:

ضروری ہے کہ کوئی قربت والا ہو جو تیرا نمگسار ہو، تجھے تسلی دے، اور تیرے درد پر اسے بھی درد

”وہ ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہیں“ ”گویا کہ وہ ایک سبسہ پلائی دیوار ہیں“ ”ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔“ ”ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔“

دوست ضروری ہے

خوش نصیبی کے اسباب میں یہ بھی ہے کہ تمہیں فائدہ مند اور غم گسار دوست ملیں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ فرمائے گا ”کہاں ہیں میرے لئے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، آج میں انہیں اپنے سایہ میں جگہ دوں گا جب کہ میرے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں“ ”دو ایسے دوست جن کی محبت، جن کا میل جول اور جدائی سب اللہ کے لئے ہو۔“

امن شرعاً و عقلاً مطلوب ہے

”یہی وہ لوگ ہیں جنہیں امن ملے گا وہی راہ یاب ہیں“ (۸۲:۶) ”وہ جس نے ان کو بھوکے وقت کھلایا اور خوف سے مامون کیا“ (۴:۱۰۶) ”کیا ہم نے ان کو محفوظ و مامون حرم نہیں دے رکھا ہے“ (۵۷:۲۸) ”وہ جو شخص اس حرم میں داخل ہوگا مامون ہوگا“ (۹۷:۳) ”پھر اسے اس کے محفوظ ٹھکانہ پر پہنچادے“ (۶:۹)

وہ آدمی جو اپنے آشیانہ میں چین سے رہے، بدن میں صحت ہو اور دن بھر کی روزی اس کے پاس ہو تو گویا اسے دنیا تمام دولت کے ساتھ مل گئی۔ ”تو دل کا امن یہ ہے کہ اسے معرفت حق پر یقین و اطمینان حاصل ہو اور یقین سے پر ہو۔ گھر کی سلامتی یہ ہے کہ وہ انحراف سے محفوظ رکھنے سے دور، سکینت سے بھر اور ربانی ہدایات سے فیض یافتہ ہو۔ امت کا امن یہ ہے کہ لوگ باہم محبت و الفت کے ساتھ رہیں۔ معاملات میں عدل ہو اور شریعت کے ذریعہ اس کی دیکھ بھال ہو۔ بے خوف کا مطلب ہے دشمن کی طرف سے امن چین سے ہونا، ”پس وہ وہاں سے خوف و اندیشہ کی حالت میں نکلا“ (۲۱:۲۸) ”ان سے خوف نہ کھاؤ مجھ سے ڈرو اگر تم صاحب ایمان ہو“ (۳:۵) ڈرنے والے کو راحت

نہیں ملتی، بلکہ کو اس نہیں اور کوئی بیمار داد عیش نہیں دیتا بقول شاعر:

عمر کیا ہے صحت، بقدر کفاف روزی یہ دونوں نہ رہیں تو سمجھو عمر چلی گئی

بخدا دنیا کتنی منحوس ہے، ایک جانب سے صحیح ہے تو دوسری جانب سے فاسد ہے۔ مال آتا ہے تو جسم میں بیماری لاحق ہوئی، تندرستی ملی تو اور مصیبتیں ٹوٹ پڑیں، معاملات ٹھیک ٹھاک ہوئے تو موت آگئی۔ شاعر آشی نجد سے نکلا کہ رسول اکرم کی مدح کرے اور اسلام لے آئے، راستہ میں ابوسفیان مل گیا اور پیش کش کی کہ وہ سفر چھوڑ دے اور گھر واپس چلا جائے تو ۱۰۰ اونٹ ملیں گے۔ اس نے ۱۰۰ اونٹ لے لئے اور لوٹ گیا ایک اونٹ پر سوار ہوا جو اسے لے کر گر گیا سر کے بل گرنے سے گردن ٹوٹ گئی اور بے دین و دنیا زندگی سے چلا گیا۔ ہاں جو قصیدہ اس نے رسول اکرم کو سنانے کے لئے تیار کیا تھا وہ بہت عمدہ تھا اس میں وہ کہتا ہے :

”جوانی، بڑھاپا غربت اور ثروت مندی بس زمانہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اگر تم تقویٰ کا زاد راہ نہ رکھو گے اور موت کے بعد ایسے لوگوں سے ملو گے جو ذراہ لے کر گئے ہیں تو تمہیں اس کے جسیانہ ہونے پر اور اس پر کہ جو وہ دیکھ رہا تھا تم نے نہیں دیکھا ندامت ہوگی۔“

دُنیاوی بڑائی زائل ہو کر رہے گی

حقیقی خوشی وہ ہے جو کامل اور دائمی ہو، دوام کا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی ملے آخرت میں بھی؛ کل بھی آج بھی۔ اور تکمیل یہ ہے کہ کوئی برائی اسے مکدر نہ کرے، اس کے روئے جمیل پر چھینٹے نہ پڑیں۔ شاہ عراق نعمان بن منذر ایک درخت کے نیچے بیٹھا رنگ رلیاں منارہا تھا۔ عدی بن زید حکیم العرب نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا: بادشاہ! آپ جانتے ہیں کہ یہ درخت کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے۔ عدی نے یہ شعر پڑھے :

”ہمارے اطراف میں بہت سے قافلوں نے ڈیرے ڈالے اور شراب ارغوانی کے جام

لنڈھائے پھر زمانہ نے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا اور زمانہ میں اس کے سوا کیا رکھا ہے۔“

دنیا ہے سکھ سے خالی دکھ چار سو بھرا ہے

غم کے سوا یہاں پر سوچو تو کیا دھرا ہے

یہ سن کر نعمان مکدر ہو گیا اس نے شراب چھوڑ دی اور موت تک ایسے ہی افسردہ رہا۔ شاہ ایران فارسی مملکت کے قیام پر ۲۵۰۰ برس گزرنے کا جشن بڑے تزک و احتشام سے منارہا تھا اور مملکت کی توسیع کے منصوبے بنا رہا تھا کہ اچانک لمحوں لمحوں میں ہی اس کے خواب منتشر ہو گئے۔ اقتدار چھن گیا اسے جلاوطن کر دیا گیا:

”تو جسے چاہے بادشاہت دے جس سے چاہے چھین لے“ (۲۶:۳)

یہ شخص اپنے محلات، کھوٹھیوں اور عیش و مستی کی خواب گاہوں سے نکال دیا گیا، وطن سے دور مفلس و مجرم ہو کر مرا کہ کوئی بھی اس پر رونے والا نہ تھا:

”انہوں نے کتنے ہی باغات اور چشمے، سرسبز کھیت اور اچھے مقامات اور وہ نعمتیں جن میں وہ

نازوں سے رہتے تھے۔ سب چھوڑ دیئے۔“ (۲۵:۲۴-۲۷)

یہی حشر رومانیہ کے صدر چاروہیسکی کا ہوا جس نے ۲۲ سال طمطراق سے حکومت کی۔ اس کے اپنے محافظوں کی ریزوفورس کی تعداد ستر ہزار تھی۔ پھر کیا ہوا کہ عوام نے اس کے محل کا محاصرہ کر لیا اور اس کے اور اس کے محافظوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔

”اس کا کوئی مددگار نہ تھا جو اللہ سے اسے بچا لیتا، نہ ہی وہ خود کو بچانے والوں میں

ہو سکا۔“ (۸۱:۲۸)

وہ دنیا و آخرت دونوں سے گیا۔ اسی طرح فلپائن کے صدر مارکوس کا قصہ ہے، اس کے پاس ملک کی صدارت، مال و دولت سبھی کچھ تھا لیکن اس نے اپنی قوم کو خوب ذلیل کیا اور سخت اذیت پہنچائی۔ اللہ نے بھی ایسی سزا دی کہ اپنے ملک سے بھگا دیا گیا، گھر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کی کوئی پناہ گاہ نہ تھی۔ اسی بدبختی کے عالم میں مر گیا۔ اس کی قوم نے دفن کرنے کے لئے اسے دو گز زمین بھی دینے سے انکار کر دیا۔

”کیا ہم نے اس کی چال اکارت نہیں کر دی۔“ (۲:۱۰۵) ”اللہ نے اُسے دنیا و آخرت میں

شدید عذاب دیا“ (۲۵:۷۹) ”ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے ہم نے پکڑ لیا۔“ (۴۰:۲۹)

فضائل کا اکتساب خوشحال زندگی کی معراج

جو بندہ سعادت، امن اور راحت چاہتا ہو اسے چاہئے کہ فضائل کے حصول، صفات حمیدہ اور اچھے اعمال کے حصول کی کوشش کرے، اپنے لئے نفع بخش چیز کی حرص کرے اور اللہ سے مدد چاہے۔

ایک صحابیؓ رسول اکرمؐ سے جنت کی رفاقت چاہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں:
 ”اس کے لئے میری مدد یوں کرو کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو، جتنے بھی سجدے کرو گے اس کے بدلے اللہ تمہیں ایک درجہ بلند کر دے گا۔“

ایک دوسرے صحابی خیر کے ایک جامع باب کی درخواست کرتے ہیں اس سے فرماتے ہیں:
 ”تمہاری زبان مستقل اللہ کے ذکر سے تر رہے۔“

ایک تیسرے صحابی بھی ایسی ہی فرمائش کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں:
 ”تم کسی کو گالی نہ دینا، اپنے ہاتھ سے کسی کو نہ مارنا، اگر کوئی تمہاری کسی خامی پر تمہیں برا بھلا کہے تو تم اس کی خامی پر برا بھلا نہ کہنا۔ بھلائی تھوڑی سی بھی ہو اس کی تحقیر نہ کرنا اگرچہ تم اپنے ڈول سے بیٹنے والے کے برتن میں ڈال دو۔“

اہم معاملہ جلدی اور اقدام چاہتا ہے ”فتنوں سے پہلے عمل کرنے کے لئے جلدی کرو۔“ پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھو۔“ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف سبقت کرو۔“ ”وہ خیر کے کاموں میں سبقت کرتے تھے جو سبقت کرنے والے ہیں وہی آگے ہیں“ خیر کے کام میں ڈھیل نہ کرو نیکی اور پوچھ پوچھ؟ فضائل کی طلب میں ٹال مٹول نہ کرو۔“ بقول شاعر:

”آدمی کے دل کی دھڑکنیں اس سے کہتی ہیں کہ زندگی چند ٹائمنوں اور سکنڈوں کی ہے۔“ ”اسی چیز میں سبقت کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہئے۔“

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے جب خنجر مارا گیا اور ان کا خون خوب بہنے لگا اس حال میں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کا ازار زمین پر گھسٹ رہا تھا آپ نے اُس سے فرمایا ”بھتیجے! اپنا ازار اوپر اٹھاؤ، اس سے تقویٰ بھی حاصل ہوگا اور کپڑا بھی صاف رہے گا۔“ سکرات موت میں بھی امر بالمعروف

کی یہ شان تھی ”تم میں سے جسے بھی چاہے وہ آگے کر دے یا پیچھے“ خوش بختی لمبی نیند یا آرام پسندی سے حاصل نہیں ہوگی، بلند یوں کو چھوڑنے اور فضائل کو پھینک دینے سے حاصل نہ ہوگی۔
 ”لیکن اللہ نے ان کے اٹھنے کو ناپسند کیا چنانچہ ان کی ہمت تو زدی اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔“

ست ہمت اور تھردلوں کی منطق ان کو یہ پٹی پڑھاتی ہے کہ گرمی میں جہاد کے لئے نہ نکلو۔
 ”اگر وہ (شہید) ہمارے ساتھ رہتے تو نہ مرتے نہ قتل کئے جاتے۔“
 خیر کے کام میں تاخیر سے بندے کو وحی کے ذریعے سے روکا گیا ہے:

”تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تم زمین سے چٹ کر بیٹھ جاتے ہو“ ”تم میں یقیناً وہ بھی ہیں جو ضرور دیر کریں گے“ ”لیکن وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا“ ”کیا میں اس کو جیسا ہونے سے بھی رہا“ ”وہ اس لئے کہ انہوں نے آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔“ ”تم آپس میں تنازعہ نہ کرو کہ ناکام ہو کر رہ جاؤ گے“ ”جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو ست کھڑے ہوتے ہیں۔“

”اے اللہ میں سستی سے تیری پناہ لیتا ہوں۔“

”ہوشیار وہ ہے جو نفس کو قابو میں رکھے، موت کے بعد کے لئے کام کرے، عاجز وہ ہے جو بے لگام نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑے اور اللہ سے بس تمنائیں باندھے۔“

جنت اور عتیس وہاں ہیں یہاں نہیں

کیا آپ چاہتے ہیں کہ جوان، صحت مند، ثروت مند اور ہمیشہ ہمیش رہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو جان لیجئے کہ یہ دنیا میں نہیں ملے گا بلکہ آخرت میں ملے گا۔ یہ دنیاوی زندگی ہے۔ کم نصیبی اور فناء اس کی قسمت ہے۔ اللہ نے اسے لہو و لعب اور غرور کا سودا قرار دیا ہے۔ ایک شاعر نے افلاس و غربت کی زندگی گزاری اس کا عنفوان شباب تھا۔ مال چاہتا نہ ملتا، شادی کرنا چاہتا بیوی نہ ملتی، لیکن جب عمر ڈھل گئی، بڑھاپے نے دستک دی، ہڈیاں کمزور ہو گئیں تو اب ہر طرف سے مال ملنے لگا، مکان اور نکاح بھی

آسان ہو گئے۔ زندگی کے ان تضادات سے اوب کر اس نے ذیل کے شعر کئے :

”۲۰ سال کی عمر میں جن چیزوں کی تمنا تھی وہ ۷۰ سال کے بعد مل رہی ہیں، اب ترکی ناز نہیں ہر نیوں کی طرح میرا طواف کر رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے کہ رات میں کراہا کرتے ہو اور ہمیں جگا دیتے ہو، میں نے کہا میں ۸۰ سال کا ہونے جا رہا ہوں یہی تکلیف ہے۔“

”کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے کر لے اور کیا تمہارے پاس خبردار کرنے والا نہیں آیا“ (۳۷:۳۵) ”انہوں نے گمان کیا کہ وہ لوٹائے نہیں جائیں گے۔“

(۳۹:۲۸) ”یہ دنیا کی زندگی محض ایک لہو و لعب ہے۔“ (۶۴:۲۹)

درحقیقت دنیا کی زندگی کی مثال اس مسافر کی سی ہے جس نے ایک درخت کے نیچے آرام کیا پھر اٹھا اور اسے چھوڑ کر چل دیا۔

منہج ربانی کے دشمن

اللہ کے نظام سے منحرف ملاحظہ کی نظم و نثر کی بہت سی کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔ ان کی احمقانہ باتیں مطالعہ میں آئیں۔ یہ بنیادی حقیقت پر ظلم کرتے اور ربانی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا لٹریچر گھٹیا باتوں کا ایک ڈھیر ہے۔ بے ادبی، بے حیائی اس کا امتیاز ہے۔ حتیٰ کہ آدمی کو ان کے نظم و نثر کو لوگوں کے سامنے نقل کرنے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کے پاس کوئی شعور نہ ہو کوئی مشن سامنے نہ ہو تو وہ انسان کی کھال میں جانور بن جاتا ہے، آدمی کی صورت میں وحشی ہوتا ہے۔

”کیا تم سوچتے ہو کہ ان میں زیادہ تر سنتے اور سمجھتے ہیں، نہیں یہ تو جو پایوں کی مانند بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔“ (۴۴:۲۵)

ان کا لٹریچر پڑھتے وقت میں نے اپنے آپ سے پوچھا، یہ اللہ سے اعراض کرتے ہیں جو خوشی کا سرچشمہ ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، تو خوش بنختی انہیں کیوں کر مل سکتی ہے؟ انہوں نے اللہ کے اور اپنے بیچ راجلے توڑ ڈالے ہیں، اپنے مریضانہ نفوس اور رحمت الہی کے درمیان حجاب کھڑے کر لئے ہیں تو رحمت کے سزاوار کیوں ہوں؟ انہوں نے اللہ کو غصہ دلایا ہے تو خوشی کیسے مل سکتی ہے، راحت کیوں

کر پائیں گے جب کہ اللہ سے جنگ چھیڑ رکھی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو ان لوگوں کو آخرت سے پہلے اسی دنیا میں سزا ملے گی جو نار جہنم کی ہی تمہید ہوگی۔ یہ سزا ہوگی بدبختی کی، بے حسی، تنگی اور گراوٹ اور مایوسی کی۔

”جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔“

ان میں سے بہت سے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا تباہ ہو جائے گی، زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ قدیم ملاحظہ ہوں یا آج کے ملحدین ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں ہی اللہ کے ساتھ بے ادبی، اخلاقیات و اقدار کے ساتھ تمسخر، لین دین میں رعونت اور انجام کار سے اعراض، گفتگو اور تحریر میں بے پروائی و بے راہ روی جیسی چیزوں سے متصف ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت تقویٰ اور اللہ کی رضا جوئی پر اٹھائی ہو بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی بنیاد ٹوٹے گرتے گڑھے کے کنارے بنائی ہو لہذا دوزخ کی آگ میں گر گیا۔ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔“ (۱۰۹:۹)

ایسے ملحدین کو مشکلات اور رنج و محن سے چھٹکارے کا تہا ایک ہی علاج ہے اگر وہ توبہ اور رجوع الی اللہ نہ کریں، وہ خودکشی کر لیں اپنی ذلیل زندگی کا خاتمہ کر لیں، بے کار اور بے سود وجود کو ختم کر لیں:

”کہو اپنے غیظ و غضب میں مر جاؤ“ (۱۱۹:۳) ”پس اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو یہی تمہارے لئے بہتر ہے۔“ (۵۴:۲)

اللہ کی کتاب عظیم میں سعادت کی میزان ہے۔ اسمیں اشیاء کا اندازہ ہے وہی کسی چیز کی قدر و قیمت اور آدمی کے لئے اس کے نفع نقصان کو بتاتی ہے۔

”اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک ہی امت ہیں تو ہم رحمان کے منکرین کے لئے گھروں میں چاندی کی چھت اور وہ بیڑھیاں بنا دیتے جن پر وہ چڑھتے۔ اور ان کے گھروں میں دروازے اور چار پائیاں بنا دیتے جن پر وہ تکیہ لگاتے، اور زینت کی چیزیں اور یہ سب بس دنیاوی زندگی کی متاع ہے“

آگئے۔ یہ منظر بڑا موثر تھا کہ رسول اللہ تمام انسانیت کے لئے نمونہ اور امام ہوں اور اس حالت میں رہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آپ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ! آپ اس حال میں ہیں اور قیصر و کسریٰ کس شان سے رہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا: خطاب کے بیٹے! تمہیں کچھ شک ہے، کیا اس بات سے خوش نہیں کہ ان کو دنیا اور ہمیں آخرت ملے۔“

”انہوں (کفار و مشرکین) نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں

چلتا ہے۔“ (۷:۲۵)

معاملہ یونہی ہے، تقسیم ایسی ہی رکھی گئی ہے۔ چاہے کوئی راضی ہو چاہے ناراض، جو چاہے خوشی کو درہم و دینار اور محل و گاڑی میں تلاش کرے اور اس کے لئے کام کرے۔ خدا کی قسم وہ خوشی نہیں پاسکتا ”جو دنیا کی زندگی اور زینت چاہتے ہیں ہم انہیں ان کے کاموں کے بدلے پوری پوری دنیا دے دیں گے اس میں کوئی کمی نہ ہوگی۔“ (۱۱:۱۵-۱۶)

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت میں بس آگ ہی ملے گی جو انہوں نے کہا وہ اکارت جائے گی جو یہ کرتے ہیں وہ باطل ہوگا۔ بقول شاعر:

دنیا پر خاک پڑے میں اس کے لئے سفر نہیں کرتا کیونکہ صالحین کو دنیا نہیں ملتی۔

سعادت کی کنجی

آپ جھونپڑے میں رہ کر اللہ کی معرفت حاصل کر لیں، اس کے شیدائی بنیں، اس کی بندگی کریں تو ساری بھلائی، خیر اور راحت و سکون پالیں گے۔ لیکن اگر خدا کی معرفت حاصل نہیں تو کتنے ہی شاندار محلوں، وسیع و فراخ کوٹھیوں میں رہ لیں، کتنے ہی ارمان پورے ہو جائیں انجام اچھا نہ ہوگا۔ بد نصیبی مقدر ہوگی کیونکہ سعادت کی کنجی سے محروم ہیں۔ قارون کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا:

”ہم نے اس کو اتنے خزانے دئے کہ اس کی چابیاں تک بہترے طاقتور جوانوں کے جتھے پر

بھاری پڑتی تھیں۔“ (۷:۲۸)

وقفہ

”اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے“۔ یعنی دنیا و آخرت کے شروران سے دفع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لئے وعدہ خیر اور بشارت ہے کہ ایمان کے سبب اللہ انہیں ہر طرح کے مکرو فریب اور برائیوں سے بچالے گا۔ کفار کے شر، وسوسہ شیطان، شرور نفس اور بد اعمالیوں سے حفاظت کرے گا۔ مصائب کے وقت ان پر تخفیف فرمائے گا، بوجھ دور کر دے گا۔ ہر صاحب ایمان کو اللہ کی یہ حفاظت اور فضیلت اپنے ایمان کے حساب سے حاصل ہے۔ بعض کو مستقل اور بعض کو اکثر حالات میں۔ ”ایمان کے ثمرات میں یہ ہے کہ اُس کے ذریعہ بندہ تسلی حاصل کرتا اور مصائب و شدائد کو آسان سمجھتا ہے“ جو اہل ایمان ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، یعنی بندہ مومن پر مشقت آتی ہے اور وہ اسے اللہ کی جانب سے سمجھ کر انگیز کرتا ہے اور یہ کہ وہ تقدیری بات ہے۔ تو وہ ان تکلیفوں پر راضی برضا ہو جاتا ہے۔ مصائب انگیز کرنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں اور ان کا ثواب اللہ سے دے گا۔“

کیسے تھے یہ لوگ

آئیے اولوالعزم و عظیم صحابہ کرامؓ میں سے ایک کے زمانہ میں چلتے ہیں۔ وہ ہیں علیؓ بن ابی طالب جو رسول اکرمؐ کی بیٹی اور جگر کے کلڑے فاطمہؓ کے ساتھ ایک دن صبح میں اٹھتے ہیں اور دونوں کھانے کی کوئی چیز تلاش کرتے ہیں جو نہیں ملتی۔ سردی شدید ہے۔ علیؓ ایک فرو پہن کر باہر نکلتے ہیں اور روزی تلاش کرتے ہیں۔ مدینہ کے اطراف میں ایک یہودی انہیں یاد آتا ہے جس کے پاس کھیت ہے۔ علیؓ اس کے کھیت پر جاتے ہیں وہ کہتا ہے۔ اے اعرابی آ اور ایک کھجور کے بدلے ایک ڈول پانی کنویں سے نکال۔ علیؓ خاصی دیر تک یہ کام کرتے ہیں حتیٰ کہ دونوں ہاتھ سوج جاتے ہیں جسم چور چور ہو جاتا ہے۔ جتنے ڈول نکالے ان کے بقدر کھجوریں علیؓ کو ملتی ہیں۔ آپ انہیں لے کر پہلے نبیؐ کے پاس آتے ہیں اور کچھ کھجوریں آپ کو پیش کر کے پھر گھر آتے ہیں اور دونوں دن بھر انہیں سے کام چلاتے

ہیں۔ یہ تھی ان کی زندگی، اس کے باوجود ان کا احساس یہ تھا کہ ان کا گھر خوشیوں، سعادت، نور اور سرور کا گہوارہ ہے۔ کیونکہ ان کے دل ان بلند اقدار اور اعلیٰ نصب العین کے لئے یک سو تھے جو رسول اللہ ﷺ لے کر آئے تھے۔ ان کے دل کی انگیٹھی گرم تھی وہ ایک نورانی و قدسی ماحول میں تھے جس سے حق اور باطل کو دیکھتے تھے حق کی سر بلندی کے لئے کوشاں اور باطل کو مٹانے کے لئے سرگرم تھے۔ وہ اشیاء کی حقیقت سے واقف اور راز حیات کے راز داں تھے۔

قارون وہاں کو کیا یہ خوشی و مسرت ملی؟ ایک زمین میں دھنسا دیا گیا۔ دوسرے پر لعنت ہوئی۔ ”اس کی مثال ایسی بدلی ہے جس سے کسان بڑے خوش ہوئے اس کے نتیجے میں بہترین پیڑ پودے اُگے۔ پھر وہ جل گئے زرد پڑ گئے اور ریزہ ریزہ ہو گئے۔“ (۲۰:۵۷)

خوش بختی تو بلالؓ، سلمانؓ اور عمارؓ کے پاس ملے گی۔ بلال حق کی اذان دیتے، سلمان نے سچائی کے ساتھ مواخات کی، عمار نے وعدہ پورا کر دکھایا، ”یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین کاموں کو ہم قبول کرتے ہیں اور غلطیوں سے درگزر کر دیتے ہیں۔ یہ جنت والے ہیں ان کے لئے وہ وعدہ سچا ہوا جو دنیا میں ان سے کیا گیا تھا۔“ (۱۶:۴۶)

صبر کے سلسلہ میں حکماء کے اقوال

نوشیروان سے منقول ہے کہ اس نے کہا: تمام دنیاوی مصیبتیں دو قسم کی ہیں، ایک میں تدبیر کام دیتی ہے جیسے کہ بے چینی کی دوا ہے، دوسری میں کوئی تدبیر نہیں صرف صبر کام آتا ہے۔ ایک حکیم کہتا تھا جن چیزوں کا کوئی علاج نہیں وہاں صبر کام دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ: جو صبر کے پیچھے چلے گا مدد اس کے پیچھے چلے گی۔ معروف مثالوں میں یہ ہے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ قدرت پاتا ہے۔ اور صبر کا ثمر کامیابی ہے۔ جب آزمائش سخت ہوتی ہے، موت طلب کرو زندگی مل جائے گی۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ موت کی طلب میں بقاء کا سامان ہوتا ہے اور بقاء کی طلب موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اکثر امن وہاں ہوتا ہے جہاں سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ عرب کہا کرتے ہیں: شر میں خیر ہوتا ہے، اصمعی اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض شر بعض سے ہلکا ہوتا ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ جب کوئی

تمہاری پکار سنی چاہئے اگر تم سچے ہو۔“ (۱۹۴: ۷)

صبر کا پھل بیٹھا ہوتا ہے

عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ کشادگی اور فراخی یقین اور رضا میں ہے۔ اور فکر اور رنج، شک اور ناراضگی میں ہے۔ آپؓ فرماتے ہیں صبر کرنے والے کو سب سے اچھا پھل ملتا ہے۔ ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی کو کہتے سنا: انسانی اقدار میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب کسی پر مشکل آ پڑے وہ اس پر صبر کرے، اور اپنے کو یہ اُمید دلائے کہ وہ ختم ہو جائے گی، ایسے یقین کے ساتھ کہ گویا وہ اس سے خلاصی کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ پر توکل کرے اس سے حسن ظن رکھے جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو بغیر کسی تاخیر کے اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا اس کی تکلیف دور کر دے گا۔ اس کے دین، مروت اور آبرو کی حفاظت فرمائے گا۔ اہمعی نے ایک اعرابی سے یہ نقل کیا ہے کہ خیر کی جگہ سے شر سے ڈرو اور برائی کی جگہ سے خیر کی اُمید کرو، کیونکہ بسا اوقات زندگی کی طلب موت کا اور موت کی طلب زندگی کا سبب بن جاتا ہے، زیادہ تر امن وہاں سے ملتا ہے جہاں سے خوف کا ڈر ہوتا ہے۔

بقول شاعر :

جب عنایت ربانی نگرانی کر رہی ہو تو آرام سے سو جاؤ کہ تمام حادثے بھی امان بن جائیں گے۔

قطری بن الفجاء نے کہا:

جنگ کے دن کوئی بھی پیچھے نہ بٹے موت سے نہ ڈرے۔ میں دائیں اور بائیں سے اپنے کو نیزوں سے گھرا پاتا ہوں۔ میرا جتنا خون بہا اس سے لگام بھی تر ہوگئی، پھر میں جنگ سے لوٹا اس حال میں کہ میرا نشانہ پورا ہو گیا تھا اور میری بصیرت تیز اور میرا اقدام سخت تھا۔

ایک حکیم کا قول ہے:

عقل مند اپنے اوپر آئی مصیبت پر دو باتوں سے تسلی پاتا ہے نمبر ایک یہ کہ جو باقی ہے اس کی

خوشی سے۔ دوسرے جو مشکل آتی ہے اُس سے خلاصی کی اُمید سے۔ جاہل مشکل میں دو چیزوں سے اور زیادہ تنگ ہوتا ہے۔ جس چیز کا اس نے سہارا لیا ہے اُس کی بڑھوتری کی خواہش دوسرے اس مشکل سے بڑی مشکل میں مبتلا ہو جانے کا خوف۔ کہا جاتا ہے کہ مصیبتیں اللہ کی جانب سے بندوں کی تادیب ہے اور تادیب سے دل، آنکھیں اور کان کھل جاتے ہیں۔ الحسن بن سہل کہتے ہیں:

”مصیبتوں میں گناہ سے تطہیر، غفلت سے تنبیہ، صبر سے ثواب، نعمت کی تذکیر اور اللہ کی نظر میں منتخب قرار پاتا ہے“

بعض ایسے ہوتے ہیں جو جاوداں زندگی کے لئے موت کی تلاش میں رہتے ہیں:

”وہ لوگ جنہوں نے پیچھے بیٹھ کر اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی تو قتل نہ کئے جاتے، کہہ دو تم اپنے آپ سے موت کو نال دوا کر سچے ہو۔“ (۱۶۸:۳)

مصائب کو کم سمجھنے کے سلسلہ میں اقوال

ایک دانا تاجر نے کہا: کم فائدہ ہو لیکن جان سلامت رہے تو گھائے کا سودا نہیں۔ عربوں کی ایک کہات ہے جس کا مفہوم ہے جان بچی تو لاکھوں پائے۔ ان کا یہ بھی قول ہے کہ کسی زمین کو آبادی سے مایوس نہ ہونا چاہئے اگرچہ ویرانی پر زمانے گزر گئے ہوں۔ عام لوگوں کی کہات ہے ”جس نہر سے پانی جاری ہوتا ہے اس میں واپس بھی ضرور آتا ہے۔“ تھامس تیوس کا قول ہے: اہل عقل اور اہل مذہب قدرت اور نعمت کے حال میں خوب مال صرف کرتے ہیں اور شدت و آزمائش کی حالت میں خوب صبر کرتے ہیں۔

وقفہ

”اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی پہنچی ہے جب کہ تمہیں اللہ سے اجر کی بھی اُمید ہے ان کو نہیں ہے۔“ (۱۰۴:۴)

اسی لئے مومنین صادقین پر جب آزمائش و ابتلاء آتی ہے تو وہ اس پر صبر، برداشت، حوصلہ اور

بیداروں سے باتیں کرتی ہیں۔ غور کرنے والے کے لئے وجہ لطف اور رات کے مسافر کے لئے چراغ راہ ہوتی ہیں۔ معلومات کے دفتر کو جتنے بار بھی دہرایا جائے گا اس کی چھان پھٹک ہوگی اتنا ہی وہ برگ و بار لائے گا۔ جو خبر دی گئی ہے وہ پوری ہوگی۔ مطالعہ نہ کرنے اور کتابیں چھوڑ دینے سے زبان بند ہوتی ہے۔ طبیعت پر روک لگتی ہے۔ دل میں جمود طاری، عقل میں فتور اور فطرت کی موت ہوتی ہے۔ معلومات کا ذخیرہ سکڑ جانے سے فکر کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں۔ کتاب میں سعادت ہے، ضرب المثل، کہاوت، کوئی لطیف نکتہ، کوئی حکایت ہے۔

مطالعہ کے فوائد بے شمار ہیں۔ عدم مطالعہ سے فتور ہمت، عزیمت کی کمی اور روح کی پڑمردگی پیدا ہوتی ہے اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔

کتاب کائنات پڑھئے

کائنات کے عجائب و غرائب پڑھئے، عجائبات عالم کا نظارہ کیجئے ان سے نفس کو تسکین ملے گی اور آپ کے غم و فکر ختم ہو جائیں گے۔ بخاری و مسلم نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے فرماتے ہیں ہمیں ابو عبیدہؓ کی کمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا مقصد قریش کے قافلہ کا پیچھا تھا زاد راہ میں کھجور کی ایک تھیلی دی ابو عبیدہؓ اسی میں سے ایک ایک کھجور ہمیں دیتے تھے۔ راوی نے جابر سے سوال کیا کہ اس سے کیسے کام چلاتے تھے؟ فرمایا ہم اسے بچوں کی طرح چوستے تھے پھر اوپر سے پانی پی لیتے تو وہ پورے دن کے لئے کافی ہوتا رات تک، ہم ڈنڈوں سے درخت کے پتے جھاڑتے ان کو تر کر کے کھا لیتے جابرؓ نے آگے کہا: ہم ساحل کے کنارے چلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بڑے ٹیلہ کی مانند کوئی چیز ہے اس کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ ویل چھلی ہے۔ کہتے ہیں: ابو عبیدہؓ نے اُسے دیکھ کر کہا یہ تو مردہ ہے پھر فرمایا نہیں۔ ہم اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے ہیں اللہ کے راستہ میں نکلے ہیں اور اضطرار کی حالت میں ہیں لہذا اسے کھا لو۔ جابرؓ کہتے ہیں کہ ہم تین سو آدمی ایک ماہ تک اس کے پاس مقیم رہے اور اس میں سے کھاتے رہے حتیٰ کہ موٹے ہو گئے۔ جابرؓ کہتے ہیں ہم اس کی آنکھ کے اندرون سے چلو بھر بھر کے لیتے، اور اس کی چکنائی بڑے بڑے گھڑوں میں بھر لیتے اس کے ٹکڑے کاٹنے جو تیل برابر ہوتے۔

غم نہ کریں

ابو عبیدہؓ نے ہم میں کے تیرہ آدمیوں کو اس کی آنکھ کے حلقہ میں بٹھایا۔ اس کی ایک پیللی کھڑی کی سب سے بڑے اونٹ پر سب سے لمبے آدمی کو بٹھا کر اس کے نیچے سے نکالا تو وہ بھی اُس کے نیچے سے نکل گیا۔ اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے ہم لے کر آئے۔ اور جب مدینہ آئے تو اس کا ذکر رسول اکرمؐ سے کیا آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق تھا پھر فرمایا اس کا کچھ گوشت لے کر آئے ہو۔ جابر کہتے ہیں۔ ہم نے رسول اللہؐ کو بھی اس کا گوشت بھیجا آپؐ نے اس سے کھایا۔

”وہی ذات ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی پھر ہدایت دی۔“ (۵۰:۲۰)

ابوداؤدؒ نے اپنی سنن کے باب زکوٰۃ الزرع میں لکھا ہے مصر میں ایک گلڑی میں نے ۱۳ اباشت کی ناپی، اور ایک اونٹ پر لدا ہوا ترنچ دیکھا جس کے کاٹ کر دو ٹکڑے کئے گئے ”وہی ذات ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی پھر راستہ بتایا۔“

ڈاکٹر زغلول نجار جنہوں نے آیات کو نبیہ کا مطالعہ کیا ہے، نے اپنے ایک لکچر میں کہا کہ بہت سے ستارے ایسے ہیں جو روشنی کی رفتار سے ہزاروں سال سے زمین کی طرف چل رہے ہیں اور ابھی تک یہاں نہیں پہنچ سکے ان کے صرف مواقع ہی رہ گئے ہیں۔“

”پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی۔“ (۷۵:۵۶)

”وہی ذات ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت دی پھر راستہ بتایا۔“ (۵۰:۲۰)

جریدہ الاخبار الحدیثہ شمارہ نمبر ۳۹۶ مورخہ ۲۷/۹/۱۹۵۳ء صفحہ ۲ کی سرخنی تھی

”آج اونا کا پیرس میں فاتحوں کی طرح داخلہ ہوا۔ جسے دسیوں پیدل اور سوار پولیس والے

جلو میں لئے ہوئے تھے“

یہ اونا دریاے نرویگ سے نکلی ایک مچھلی تھی۔ جو جنوب شدہ تھی اور اس کا وزن آٹھ ہزار کلوگرام تھا۔ ایک بہت بڑی گاڑی پر ۱۰ بڑے گھڑے استادہ تھے جن میں اسے رکھا گیا تھا، اس مچھلی کی ایک ماہ تک نمائش ہوگی۔ لوگوں کو اس کے اوجھ میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی جسے بجلی سے روشن کیا گیا تھا۔ اس کے پیٹ میں بیک وقت دس آدمی داخل ہو سکتے تھے لیکن اونا کی نمائش کے منتظمین اور پولیس میں جائے نمائش پر اتفاق نہ ہو سکا، گراونڈ ریل کے اسٹیشن پر اسے اس خوف سے نہیں رکھا جا سکا کہ کہیں بوجھ

جاننا نہ تھا“ (۵:۹۶) ”اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل دیئے“ (۷۸:۱۶): ”ہم نے انسان کو سکھایا کپڑے بنانا“ (۸۰:۲۱) ”بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس کو جسے جانتے نہ تھے اور جس کے مفہوم سے آشنا نہ تھے۔“ (۳۹:۱۰)

بقول شاعر :

اس شخص سے جو ہمہ دانی کا دعویٰ کرتا ہے کہو کہ تم بہت کم جانتے ہو زیادہ چیزوں کے بارے

میں ناواقف ہی ہو۔

”ہم انہیں اپنی جو بھی نشانی دکھاتے ہیں وہ پہلی نشانی سے بڑی ہوتی ہے۔“ (۴۸:۴۳)

شیخ شہاب الدین احمد بن ادریس القرانی المصری کہتے ہیں: مجھے معلوم ہوا ہے کہ الملک الکامل کے لئے بیتل کا ایک شمع دان بنوایا گیا جس میں روشنی کے لئے کئی مقامات تھے۔ جب بھی رات کا ایک گھنٹہ ہوتا ایک مقام کھلتا اور ایک آدمی گھنٹی بجاتا اور جب دس گھنٹے گزر جاتے تو شمع کے اوپری حصہ میں سے ایک آدمی نکلتا اور کہتا اللہ تعالیٰ سلطان کی صبح بخیر و عافیت کرے، اس سے سلطان کو پتہ چلتا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ قرانی کہتے ہیں میں نے بھی یہ شمع دان بنایا اور اُس میں یہ اضافہ کر دیا کہ ہر گھنٹہ میں شمع کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اُس میں ایک شیر ہوتا جس کی آنکھیں شدید سیاہ ہوتیں پھر شدید سفید پھر شدید سرخ، ہر گھنٹہ کا الگ رنگ ہوتا دو پرندے کنکری گراتے، ایک شخص داخل ہوتا ایک نکلتا، ایک دروازہ بند ہوتا دوسرا کھلتا۔ جب فجر کا وقت ہو جاتا ایک شخص شمع دان کے اوپری حصہ میں آتا انگلی اپنے کان پر رکھ کر یہ بتاتا کہ اذان ہو گئی ہے۔ لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو سکا کہ وہ کلام بھی کرے۔ پھر میں نے ایک جانور کی تصویر بنائی جو چلتا اور دائیں بائیں مڑتا۔ سیٹی بجاتا لیکن بولتا نہیں تھا۔

”وہی ہے جس نے ہر چیز کو ایک صورت دی پھر رستہ دکھایا۔“

بقول شاعر:

”جودت عقل ہی یہ بتاتی ہے کہ عقل کا پیدا کرنے والا پاک، برتر اور موجد اکبر ہے۔ اس کی

تخلیق میں عبرتیں ہیں۔“

قلب کو اللہ کی مخالفت سے ہی وحشت ہوتی ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں:

غم نہ کریں

”اے ابن آدم موسیٰ علیہ السلام نے خضرؑ کی تین بار مخالفت کی تو انہوں نے کہا۔ اب تمہارا میرا ساتھ نہیں ہو سکتا اور تم رب تعالیٰ کی مخالفت روزانہ بارہا کرتے ہو کیا تمہیں یہ ڈرنے نہیں کہ اللہ بھی یہ فرمائے کہ اب تمہارا میرا ساتھ نہیں۔“

یا اللہ یا اللہ

”کہہ دو اللہ تمہیں اس مصیبت سے اور ہر ایک تکلیف سے نجات دیتا ہے۔“ (۶۳:۶)

”کیا اللہ اپنے بندہ کے لئے کافی نہیں۔“ (۳۶:۳۹)

”کہہ دو کون ہے جو تمہیں برو بجز کی ظلمتوں سے نجات دلاتا ہے۔“ (۶۳:۶)

”ہم ان لوگوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں جن کو دنیا میں کمزور سمجھا گیا تھا۔“ (۵:۲۸)

حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ”پھر اس کے رب نے اس کو منتخب کیا اس کی توبہ

قبول کی اور اسے ہدایت دی۔“ (۱۲۲:۲۰)

نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ”ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی

مصیبت سے نجات دی۔“ (۷۶:۲۱)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ”ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لئے ٹھنڈک

اور سلامتی ہو جا۔“ (۶۹:۲۱)

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا ”جلد ہی اللہ میرے پاس ان سب کو

لے کر آئے گا۔“ (۸۳:۱۲)

حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ”اس نے میرے ساتھ کرم فرمایا جب مجھے جیل

سے نکالا اور تم کو دیہات سے یہاں لے کر آیا۔“ (۱۰۰:۱۲)

حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ”پس ہم نے اس کی وہ غلطی معاف کر دی اور ان کے لئے

ہماری قربت اور بہترین ٹھکانہ ہے۔“ (۲۵:۳۸)

حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق ”ان کو جو تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی۔“ (۸۲:۲۱)

حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق ”ہم نے ان کو غم سے نجات بخشی۔“ (۸۸:۲۱)
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے ”پس ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی۔“ (۴۰:۲۰)
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں:

”اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اللہ اس کی مدد کے لئے موجود ہے“ (۴۰:۹) ”کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر پناہ نہیں دی۔ منزل نہ آشنا دیکھ کر راستہ نہیں دکھایا۔ عیال دار دیکھ کر غمی نہیں کر دیا۔“ (۸-۶:۹۳)

”ہر دن اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔“ (۲۹:۵۵)

بعض لوگوں کے نزدیک اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ روزگناہ معاف کرتا۔ تکلیف دور فرماتا
 کچھ لوگوں کو اٹھاتا اور کچھ کو گراتا ہے۔ بقول شاعر:

مصیبت و بحر ان تو کتنا ہی شدید ہو جائے اب تیرا اندھیرا چھٹا چاہتا ہے اور صبح نکلنے والی ہے۔
 بدلی جلد ہی صاف ہوگی۔

”اللہ کے علاوہ اسے کھول دینے والا اور کوئی نہیں۔“ (۵۸:۵۳)

زمانہ الٹ پھیر کا نام ہے

ابن الزبیر نے محمد بن الحنفیہ کو مکہ کی عارم جیل میں بند کر دیا اس پر کثیر عزم نے کہا:
 دنیا کی رونق دنیا والوں کے لئے باقی نہ رہے گی، دنیا کی شدت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس کی
 ایک مدت ہے جو جلد ہی ختم ہو جائے گی۔

اس حادثہ کے صدیوں بعد اب دیکھئے کہ ابن الزبیر، ابن الحنفیہ اور عارم کی جیل اب ایک خواب

ہیں

”کیا تم کسی کے پاس ان کا احساس یا ان کی کوئی آہٹ پاتے ہو۔“ (۹۸:۱۹)

ظالم و مظلوم، قیدی اور قید کرنے والا سب مر کھپ گئے۔ کہاوت ہے:

لوگوں میں ہر سینگ مارنے والے کو ایک دن اسی انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔

حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے ہیں:

”مجھے وہ تین باتیں اچھی لگی ہیں جو لوگوں کو بری لگتی ہیں، فقر، مرض اور موت اچھی لگتی ہیں، کیونکہ فقر بے چارگی ہے، مرض کفارہ ہے اور موت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا نام ہے۔ لیکن بعض لوگ فقر کی شدید مذمت کرتے ہیں شاعر نے تو کہا ہے کہ کتے بھی فقیر سے نفرت کرتے ہیں:

جب کسی دن وہ تنگ حال فقیر کو دیکھتے ہیں تو اس پر بھونکتے اور دانت نکال دیتے ہیں۔ بخار کو بعض لوگوں نے یوں خوش آمدید کہا: گناہوں کا کفارہ کرنے والی جلدی جلدی آتی ہے میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ختم نہ ہو۔ لیکن مٹھی نے اس مضمون میں بھی نکتہ پیدا کر دیا ہے:

”میں نے بخار کے لئے چادر، تکیے اور گدے پیش کئے لیکن اس نے انہیں مسترد کر دیا اور میری ہڈیوں میں گھس کر رات گزارا۔

حضرت یوسفؑ نے قید خانے کے بارے میں فرمایا:

”جو بات یہ پیش کر رہی ہیں اس کے مقابلہ میں قید زیادہ بہتر ہے۔“ (۳۳:۱۲)

علی بن ابیہم نے قید کے بارے میں کہا:

لوگوں نے کہا تم جیل میں ڈال دیئے جاؤ گے میں نے کہا مجھے قید سے کیا نقصان ہوگا، کون سی ہندی تلوار ہے جو نیام سے باہر نہیں نکلتی۔ اس کے برعکس علی بن محمد اکاتب نے کہا:

”لوگوں نے کہا تم قید کئے جاؤ گے، میں کہتا ہوں کہ میرے پیچھے پڑے زمانہ نے ایک سخت آفت میں مجھے مبتلا کر دیا ہے۔ بہتر ہے لوگوں نے موت کو خوش آمدید کہا ہے۔ معاذ کہتے ہیں: موت کو مرحبا ہے ایسا دوست جو فاقہ سے بچانے آیا اور جس میں نادم ہونے والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ حصین بن الحمام کہتے ہیں: میں محاذ جنگ پر پیچھے ہٹ گیا کہ زندگی پیاری ہے، لیکن زندگی تو اقدام میں ہی ہے۔

ایک نے کہا: ”موت آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں،“ لیکن دوسرے لوگوں نے موت کی برائی کی اس سے راہ فرار اختیار کی اور اسے خوش آمدید نہیں کہا ”چنانچہ زندگی کے بہت حریص ہیں فرمایا ”کہہ دو وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں لاحق ہو کر رہے گی۔“ بعض منکرین کہتے ہیں اور غلط کہتے ہیں: اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں اس سر کے علاوہ کوئی سر نہیں:

غم نہ کریں

تنگی و ترشی ختم ہوگی، مصیبت زائل ہوگی، انسیت، امید و سخاوت کی شبنم برسے گی، سایہ آئے گا
 ”حمد اللہ کی ہے جس نے ہم سے تکلیف دور کر دی۔“ اے انسان! اب وقت آ گیا کہ شک کو یقین سے
 اور دل کی کچی کو حق سے، فکر کے انحراف کو ہدایت سے، راستہ کے بھٹکنے کو رشد سے بدل لو، اب وقت آ گیا
 ہے کہ اندھیرے چھٹ جائیں، صبح صادق طلوع ہو، کڑواہٹ تلخی و تلخی رضا کی حلاوت میں بدلے، فتنوں کی
 تاریکیاں ایسے نور سے چھٹ کر رہ جائیں جو جھوٹ کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔

لوگو! تمہارے نجر و اداس صحراء کے ماوراء، ہموار زمین ہے جہاں روزی ہے۔ مشقت، تنگی
 و تکان کے پہاڑ کی چوٹی پر وہ باغ ہے جہاں موسلہ دھار بارش ہوتی ہے، تو وہ شاداب رہتا ہے، موسلہ
 دھار نہ بھی برسے تو شبنم تو پڑتی ہی ہے جس نے امید، فال نیک اور خوشخبری کے خواب جگا رکھے ہیں۔
 اے وہ شخص جو رات کو سوتا نہیں، نیند حرام ہے اور وہ کرب سے چلا رہا ہے کہ یہ لمبی تاریک رات کب ختم
 ہوگی تمہیں صبح کی خوشخبری ہو، ”کیا صبح قریب نہیں“

ایسی صبح روشن جو نور میں نہاتی ہے اور خوشیوں و شادمانیوں کی نقیب ہے۔

اے وہ شخص جس کو پریشانی نے سرگشتہ کر دیا ہے، رک اور دیکھ کہ افق کے پار کشادگی ہے اور
 دستور کائنات کی دفعات تیرے لئے راہِ نجات بنا رہی ہیں۔ رونے والے، آنسو روک لے، چلیوں کو
 آرام دے، پرسکون ہو کیونکہ خالق کائنات تیرے ساتھ ہے ہر آن اس کا لطف خفی تیری نگہداشت کر رہا
 ہے۔ اللہ کے بندے! مطمئن ہو تقدیر لکھی جا چکی ہے، فیصلہ ہو چکا اب حالات مہربان ہوں گے،
 مشقت چلی جائے گی، ساری تکلیفیں دور ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بھی ملے گا۔ اطمینان رکھ کہ تیرا
 معاملہ اس کے ساتھ ہے جو اپنے امر پر غالب اور بندوں پر مہربان و شفیق ہے۔ جس کے کام انتہائی
 کمال مہارت سے انجام پاتے ہیں۔ اطمینان رکھ کہ نتائج اچھے اور خوش کن ہوں گے خاتمہ عزت کے
 ساتھ ہوگا کہ فقر کے بعد غنا، پیاس کے بعد سیرابی، فراق کے بعد ملاقات، ہجر کے بعد وصال اور انقطاع
 کے بعد اتصال ہوگا، بے خوابی کے بعد میٹھی گہری نیند ملے گی

”تم نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ کوئی راہ ضرور نکالے گا۔“ (۱:۶۵)

شاعر کہتا ہے:

رات پڑاؤ ڈال چکی، حدی خواں اکتا گیا، راہ برحیران ہوا کہ ان کی آگ دکھائی دی، میں فکر میں ڈوب گیا، جدائی کے باعث میری فکر مضطرب تھی آنکھ کو کچھ سوچتا نہ تھا، دل تنگ و افسردہ تھا، محبت مچل رہی تھی۔ تب ہم نے پوچھا کہ کیا اس ذات تک پہنچا جاسکتا ہے جو مصیبت میں کام آتی اور امیدیں برلاتی ہے تو ہم نے پایا کہ ساری کائنات اسی کی ہے وہ واحد، یکتا اور طلیل القدر ہے اور اس کی بخشائش بے حساب ہے۔

اے وہ لوگو! جنہیں بھوک، تنگی، تنکان الم، فقر اور مرض لاحق ہیں تمہارے لئے خوشخبری ہے کہ جلد ہی سیراب ہو جاؤ گے خوش اور صحت مند ہو گے

”رات کی قسم جب چلی جائے اور صبح کی جب روشن ہو جائے“ (۷۴: ۳۳-۳۴)

بقول شاعر:

صبح ضرور روشن ہوگی، بیڑی ضرور ٹوٹے گی، جو پہاڑوں پر چڑھنے سے ڈرے تو وہ ہمیشہ گڈھوں کے بیچ ہی رہے گا۔ بندہ پر لازم ہے کہ وہ اپنے رب سے خیر کا گمان کرے، اس کے فضل کا منتظر رہے، اس کے لطف کی امید کرے کیونکہ جو ”کن“ سے ایک جہان پیدا کر دے اس کے وعدہ و پیمان پر تو بھروسہ کرنا ہی ہوگا کہ نفع وہی دے سکتا ہے، نقصان وہی دور کر سکتا ہے، ہر نفس میں اس کا لطف ہے، ہر حرکت میں حکمت اور ہر ساعت میں خلاصی، اس نے رات کے بعد صبح نکالی، قحط کے بعد بارش برسائی، دیتا ہے کہ اس کا شکر کیا جائے، آزماتا ہے کہ یہ دیکھے کہ کون صبر والا ہے، نعمت دیتا ہے کہ اس کی ثناء ہو آ زمانش میں ڈالتا ہے کہ اس سے دعا کی جائے۔

اس لئے بندہ کے لئے ضروری ہے کہ اُس سے تعلق گہرا کرے۔ اس سے رابطہ استوار کرے

اور زیادہ سے زیادہ سوال کرے

”اللہ سے اس کا فضل مانگو“ (۳۲: ۳) ”اپنے رب کو تضرع کے ساتھ تہائی میں پکارو۔“ (۵۵: ۷)

صحراء میں علاء بن الحضرمی کسی صحابی کے ساتھ صحراء کو نکل گئے، ان کا پانی ختم ہو گیا، موت کے قریب ہو گئے۔ تو علاء نے اللہ تعالیٰ کو پکارا جو قریب ہے اور سمیع و مجیب ہے پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، ان کا یا علی یا عظیم یا حکیم یا حلیم کہنا ہی تھا کہ فوراً بارش برس پڑی، انہوں نے پیا بھی وضو بھی کیا غسل

بھی اور جانوروں کو بھی پلایا

”وہی ہے جو مایوسی کے بعد بارش برساتا ہے۔ اپنی رحمت پھیلاتا ہے وہ ولی

وحید ہے۔“ (۲۸:۲۲)

وقفہ

’اللہ کی محبت، ذکر مداہم، اس کی معرفت، اس سے سکون اُس سے اطمینان پانا، تنہا اسی سے خوف، امید، محبت اور توکل رکھنا اور اس طرح کا حال کہ بس اللہ ہی بندے کے ارادہ و عزم اور فکر پر مستولی ہو جائے تو یہی دنیا میں جنت اور بے نظیر نعمت ہے۔

اسی شعور سے محبت کرنے والوں کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے یہی عارفوں کی زندگی ہے“ ”اللہ وحدہ سے تعلق، ہمیشہ اسی کا ذکر اور اس پر قناعت وہ چیزیں ہیں جن سے رنج و فکر، اضطراب و قلق دور ہوتے اور انشراح صدر ملتا ہے، زندگی میں خوشی آتی ہے۔ اس کے برعکس جس نے غیر اللہ سے لو لگائی، اللہ کے ذکر کو بھول گیا اللہ کی عطا پر مطمئن نہ رہا تو اس سے زیادہ تنگ دل اور اس سے زیادہ رنجیدہ اور کوئی نہ ملے گا۔ تجربہ سب سے بڑا شاہد ہے۔

مصیبت زدوں سے حوصلہ لیجئے

”تمہارے اطراف میں بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں“ (۲۷:۴۶)

جن لوگوں پر شدید خون چکاں اور ہولناک آفت ٹوٹی ان میں برا مکہ بھی ہیں، جو ایک عیش و عشرت، جو دستا اور ٹیپ ٹاپ میں شہرت رکھنے والا خاندان تھا۔ ان پر جو آفت ٹوٹی اُس نے انہیں ایک نشان عبرت بنا دیا، ایک مثال ہو گئی کہ ہارون رشید نے پلک جھپکتے میں ان کو پکڑ لیا جب کہ عشرت کے مارے غفلت میں تھے اور تن آسانی کی چادر اوڑھے پڑے تھے۔ وہ کھیل کود میں مگن تھے کہ اللہ کے عذاب نے آلیا، عذاب کے لئے بھی اس شخص کے ہاتھ چنے گئے جو ان کا سب سے قریبی اور ولی نعمت تھا۔ اس نے ان کے گھروں کو برباد، محلات کو ویران اور حرماتوں کو بے آبرو کر دیا۔ ان کے باندی غلام

چھین لئے، ان کا خون بہایا، انہیں ہلاکت کی جگہ ڈال دیا۔ ان کو اذیتیں دے کر ان کے پیاروں کے دل چھلنی کر دیئے، ان کے بچوں کو تڑپایا اور رُلا دیا۔ خدا کی شان ہے، ان کی کتنی نعمتیں چھین لی گئیں، ان پر کتنی آنکھیں روئیں ”اے آنکھ والو! عبرت پکڑو اس شدید مصیبت سے ذرا کی ذرا پہلے ہی تو وہ دیبا و حریر میں چل رہے تھے، انگلیں و آرزوئیں پوری کر رہے تھے۔ کیا ہی ہولناک ستم تھا جو ان پر ڈھایا گیا قیامت تھی جو ٹوٹی! ایام کی بے خبری میں وہ مارے گئے۔ ”تم ان لوگوں کے مسکن میں اقامت گزریں ہو گئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تمہارے سامنے واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور ہم نے تمہارے سامنے مثالیں بیان کر دیں۔“، (۴۵:۱۴)

ان کے سروں پر جھنڈے لہراتے تھے اور دائیں بائیں فوجوں کے پرے ہوتے تھے۔ وہ آزادی کے ساتھ داد عیش دیتے، انہوں نے سراب کو پانی، ورم کو موٹاپا، دنیا کو ہیٹنگی اور فناء کو بقا سمجھ لیا تھا، یہ خیال کیا تھا کہ امانت واپس نہیں لی جائے گی، عاریت کی ضمانت نہ دینی پڑے گی اور ادھار کی ادائیگی نہ کی جائے گی ”انہوں نے سمجھا تھا کہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں گئے۔“ شاعر کہتا ہے۔

زمانے کے حادثات متنوع ہیں یہاں کبھی رنج و غم ہے کبھی خوشی و مسرت، دنیائے فانی کو بقاء نہیں، نہ یہ ایک ہی حال پر رہتی ہے۔ صبح اٹھے تو خوش تھے شام ہوئی تو قبر میں پہنچ چکے تھے۔ ہارون رشید ایک لمحہ میں ناراض ہوا اور اس نے اپنے غضب کی تلوار سے ان کی ٹکا بوٹی کر دی۔ جعفر بن یحییٰ برکلی قتل ہوا۔ اسے سولی دی گئی، پھر لاش جلادی گئی اس کے باپ یحییٰ بن خالد اور بھائی فضل بن یحییٰ کو جیل میں ڈال دیا۔ ان کے مال اور جائدادیں ضبط کر لیں۔ متعدد شعراء نے برا مکہ کے مرثیے کہے الرقاشی اور بقول بعض ابونواس نے ایک قصیدہ کہا :

اب ہمیں آرام مل گیا ہماری سواریوں کو بھی۔ اب دینے اور مانگنے والے سب رک گئے۔
گھوڑوں سے کہہ دو کہ تم اب رات کو چلنے اور صحراؤں کو طے کرنے سے چھٹی پا گئے۔ موت سے کہو کہ
جعفر کو تو تو لے گئی لیکن اس کے بعد کسی سردار کو نہ پائے گی۔ فضل کے بعد عطا یا سے کہو کہ معطل ہو جائیں
آفتوں سے کہو اب پھر ٹوٹ پڑو۔ دیکھ لو کہ ہندوستانی ہاشمی تلوار نے ہندی برکلی تلوار کو توڑ ڈالا۔
الرقاشی نے جعفر کی سولی پر لٹکی نعش کو دیکھ کر کہا:

غم نہ کریں

بخدا اگر چغل خور کا ڈر اور خلیفہ کے جاسوسوں کا خوف نہ ہوتا تو ہم تیری لعش کا طواف کرتے اور تجھے ایسے چومتے جیسے خانہ کعبہ کو لوگ چومتے ہیں۔ ابن یحییٰ تجھ سے پہلے میں نے ایسی تلوار نہیں دیکھی جسے دوسری تلوار نے کند کر دیا۔ اب دنیا، لذات دنیا اور آل برک کی حکومت کو سلام ہو۔ مروی ہے کہ الرقاشی کو ہارون نے بلایا اور پوچھا جعفر ہر سال تجھے کیا دیتا تھا؟ اس نے بتایا کہ ہزار دینار، تو ہارون نے اس کے لئے دو ہزار دینار دیئے کا حکم دیا۔ زبیر بن بکار اپنے چچا مصعب الزبیری سے نقل کرتا ہے کہ اس نے بتایا: جب رشید نے جعفر کو قتل کیا ایک عورت بڑھے گدھے پر سوار گزری اور اس نے کہا بخدا اے جعفر! آج تو نشان عبرت ہے تو کل بھی کارناموں کی انتہا تھا پھر اس نے یہ فصیح اشعار کہے:

”جب میں نے دیکھا کہ تلوار جعفر کے خون سے رنگین ہو گئی اور خلیفہ کے پکارنے والے نے یحییٰ کے بارے میں آواز لگائی، مجھے دنیا پر رونا آ گیا اور یقین ہو گیا کہ آج تو یہ جوانمرد دنیا سے جانے ہی والا ہے، دنیا یوں ہی آنی جانی ہے ایک کونعت اور ایک کومصیبت دیتی ہے۔ ایک کو بادشاہی کے بلند ثریا سے نوازتی ہے دوسرے کو تخت الٹری تک پہنچا دیتی ہے۔“

جب ابو جعفر المنصور نے محمد بن عبد اللہ بن الحسن کو قتل کر دیا تو ان کا سراپنے دربان ربیع کے ذریعہ ان کے باپ عبد اللہ بن الحسن کے پاس جیل میں بھیجا۔ انہوں نے سراپنے ہاتھوں میں رکھا لیا اور کہا اے ابوالقاسم! اللہ تجھ پر رحم فرمائے تم ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کے ساتھ کئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ وعدہ خلافی نہیں کرتے اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اُسے جوڑتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کے انجام سے کانپتے ہیں پھر انہوں نے شاعر کا یہ قول پڑھا:

ایسا جوان تھا کہ اس کی تلوار اُسے ذلت سے بچاتی تھی اور برے امور سے وہ اجتناب کرتا تھا۔
پھر انہوں نے منصور کے دربان ربیع کی طرف مڑ کر کہا اپنے آقا سے کہنا: تمہارے عیش و عشرت اور ہماری بدبختی پر ایک مدت گزر چکی ہے اب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے! العباس بن الاحنف نے اس معنی کو لے کر کہا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہنے والا عمارہ بن عقیل ہے:

اگر تم ایک بار میرے اور اپنے حال پر نظر کر لو تو تمہیں خواہش نفس سے حجاب آئے۔ روزانہ ہماری بد حالی کا دن گزرتا ہے تمہارے عیش کے دن کے ساتھ ہی اس کا حساب ہوگا (’قول علی قول‘ میں

غم نہ کریں
یونہی نقل ہے)

اور اب ہارون رشید اور ابن جعفر البرکلی دونوں کہاں ہیں؟ قاتل و مقتول کا کیا ہوا؟ وہ آمر جس نے محل میں بستر پر پڑے ہوئے قتل کا حکم جاری کیا اور جسے سولی دے کر ظلماً قتل کر دیا گیا سب کیا ہوئے ان کا نشان بھی باقی نہیں اس دن یہ سب حاضر ہوں گے جب عدل و انصاف ہوگا اور کوئی ظلم و زیادتی کا شائبہ بھی نہ ہوگا۔

”اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ وہ نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔“ (۵۲:۲۰) ”اس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔“ (۶:۸۳) ”اس دن حساب تم پر پیش کیا جائے گا اور کچھ بھی تم سے نہ چھپایا جائے گا۔“ (۱۸:۶۹)

یحییٰ بن خالد برکی سے پوچھا گیا بھائی یہ آفت کیسے ٹوٹ پڑی، کیا سبب ہے اس کا؟ تو اُس نے کہا غائباً یہ کسی مظلوم کی بدعاتھی جو رات کی تنہائیوں میں اُس نے کی اور ہم اس سے غفلت میں تھے۔
عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر پر بھی آفت پڑی اس نے اپنی قید میں فریاد کی :

”دنیا سے ہم جب نکلے تو دنیا والے تھے اب جیل میں تو ہم زندوں میں ہیں نہ مردوں میں کسی دن جب کسی وجہ سے جیلر قید خانہ میں آتا ہے تو ہمیں تعجب ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں دنیا سے تو یہ شخص آیا ہے خوابوں سے ہم دل بہلاتے ہیں اور دن میں خواب کا ہی چرچا کرتے رہتے ہیں۔ اگر خواب اچھا ہوا تو سوت روی سے آتا ہے، برا ہوتا ہے تو جلدی سے آجاتا ہے اور کسی انتظار میں نہیں رہتا۔“

آخر کے دونوں مصرعوں میں بدفالی اور نحوست کا تاثر ہے۔ ان سے مجھے کسی شاعر کے جاہل بیان کردہ دو شعر یاد آ گئے جو اس نے کتاب البغال میں ذکر کئے ہیں:

”محلہ کی ڈاک آتی ہے ایسا خط جس میں مصائب زمانہ کا تذکرہ ہو جلدی سے مل جاتا ہے اور شرکی خبر میں تو بس ایک دن رات لگتے ہیں لیکن کوئی اچھی خبر ہو تو سوت روی سے چلتی ہے اور چار دنوں میں پہنچتی ہے۔“

فارس کے کسی بادشاہ نے اپنے حکماء میں سے کسی ایک کو قید کر دیا تو اس نے ایک رقعہ لکھ کر بھیجا:
”میرے اوپر قید میں جو گھڑی بھی گزرے گی وہ مجھے نجات سے اور تم کو مصیبت سے قریب کر دے گی

میں آزادی کا منتظر ہوں تم آفت کا انتظار کرو۔“

اندلس کے سلطان ابن عباد پر مصیبت ٹوٹی۔ وہ عیش و عشرت میں پڑا رہتا تھا۔ صراطِ مستقیم سے دور سارا وقت لونڈی غلاموں سے خرمستی، باجے گاجے دف اور طنبور، شعر و شاعری اور سماع میں گزارتا۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر اندلس کے نصرانیوں نے تاخت شروع کر دی، مجبور ہو کر اس نے افریقہ کے ابن تاشفین سے مدد مانگی چنانچہ وہ سمندر پار کر کے آیا اور ابن عباد کی مدد کی۔ ابن عباد نے اس کی میزبانی کی باغات، محلات اور مکانات میں اس کا اعزاز و اکرام کیا ابن تاشفین شیر کی طرح شہر کے اندر باہر کا جائزہ لیتا رہا اور تین دن کے بعد اس کی فوجیں اس کمزور سلطنت پر ٹوٹ پڑیں ابن عباد قید کر لیا گیا اس کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ باغات و محلات سب ویران ہو گئے۔ افریقہ کے شہر انعامت میں ابن عباد کو رکھا گیا ابن تاشفین نے اندلس کی زمام اقتدار بھی اپنے ہاتھ میں لے لی ان کا دعویٰ تھا کہ اہل اندلس نے خود ہی ان کو بلایا تھا اور وہ ان کی حکومت چاہتے تھے۔

دن گزرتے رہے ایک دن ابن عباد کی بھوکی بیٹیاں ننگے پاؤں چھتھڑے پہنے دھول میں روتی باپ سے ملنے آئیں۔ اس حال میں انہیں دیکھ کر ابن عباد بھی رو پڑا۔ عید کا موقع تھا اس نے یہ درد انگیز شعر کہے:

ابن عباد ماضی میں تم بھی عید کی خوشیاں منایا کرتے تھے اب انعامت کی عید نے تمہیں رنجیدہ کر دیا جہاں تم قید کی حالت میں ہو۔ تم اپنی بیٹیوں کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھ رہے ہو وہ بھوکی ہیں، ان کے پاس دمڑی بھی نہیں۔ وہ لوگوں کا چرخہ کاتی ہیں، وہ تمہیں سلام کرنے آئیں کھلے سر اور نگاہیں جھکی ہوئی وہ ننگے پاؤں چلتی ہیں گویا کہ وہ کبھی مشک و کافور پر نہیں چلیں۔

پھر شاعر ابن اللہ ابن عباد کے پاس آیا تو اس نے اس سے کہا:

امن و سلامتی کی خوش بوئیں سو گھو۔ میں تمہیں اسی فضا میں مشک ملی شراب پلایا کرتا تھا۔
تم چونکہ نعمتوں والے تھے اس لئے حقیقت میں نہ سہی مجازاً ہی اپنے آپ کو نعمت والے سمجھو۔
زندگی تمہیں روتی ہے، خوشبو گر بیان چاک ماتم کر رہی ہے اور بجلی کرک کر تمہارا نام لیتی ہے۔
یہ ایک اچھوتا قصیدہ ہے جسے الذہبی نے نقل کیا ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔

ترمذی نے روایت کی ہے عطاء سے وہ حضرت عائشہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ آپؐ اپنے بھائی عبداللہ دقین مکہ کی قبر سے گزریں آپؐ نے سلام کیا اور فرمایا عبداللہ! تمہاری میری مثال وہی ہے جیسے متم بن نویرہ نے کہا:

”ایک مدت تک ہم محبت کے ساتھ ہم پیالہ وہم نوالہ تھے لوگ کہتے تھے کہ ان کا ساتھ نہ ٹوٹے گا، ہم شادمانی کے ساتھ بسر کر رہے تھے جب کہ ہم سے پہلے موت نے کسری اور تیج کو بھی نہیں چھوڑا پس جب ہم جدا ہو گئے تو میں چشم تصور میں اپنے آپ کو اور مالک کو اتنی لمبی ملاقات کرتے دیکھتا ہوں کہ جیسے ہم رات بھر نہیں سوئے۔“

پھر آپؐ کے آنسو آگے اور وہاں سے آگئیں۔ حضرت عمرؓ متم بن نویرہ سے فرماتے: متم! کاش کہ میں شاعر ہوتا اور اپنے بھائی زید کا مرثیہ کہتا بخدا نجد سے جو بھی ہوا چلتی ہے اس کی خوشبو لاتی ہے۔ زید مجھ سے پہلے اسلام لایا، ہجرت کی اور شہید ہو گیا اتنا کہہ کر عمرؓ رونے لگے۔ متم کے جو اشعار آپؐ کو بہت پسند آئے تھے وہ یہ ہیں: میری قسم احباب مجھے بہت زیادہ آہ و بکا اور آنسو بہانے پر ملامت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس قبر کی وجہ سے جو لوی اور دکا دک کے درمیان ہے تم جس قبر کو بھی دیکھتے ہو رونے لگتے ہو، میں ان سے کہتا ہوں رہنے دو بھائی، نالہ سے نالہ پیدا ہوتا ہے مجھے ساری قبرین مالک کی قبر لگتی ہے۔

اندلس میں بنو الاحمر کو زوال ہوا شاعر ابن عبدون نے ان کی مصیبت پر مرثیہ کہا:

”زمانہ تو ہر چیز کے بعد اس کا اثر تک ختم کر دیتا ہے اس لئے سایوں اور صورتوں پر کیا رونا، میں تمہیں برابر روکوں گا اور ذرا بھی ڈھیل نصیحت میں نہ کروں گا کہ شیر اور کامیابیوں کے بیچ مت سوؤ۔ جب عمر کے فدیہ میں ”خارجہ“ دیا گیا تو ”علی“ کے فدیہ میں بھی پوری مخلوق دی جاسکتی ہے۔

”پس جب ہمارا معاملہ آیا ہم نے اس ہستی کو اوپر نیچے کر دیا“ (۸۲:۱۱) ”دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا جس سے مختلف طرح کے نباتات پیدا ہوئے جنہیں انسان بھی کھاتے ہیں جانور بھی حتیٰ کہ زمین سرسبز ہوگئی زمین والوں نے سمجھا تھا کہ اس پران کا قابو ہے اچانک رات میں یادن میں ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے اسے چور چور کر دیا گویا کہ وہ کل

شاداب تھی ہی نہیں۔“ (۲۴:۱۰)

رضا جوئی کے خوشگوار ثمرات

”اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ سے راضی ہو گئے۔“ (۱۱۹:۵)

رضا جوئی کے بہت زیادہ ایمانی ثمرات ہیں جن کے ذریعہ بندہ مقامات بلند حاصل کر لیتا ہے۔ ایمان و یقین میں راسخ اعتقاد میں ثابت اور اپنے اقوال، اعمال و احوال میں صادق ہو جاتا ہے۔ کمال بندگی یہ ہے کہ جو احکام شاق گزریں وہ بھی بجالائے، اگر ایسا ہوتا کہ سارے احکام خوشگوار ہوتے تو عبودیت سے بعید تر بات ہوتی جو صبر، توکل، رضا مندی، عاجزی جتنا جگی، ذلت اور خضوع سے حاصل ہوتی ہے۔ خوئے تسلیم و رضا یہ نہیں کہ طبیعت کے لئے خوشگوار بات ہو اس پر راضی ہو بلکہ یہ ہے کہ جو امور طبیعت پر گراں گزریں ان پر رضا مندی ہو کیونکہ اللہ کی تقدیر میں بندہ کا کوئی اختیار نہیں کہ جسے پسند کرے لے لے جسے ناپسند کرے چھوڑ دے بلکہ سارا اختیار صرف اور صرف رب تعالیٰ کو حاصل ہے جو زیادہ علم والا سب سے بڑا اور اعلیٰ و برتر، عالم الغیب اور چیزوں کے عواقب و اسرار کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔

رضا بالقضاء

آدمی کو خیال رہنا چاہئے کہ تمام حالات میں اللہ تعالیٰ سے رضا جوئی سے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تھوڑے رزق پر راضی ہوگا تو اللہ اُس کے تھوڑے سے عمل کو قبول کرے گا۔ جب تمام حالات میں بندہ راضی ہوگا تو اللہ بھی اس کی فریاد سنے گا۔ چنانچہ مخلصین کا قلیل عمل بھی اللہ نے قبول کیا، بخلاف منافقین کے کہ ان کا زیادہ کم سب عمل اکارت گیا کیونکہ وہ اللہ کی وحی اور رضا مندی سے کراہت کرتے تھے اس لئے اللہ نے ان کے عمل ضائع کر دیئے۔



جو تقدیر پر راضی نہ ہو وہ بد بخت ہے

تقدیر کا شکوہ رنج و غم اور کدورت کا دروازہ ہے، دل کا چین و سکون غارت کرتا ہے۔ یہ اللہ سے بدگمانی ہے۔ ان چیزوں سے تقدیر پر رضا مندی ہی نجات دے سکتی ہے اور آخرت سے پہلے ہی جنت ارضی کا دروازہ کھولتی ہے۔ کیونکہ نفسیاتی سکون تقدیر کے شکوہ اور عدم رضا سے نہیں بلکہ تسلیم و رضا کے رویہ سے ملے گا۔ کیونکہ مدبر کائنات حکمت والا ہے جس کی قضاء و قدر پر انگلی نہیں اٹھائی جاسکتی۔ فلسفی ابن الروندی جو ملحد تھا اس کا قصہ تازہ کیجئے۔ وہ غریب فقیر تھا اس نے ایک ایسے جاہل کو دیکھا جو باغات، محلات، اور جائیدادوں کا مالک تھا تو لگا آسمان کی طرف منہ کر کے تقدیر کا شکوہ کرنے کہ میں اتنا بڑا عالم و فلسفی اور میری یہ درگت اور یہ جاہل اور اتنا ثروت مند، یہ کیسی تقدیر اور کیسا انصاف ہے!! نتیجہ کیا ہوا اس کی حرماں نصیبی و بد بختی و ذلت میں اور اضافہ ہی ہوا۔

”یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اس دن ان کی مدد نہ ہوگی۔“ (۱۶:۴۱)

رضامنندی کے فائدے

رضامنندی آدمی کو طمانیت، دل کو ٹھنڈک، سکون و قرار و شکوک و شبہات کے وقت ثبات عطا کرتی ہے۔ اس کا دل اللہ و رسول کے وعدوں پر بھروسہ کرتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے ”یہ وہ ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے، اللہ اور رسول دونوں سچے ہیں اور ان کے ایمان و اطاعت میں اس چیز نے اضافہ کر دیا ہے۔“

تقدیر کا شکوہ دل میں شکوک و شبہات جنم دیتا ہے جس سے آدمی بے چارگی، اضطراب، ذہنی انتشار و قلق کا شکار رہتا ہے۔ دل میں سرکشی پیدا ہوتی ہے اور وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ:

”اللہ و رسول نے ہم سے جھوٹا ہی وعدہ کیا تھا۔“

اس قسم کے لوگ جہاں فائدہ دیکھیں گے دوڑ کر آئیں گے، جہاں ان سے حق کا اور قربانی کا مطالبہ ہوگا تو بغلیں جھانکیں گے۔ خیر پہنچے گا تو مطمئن و شاد رہیں گے اور ذرا بھی آزمائش ہوئی تو اٹلنے

پیروں پھر جائیں گے۔ لہذا یہ دنیا و آخرت کے خسارہ میں ہیں
 ”جو صاف خسارہ ہے“ جب کہ رضا بالقضا سے وہ سکون ملے گا کہ اس سے زیادہ کا تصور نہیں
 کیا جاسکتا کیونکہ جسے سکینت ارزانی ہو اس کے تمام حال احوال درست ہو جائیں گے۔ شکوہ تقدیر سے
 سکینت زائل ہو جاتی ہے اور جس قدر سکینت کی کیفیت زائل ہوگی اسی حساب سے امن و راحت، سرور
 اور خوشگوار زندگی سے رخصت ہو جائے گی۔ یعنی سکینت کا نزول بندے پر اللہ کی بہت بڑی رحمت
 ہے اور اس کا سب سے بڑا سبب تمام حالات میں تسلیم و رضا کا رویہ ہے۔ شاعر کے مطابق :
 ”تمہاری وجہ سے ہم کو عشق کے کڑوے گھونٹ پینے پڑے۔ فراق کی آگ میں ہم جلے لیکن
 ہم نے کوئی شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ تمہارے ذکر سے سکون ملتا ہے اور دل میں کسی تم سے ملاقات کی ہی آرزو
 ہے۔“

رب تعالیٰ سے جھگڑا نہیں

رضا مندی بندے کو رب تعالیٰ کے احکام اور اوامر میں مخالفت سے بچالیتی ہے۔ کیونکہ اس
 کے فیصلہ پر راضی نہ ہونا مخالفت ہی ہے اہلیس کی اللہ کے حکم سے مخالفت کی بنیاد یہی تھی کہ وہ اللہ کے
 کائناتی منصوبہ سے راضی نہ ہوا۔ طہرین و منکرین کا بڑا جرم یہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے عظمت کی چادر اور
 کبریائی کی ردا چھیننا چاہتے ہیں کہ اس کے مقام جبروت کے لئے سرطاعت خم نہیں کرتے، اس کے
 اوامر کو نہیں بجالاتے، منہیات سے رکتے نہیں، تقدیر کے شاکہ ہوتے ہیں، ان کا رویہ تسلیم کا نہیں ہوتا۔

حکم نافذ اور فیصلہ عادلانہ

بندے پر اللہ کا حکم نافذ اور اس کے سلسلہ میں فیصلہ عادلانہ ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں اسے
 یوں تعبیر کیا ہے ”ماضی فی حکمک عدل فی قضاؤک“ جو اللہ کے عدل کو نہ مانے وہ ظالم و جابر
 ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے تو ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، وہ بندہ پر ظلم نہیں کرتا وہ اس سے پاک ہے
 لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔

اس قول: ”عدل فی قضاءک“ میں یہ بھی داخل ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور اسی طرح اس

قول میں گناہ کا اثر اور عقوبت بھی داخل ہے۔ دونوں ہی اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں بندہ گناہ کرے اس کا فیصلہ بعض گہری حکمتوں اور اسرار کے باعث ہوتا ہے اور کبھی اس میں بڑے مصالح ہوتے ہیں لیکن ان سب کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

شکوہ تقدیر سے کوئی فائدہ نہیں

عدم رضایا تو یوں ہوتی ہے کہ مرغوب و محبوب چیز نہ مل سکے یا اس لئے کہ ناپسندیدہ چیز لاحق ہو جائے۔ اب اگر آدمی کو یقین ہو کہ جو چھوٹ گیا وہ ملنے والا نہ تھا اور جو مصیبت لاحق ہوئی وہ نلنے والی نہ تھی تو اس کے بعد شکوہ و شکایت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس شکوہ سے سوائے نفع بخش چیز کے چھوٹنے اور نقصان رساں چیز کے ملنے کے کچھ حاصل نہیں۔ حدیث میں آیا ہے۔ آپ نے فرمایا:

”اے ابو ہریرہ تمہیں جو کچھ بھی پیش آئے گا وہ سب لکھا جا چکا ہے، تقدیر میں سب طے ہو گیا ہے، فیصلہ لکھا ہوا ہے، قلم اٹھائے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔“

رضایا بالقضاء میں سلامتی ہے

رضامندی سے سلامتی کا باب کھلتا ہے۔ اس سے دل صاف اور گمراہی اور تنگی سے پاک ہوتا ہے عذاب سے وہی محفوظ رہے گا جو قلب سلیم لے کر آئے گا یعنی جو خشک و شبہ، شرک اور تلبیس ابلیس اور اس کے نمائندوں کے شر سے محفوظ ہوگا ٹال مٹول اور وعدہ و وعید جس کی عادت نہ ہوگی۔ جس دل میں صرف اللہ ہوگا فرمایا:

”کہہ دو کہ اللہ ہے، پھر ان کو فضول گوئی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو۔“ (۹۱:۶)

شکوہ اور عدم رضایا سے سلامتی ختم ہو جائے گی۔ بندہ جتنا زیادہ رضامند ہوگا اتنا ہی اس کا دل صاف ہوگا کیونکہ تقدیر پر راضی نہ ہونے سے خبث، گمراہی اور تنگی جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور رضایا سے سلامتی قلب نیکی و خیر خواہی کے جذبات پر دان چڑھتے ہیں، ناراضگی کا ایک ثمرہ حسد بھی ہے۔ رضایا ایک شجرہ طیبہ ہے جس کو اخلاص کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے اور جو توحید کے باغ میں پھلتا پھولتا ہے۔ اس کی اصل ایمان ہے، اس کی ڈالیاں اعمال صالحہ ہیں، اس کا پھل بیٹھا ہے اس کی حلاوت کچی ہے،

حدیث میں آیا ہے:

”جو اللہ کو رب مان کر راضی رہے، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر پوری طرح راضی ہوا سے ایمان کا مزہ مل گیا۔“

یہ بھی حدیث میں ہے کہ ”یہ تین چیزیں جن کے اندر ہوں وہ ان کے ذریعہ ایمان کی حلاوت پالیتا ہے۔“

شکوہ تقدیر شک کا دروازہ ہے

شکوہ کرنے سے بندہ پر اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی قضاء و قدر، حکمت اور علم کے بارے میں شک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اکثر شاکہ کے دل میں شکوک و شبہات راستہ بنا لیتے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اس سے بہت کم بچ پاتا ہے۔ اگر وہ گہرائی سے غور و فکر کرے تو معلوم ہو کہ رضا اور یقین دونوں بھائی ہیں، شک اور شکوہ دونوں حلیف ہیں۔ اس سے اس حدیث کا معنی سمجھ میں آتا ہے جو ترمذی نے روایت کی ہے

”کوشش کرو یقین و رضا کے ساتھ عمل کرو، اگر ایسا نہ ہو سکے تو رضا کی جگہ صبر ہو، صبر میں خیر کثیر ہے۔“

تقدیر کے شاکہ کی اندر سے کھولتے ہیں اگرچہ اس کا اظہار نہ کرتے ہوں۔ ان کے پاس بہت سے اشکالات اور سوالات ہوتے ہیں اور جن کی دلچسپی ایسا کیوں اور ایسا کیوں نہیں؟ اور چوں و چرا میں ہوتی ہے۔

رضا غنا اور امن ہے

جس کا دل رضا بقدر سے معمور ہوگا اللہ اس کے سیدہ کو غنا، امن اور قناعت سے بھر دے گا، اس کے دل کو اپنی محبت، انابت اور توکل کے لئے خالص کر دے گا اور جس کا دل رضا سے خالی ہوگا، اس کے دل میں سعادت اور فلاح کے مغائر امور ہوں گے۔ یعنی رضا سے دل اللہ کے لئے خالص ہوتا ہے اور

عدم رضا سے اللہ سے خالی ہو جاتا ہے۔ جو شاکی ہوا اور راضی نہ ہو اس کو کوئی امن چین نہ ملے گا۔ اضطراب کا شکار رہے گا۔ وہ سمجھے گا کہ اس کی روزی ناقص اور حصہ کم ہے۔ اس کو آسائش کم ہے مصائب بہت ہیں۔ وہ سمجھے گا کہ جتنا اللہ نے دیا ہے وہ اس سے زیادہ کا مستحق ہے۔ وہ مرتبہ والا اور بڑا ہے لیکن اللہ نے اس کو کم دیا ہے، محروم رکھا ہے اور بتلائے مصیبت کر دیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ کیسے وہ مطمئن ہوگا، کیسے راحت پائے گا اور کیسے زندگی گزارے گا ”یہ اس لئے کہ انہوں نے ان چیزوں کی پیروی کی، جو اللہ کو ناراض کر دینے والی ہیں۔ انہوں نے اس کی خوشنودی نہیں چاہی لہذا اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دئے۔“ (۲۸:۳۷)

رضا کا ثمرہ شکر ہے

رضا کا نتیجہ شکر ہے جو ایمان کے اعلیٰ مقامات میں سے ہے بلکہ وہی ایمان کی حقیقت ہے کیونکہ تمام منزلوں کی انتہا مولیٰ تعالیٰ کا شکر ہے۔ جو آدمی اپنی صلاحیتوں پر نیز اللہ کے احکام، اس کی صنعت اور تدبیر اور اخذ و عطا پر راضی نہ ہو وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ شکر گزار کا دل سب سے زیادہ مطمئن، خوش اور شادمان ہوتا ہے۔

شکوہ کا ثمرہ کفر ہے

شکوہ و ناراضگی کا نتیجہ کفر ہے۔ نعمتوں کا کفر پہلے ہوتا ہے جو نعم کے کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ جب بندہ تمام حالات میں اپنے رب سے راضی رہے گا تو شکر گزار بھی ہوگا لیکن جب رضا نہ پائی جائے گی تو شکر گزار بھی نہ ہوگا کافروں کے راستہ پر چل پڑے گا۔ عقیدہ میں بگاڑ اور مذہب میں فساد یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ بہت سے بندے خدا بننا چاہتے ہیں بلکہ اللہ سے آگے بڑھنا اور اس سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں جیسا کہ فرمایا ”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔“ (۱:۳۹)

ناراضگی شیطان کی شکار گاہ ہے

زیادہ تر شیطان کا نوالہ تر آدمی اس وقت بن جاتا ہے جب ناراضگی اور خواہشات غالب ہوں۔ خاص طور پر جب انسان اللہ سے زیادہ شاکی ہوتا ہے تو منہ سے وہ باتیں کہہ ڈالتا ہے جن سے رب تعالیٰ ناراض ہو، اس کی مرضی کے خلاف ارادہ کرتا اور عمل کر گزرتا ہے اسی لئے نبی کریم ﷺ اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات پر فرمایا ”یحزن القلب وتدمع العين ولا نقول الا بما یرضی ربنا“ وجہ یہ ہے کہ بیٹوں کی موت ان چیزوں میں سے ہے جو بندے کو اللہ کا شاک بنا دے اور وہ منہ سے وہ کچھ نکال بیٹھے جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ اگر آدمی کسی ناپسند وقوعہ پر تین امور پر دھیان دے تو اس کی مصیبت کم ہو جائے گی۔

پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں کوئی حکمت سمجھے اور یہ کہ بندوں کے فائدہ اور مصلحت کو وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ آزمائش کا بدلہ اجر عظیم کی صورت میں ملے گا اور اپنا وہم دور ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ تقدیر اور حکم دینا اللہ کا کام ہے۔ بندے کا کام صرف ماننا اور اطاعت کرنا ہے، چون و چرا کی گنجائش نہیں ”یہ کیا تیرے رب کی رحمت تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟“

عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں
تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے

رضا مندی سے ہوائے نفس ختم ہوتی ہے

جس میں خوئے رضا ہوتی ہے اس کی خواہشات اللہ کی مرضی کی تابع ہو جاتی ہیں، ایک دل میں اللہ کی اطاعت اور خواہش کی پیروی جمع نہیں ہوتیں۔ اگر اس میں تھوڑی یہ اور تھوڑی وہ ہو تو دونوں میں جو غالب ہوگی دل اسی کا ہوگا۔ بقول شاعر:

”ہمارے حاسد کی بات سے اگر آپ کو خوشی ہوتی ہو تو ہمارے زخم میں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔

بس آپ کی خوشی چاہئے“

”میرے رب میں تیری طرف جلدی سے اس لئے آیا کہ تیری خوشنودی حاصل

وقفہ

”خوش حالی میں اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں شدت میں یاد رکھے گا۔“

مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اس سے محبت کرو، اس کی بے شمار نعمتوں پر شکرگزاری اختیار کرو اس کے کڑے اور تلخ فیصلوں پر صبر کرو۔ اور خوشحالی میں بلاؤں کے نزول سے پہلے ہی اخلاص کے ساتھ اس کی پناہ لو، امن و سکون، صحت اور عافیت اور لمبی عمر میں زیادہ سے زیادہ طاعت کرو انفاق کے ذریعہ اس کا قرب چاہو۔

یہاں تک کہ یہ چیزیں آپ کی شناخت بن جائیں۔ تب وہ آپ کو ہر قسم کی بلا سے محفوظ رکھے گا۔ ہر تنگی سے آسانی دے گا، ہر مشکل میں راستہ پیدا کرے گا۔

”ہونا یہ چاہئے کہ بندے اور رب کے مابین ایک قلبی اور خاص معرفت ہو، اس طرح کہ بندہ ہمیشہ اسے اپنے پاس پائے۔ خلوت میں اس سے دل لگائے، اس کا ذکر کرے، اس سے دعا و مناجات کرے، اس کی اطاعت کرے، اس سے غنا چاہے، بندہ ہمیشہ ہی شدا ند و مشقتوں میں رہتا ہے، دنیا کی تکلیفیں، برزخ و حشر کے مسائل سبھی سے سابقہ پڑتا ہے، لہذا اگر بندہ اور رب کے بیچ تعلق خاص ہوگا تو اس کا رب ان تمام پریشانیوں میں اس کو کافی ہوگا۔“

دوستوں کی غلطیوں سے صرف نظر کرنا

”عفو و درگزر اختیار کرو، معروف کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو“ (۱۹۹:۷) اگر کسی بھائی کی ساری باتیں اچھی ہوں، دو یا ایک بات ناپسند ہو تو ان کی وجہ سے اسے چھوڑ دینا درست نہیں، کیونکہ تھوڑا بہت قابل معافی ہے، کمال انسان میں عنقا ہے۔ حکیم کنڈی کا کہنا ہے کہ ”جب آدمی چار عناصر سے مرکب ہے تو تم دوست میں ایک ہی طرح کی عادت کیسے پاسکتے ہو۔ آدمی کا اپنا نفس اس سے سب سے قریب، سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس کا ارادہ و اختیار اس میں چلتا ہے لیکن اپنے نفس کی ہر

بات آدمی نہیں مانتا نہ اس کا ہر کہا کرتا ہے تو دوسرے کا نفس ایسا کیسے کر سکتا ہے؟
 ”تم پہلے اسی طرح تھے پس اللہ نے تم پر احسان کیا“ (۹۴:۴) ”تم اپنے آپ کو پاک صاف
 مت بناؤ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ مٹتی ہے۔“ (۳۳:۵۳)

آپ کے لئے یہ کافی ہے کہ دوست کے اندر اچھائی کا پہلو غالب ہے۔ حضرت ابوالدرداءؓ نے
 فرمایا: ”دوست کو سرزنش کرنا اس کو کھودینے سے بہتر ہے۔ پوری دوستی تمہیں کون دے سکتا ہے۔“ اس
 مفہوم کو شعراء نے لے کر اپنے طریقہ پر ادا کیا ہے۔ ابوالعتاہیہ کہتا ہے: ”بھائی دنیا والوں میں کون
 ہے جو تمہارا پورا پورا ہو، تھوڑے کو ہی باقی رکھو، وہ تم سے نہ اکتائے جسے تم نے اپنا آپ پورا نہیں دیا۔“
 ابو حاتم الطائی کہتا ہے:

”فریب خوردہ سے اس کی عقل ہی زیادہ فریب کرتی ہے۔ تمہیں کبھی بھی ایسا دوست کہاں
 ملے گا جو پورا پورا تمہارا ہو۔ بعض حکماء کہتے ہیں کہ پورا انصاف مانگنا بھی قلت انصاف ہے، بعض کہتے
 ہیں جب ہم اپنے آپ سے راضی نہیں تو غیر سے کیسے راضی ہو جائیں گے۔ ایک ادیب کہتا ہے:
 ”جس آدمی کی سیرت کو تم اچھا سمجھتے ہو، اس کے طریقوں پر مطمئن ہو، اس کی فضیلت و عقل
 مندی کی معرفت رکھتے ہو تو اس کے کسی ایسے عیب پر جو کثرت فضائل سے چھپا ہو یا چھوٹی سی غلطی پر
 جسے درگزر کیا جاسکتا ہو، اس سے علیحدگی اختیار نہ کرو۔ یہاں بھی اپنے دل سے فیصلہ کرو کہ کیا اس سے
 پورے طور پر راضی ہو گئے۔ اس کے بارے میں خواہش کی بنیاد پر حکم نہ لگاؤ، اسی حساب سے تم اپنے
 خطا کار کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکو گے“

شاعر کہتا ہے:

”ایسا کون ہے جس کی ہر بات سے تم خوش ہو۔ جس کے عیوب شمار کئے جانے لگیں، سمجھ لو کہ
 وہ بھی بڑا ہی آدمی ہے۔“

الناہضۃ الذبیانی کہتا ہے:

”جس کی پراگندہ حالی کو تم دور نہ کرو وہ ہمیشہ تمہارا دوست نہیں رہ سکتا۔“
 کامل کون ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے جانچو پرکھو نہیں اور ہم نے اس سے قبل کہا ہے

کہ چار عادتیں دوست میں آزمانی چاہئیں۔ اس میں جو کمی ہو اسے معاف کر دینا چاہئے اور اس بنیاد پر تو حش یا بدگمانی میں نہیں پڑ جانا چاہئے جب تک اُس کے تغیر اور تبدیلی کا یقین نہ ہو جائے، اس قسم کی کمی کو اس پر محمول کرنا چاہئے کہ نفس کے حالات مختلف ہوتے ہیں، دل پر مختلف کیفیات گزرتی ہیں۔ کیونکہ انسان تو اپنے ہی سلسلے میں بھی بدلتا رہتا ہے جب کہ اپنا نفس تو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ یعنی نفس کے سلسلہ میں کمی اس سے دشمنی یا اکٹھا ہٹ کے باعث نہیں ہوتی۔ منشور الحکم میں کہا گیا ہے:

”جس دوست پر یقین ہو کسی بدگمانی سے اس کے خلاف نہ ہو جاؤ“

جعفر بن محمد نے اپنے بیٹے سے کہا: ”بیٹے! تمہارے دوستوں میں جو تم سے تین بار ناراض ہوا ہو لیکن اُس نے تمہارے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہی ہو تو اُسے اپنا دوست رکھو“

الحسن بن وہب نے کہا:

”دوستی کا حق ہے کہ دوستوں سے درگزر کیا جائے۔ اللہ کے فرمان ”فاصفح الصفح الجمیل“ (۸۵:۱۵) کی تفسیر میں حضرت علیؑ سے منقول ہے کہ فرمایا یہاں بہترین درگزر کے معنی ہیں اس پر عتاب نہ کرو اس سے راضی رہو۔“

ابن الرومی کہتا ہے:

”یہ دنیا ہے یہاں لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، آنکھ میں تنکا چبھتا ہے تکدر پیدا ہوتا ہے، جب تم خود کامل نہیں تو یہ انصاف کی بات نہیں کہ دنیا میں کامل کی تلاش کرو۔“

ایک شاعر نے کہا:

”ہمارا ملاپ ہر زمانے میں رہے گا۔ ہماری جدائی بہار کی بارش کی طرح ہوگی۔ اس کی بے رخی سے تم گھبراؤ گے لیکن اپنی کمی کے باوجود اس کا مائل ہونا آسان ہے۔ اس بات سے اللہ کی پناہ کہ کسی کو تم غضب ناک پاؤ سوائے محبوب کے، کیونکہ اپنے محبت سے نازخوے کرنا اس کی فطرت ہے“

”اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کبھی بھی تم میں کسی کا ترکہ نہ ہوتا۔“

بقول شاعر:

تم ایسا کامل چاہتے ہو جس میں کوئی عیب نہ ہو، کیا عود بغیر دھوئیں کے خوشبو بکھیرتی ہے؟“

’اپنی صفائی نہ جتاؤ تم میں کون پرہیزگار ہے یہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔‘ (۳۲:۵۳)

صحت اور فراغ کو اللہ کی اطاعت کے لئے غنیمت سمجھئے

ہونا یہ چاہئے کہ جسمانی صحت اور خالی وقت ضائع نہ ہو۔ یہ خیال کر کے کہ پہلے بہت عمل ہو چکا اللہ کی اطاعت میں کمی نہ کرو بلکہ صحت کو غنیمت جان کر محنت کرو۔ اپنے خالی وقت کو کام میں لاؤ، کیونکہ ہر وقت کام نہیں ہو سکتا اور جو چھوٹ جائے گا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ خالی رہنے سے ندامت ہوگی یا کج عملی، تنہائی میں انحراف یا افسوس ہوگا۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں: ”راحت سے مرد غافل ہوتے ہیں عورتیں اٹھلاتی ہیں۔“ بزرگمہر کہتا ہے: کام سے تکان ہوتی ہے لیکن خالی رہنا فساد انگیز ہے۔ ایک حکیم کا کہنا ہے کہ تنہائی سے بچو اس سے عقل فاسد اور حل شدہ مسئلہ الجھ جاتا ہے۔ ایک ادیب کا کہنا ہے کہ: اپنا دن بغیر کسی فائدے کے نہ گزارو۔ اپنا وقت فضول میں ضائع نہ کرو۔ عمر اس سے بہت کم ہوتی ہے کہ آدمی اسے غیر مفید چیزوں میں ضائع کرے اور اپنا مال وہاں اڑا دے جہاں نہ اجر نہ ثواب۔ اس سے زیادہ بلیغ سیدنا عیسیٰ کا قول ہے فرمایا: نیکی تین ہیں، بولنا، دیکھنا، اور خاموش رہنا، جو بغیر ذکر کے بولا، اس نے لغوبات کی، جس نے عبرت کی نگاہ سے نہ دیکھا اس نے غلطی کی جو بغیر فکر کے خاموش رہا اس نے وقت گنوا یا۔

اللہ ایمان والوں کا دوست ہے

بندے کو ایک خدا اور آقا کی ضرورت ہے، خدا کی ذات قدرت، نصرت، اقتدار، عطاء، غناء، قوت، اور بقاء سے متصف ہے جو ان صفات سے متصف ہوگا وہی خدائے واحد، مالک اور نگران اعلیٰ ہوگا۔

کائنات میں اللہ سبحانہ کے علاوہ کوئی نہیں جو بندہ کو سکون دے، جس سے وہ مطمئن ہو اور لو لگائے کہ اللہ ہی خوف زدوں کی پناہ گاہ، فریاد کرنے والوں کا فریاد رس، اور بے خانماں کا مددگار ہے۔ ”جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سنی“ (۹:۸) ”وہ پناہ دیتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں جو پناہ دے سکے۔“ (۸۸:۲۳) ”ان کے لئے اس کے علاوہ کوئی بھی ولی

اور سر پرست نہیں۔“ (۵۱:۶)

جو غیر اللہ کی عبادت کرے، اگرچہ دنیا میں اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی ہو اور اس محبت کی لذت بھی اسے ملتی ہو لیکن یہ اس کے لئے اس سے بڑھ کر فساد انگیز ہے جتنا کہ مسموم کھانا کھانا۔

”اگر آسمان وزمین میں اور بھی خدا ہوتے تو وہ دونوں فاسد ہو جاتے اللہ عرش کا مالک اس

سے پاک ہے جو یہ بتاتے ہیں۔“ (۲۲:۲۱)

آسمان وزمین تو قائم ہی اس سے ہیں کہ وہ اللہ کو ازلی مانتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو اللہ معبود برحق نہ ہوتا کیونکہ نہ اللہ کا کوئی ہم نام ہے نہ اس کی کوئی مثل، تو الوہیت کے نہ ہونے سے آسمان وزمین کا توام بگڑ جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مجبور ہے کہ اس کا ایک الہ ہو جو اس کا معبود بھی ہو، اس کا مددگار بھی یعنی فانی کی ضرورت باقی سے، ضعیف کی طاقتور سے، فقیر کی مالدار سے ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ کو الہ واحد نہیں مانتا اسے دوسری اشیاء، صورتوں اور مرغوبات کو الہ مانتا پڑے گا۔ اس طرح وہ لامحالہ ان کا بندہ اور غلام بن کر رہ جائے گا:

”کیا تم نے دیکھا اسے جس نے خواہشات کو معبود بنا لیا ہے“ (۳۳:۲۵) ”اور انہوں نے اللہ

کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنائے۔“ (۳:۲۵)

حدیث میں ہے آپؐ نے حصین سے پوچھا: تم کتنوں کی عبادت کرتے ہو؟ بولے: سات کی چھ زمین میں اور ایک آسمان میں آپؐ نے دریافت کیا؟ رغبت اور خوف میں تمہارے کون کام آتا ہے؟ کہا وہ جو آسمان میں ہے۔ آپؐ نے فرمایا: تو زمین والوں کو چھوڑ دے آسمان والے کی عبادت کر۔“

یہ جان لیجئے کہ بندہ کا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا محتاج ہونا ایسی بات ہے جس کی کوئی نظیر نہیں تاہم وہ بعض وجوہ سے ایسی ہے جیسے جسم کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہے۔ ان کے مابین بہت سے فرق بھی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی کی حقیقت اس کا قلب اور روح ہے اور یہ حقیقت اللہ الہ واحد کے ذریعہ ہی قائم ہو سکتی ہے۔ اس کے قلب و روح کو اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لئے بے چین رہتے ہیں۔ اور ایک دن اس سے ضرور ملیں گے اس کے ملے بغیر وہ ٹھیک نہیں رہ سکتے۔ بقول شاعر:

غم نہ کریں

جو اللہ سے ملاقات چاہے گا اللہ اس سے زیادہ محبت کرے گا۔ اس کے برعکس وہ ہے جو ایسا نہ چاہے۔ لہذا اللہ کی رحمت اور فضل چاہو، بھروسہ پر نہ بیٹھ جاؤ، اور اگر اللہ کے بغیر کسی کو لذت اور سرور ملے بھی تو وہ زیادہ دنوں تک نہیں رہیں گے بلکہ ایک نوع سے دوسری اور ایک شخص سے دوسرے تک منتقل ہوتے رہیں گے۔ کبھی اس کا آقائے نعمت اسے عیش و آرام دے گا اور کبھی اسے نہ صرف عیش و آرام سے محروم کر دے گا بلکہ اس کا وجود اور ملاقات بھی گوارا نہ کرے گا جب کہ خدا ہر وقت اور ہر حال میں اور ہر جگہ اس کے ساتھ رہتا ہے :

”کاش کہ تو راضی رہے تیری رضا کے ساتھ اگر تمام لوگ بھی ناراض ہوں تو کوئی پروا نہیں میری منتہائے اُمید یہی ہے۔“
حدیث میں آیا ہے:

”جو اللہ کو راضی کرے لوگوں کو ناراض کر کے، اللہ اس سے راضی ہوگا اور لوگوں کو بھی راضی کر دے گا اور جو لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرے گا اللہ اس سے ناراض ہوگا اور لوگوں کو بھی ناراض کر دے گا۔“

مجھے یہاں یاد آیا کہ شاعر علوک نے امیر ابو دلف کی مدح میں کہا
”تم جب بھی اپنے ہاتھ خیر کے ساتھ پھیلاتے ہو تو بہتیروں کی روزی روٹی کا فیصلہ کرتے
ہو۔“

اللہ نے اس پر مامون کو مسلط کر دیا جس نے اس شعر کی وجہ سے اسے قتل کر دیا
”ہم اسی طرح بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اور ان کے کئے کا بدلہ دیتے
ہیں۔“ (۱۲۹:۶)

کامیابی چاہنے والوں کے لئے نشانِ راہ

سعادت و فلاح کی کچھ صاف اور نمایاں علامتیں ہیں، یہ نشانِ راہ ہی آدمی کی کامیابی، کامرانی اور ترقی کی گواہی دیتے ہیں۔ سعادت اور فلاح کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کا علم بڑھے گا تو اُس کی تواضع

درحم دلی میں بھی اضافہ ہوگا یعنی گوہر آب دار ہے کہ جتنی زیادہ چمک اور نفاست ہوگی اتنے ہی گہرے پانیوں میں ہوگا۔ ایسا آدمی محسوس کرے گا کہ علم اللہ کی عطا کردہ دولت ہے جس کو دے کر اللہ آزماتا ہے اگر وہ اچھا حامل علم اور بہتر شکر گزار ہو تو اس کے درجات میں اضافہ ہوگا۔

”اللہ تم میں سے اہل ایمان اور علم والوں کے درجے بلند کر دیتا ہے۔“ (۱۱:۵۸)

جتنا زیادہ اُس کا علم ہوگا اس کا خوف بھی بڑھے گا کیونکہ اس کو لغزش قدم، لغزش زبان اور دل کے پلٹ جانے کا خوف لاحق رہے گا۔ ہوشیار و بیدار پرندہ کی طرح جو مسلسل چوکنار ہوتا ہے اور نگرانی کرتا ہے۔ وہ پھدک پھدک کر کبھی اس درخت پر کبھی اس پر بیٹھتا رہتا ہے۔ اسے شکاریوں سے اور اچانک لگنے والی گولی کا اندیشہ رہتا ہے۔ اسی طرح جتنی اس کی عمر ہوگی اتنی ہی اس کی حرص ختم ہوگی۔ اسے یقینی علم ہوگا کہ بس سفینہ حیات کنارے آ لگا ہے راستہ ختم ہوا منزل آگئی۔ اسی طرح جتنا مال میں اضافہ ہوگا اس کے جود و سخا میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ کیونکہ مال عاریت ہے دینے والا امتحان لے رہا ہے۔ امکانات ہر طرح کے ہیں، موت گھات لگائے بیٹھی ہے۔ اسی طرح جتنا اس کے جاہ و منصب میں ترقی ہوگی۔ اتنا ہی وہ لوگوں سے قریب ہوگا، ان کی ضرورتیں پوری کرے گا، ان سے تواضع کے ساتھ پیش آئے گا۔ کیونکہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو لوگوں میں سب سے زیادہ وہ محبوب ہے جو انہیں زیادہ فائدہ پہنچائے۔

اس کے برعکس بدبختی کی علامتیں یہ ہیں کہ علم میں اضافہ سے تکبر و غرور بڑھے گا۔ اس کا علم فائدہ نہ پہنچائے گا۔ اس کا دل خالی ہوگا، طبیعت گرم اور مزاج میں درشتی و شدت ہوگی۔ اس کا عمل بڑھے گا تو فخر میں اور لوگوں کی تحقیر میں اور خوش فہمی میں زیادتی ہوگی کہ وہ اکیلا نجات یافتہ ہے، باقی ہلاک ہونے والے ہیں، اس کا بیڑا پار ہے دوسرے منجھد ہار میں ہیں۔ اس کی عمر میں اضافے سے اس کی حرص بڑھے گی، وہ سینت سینت کر رکھنے والا اور نہ دینے والا ہوگا۔ حادثات سے اس کے اندر تبدیلی نہ ہوگی، مصائب کا اثر نہ ہوگا، آفتوں سے وہ بیدار نہ ہوگا۔ جتنا مال بڑھے گا، اس کا بخل بڑھے گا کیونکہ اس کا دل اعلیٰ اقدار سے خالی ہاتھ تنگ اور چہرہ سپاٹ اور تاریک ہے۔ جتنی اس کی قدر و منزلت بڑھے گی۔ اس کے تکبر اور غرور میں اضافہ ہوگا یعنی وہ مغرور سخت دل پھولنے والا اور جلد باز ہوگا۔ رحم و مروت سے

غم نہ کریں

عاری لیکن انجام کے لحاظ سے کچھ نہیں۔ فرمایا قیامت میں متکبرین کو ذروں کی صورت میں لایا جائے گا جنہیں لوگ پیروں سے روند رہے ہوں گے۔ یہ امور اللہ کی طرف سے ابتلاء و امتحان ہیں جن میں کچھ کامیاب و باامراد نکلتے ہیں کچھ نامراد ہوتے ہیں۔

بڑا مرتبہ بھی ابتلاء ہے

بادشاہت، اقتدار اور مال کی طرح بڑا مرتبہ بھی ابتلاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جب انہوں نے بلقیس کے تخت کو اپنے پاس دیکھا تو کہا ”وہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر۔“ (۴۰:۲۷)

یعنی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر یہ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو انہیں اچھی طرح قبول کرتا ہے، شکر گزاری کا رویہ اپناتا ہے، ان کی حفاظت کرتا، مستفید ہوتا اور دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے اور کون ہے جو کفران نعمت کرتا ہے، ان کی ناقدری کرتا اور اللہ کی نافرمانی و مخالفت میں ان کو خرچ کرتا ہے۔ اس طرح نعمتیں اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ امتحان ہیں جن سے شکر گزار اور کافر کا فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے ابتلاء و آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتی ہیں جیسا کہ فرمایا:

”انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اسے اس کا رب آزماتا ہے تو اگر اس کا اکرام ہو اور نعمتیں ملیں تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ کرم فرمایا اور آزمائش اگر روزی میں تنگی سے ہوتی ہے تو کہے گا کہ میرے رب نے میری توہین کی، ہرگز نہیں۔“ (۱۵:۸۹-۱۷)

مطلب یہ ہے کہ بندہ کا گمان صحیح نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی سے نعمتیں دیں تو ضروری نہیں کہ وہ اس کی طرف سے اس کا اکرام ہو۔ اسی طرح جس کا رزق تنگ کر دیا اور اسے آزمائش میں ڈال دیا ضروری نہیں کہ یہ اس کی طرف سے اس کی اہانت ہی ہو۔

باقی رہنے والے خزانے

اسلام، ایمان، احسان، برّ و تقویٰ، ہجرت و جہاد اور توبہ و انابت کی عظیم نعمتیں اور بہترین عطایا ہی

وہ خزانے ہیں جو مالکوں کے پاس رہ جائیں گے اور ان کے ساتھ قیامت تک جائیں گے۔
 ”دیکھی یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف اپنا رخ کر لو بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ و یوم آخرت پر ملائکہ، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لایا اور مال کی محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، قبیلوں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں پر خرچ کیا نماز قائم کی، زکوٰۃ دی۔ جو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، بد حالی و تنگ حالی میں صبر کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ سچے اور تقویٰ والے ہیں۔“ (۲: ۱۷۷)

ہمالیائی ہمت و حوصلہ

اگر بندے کو بلند حوصلہ ارزانی ہو جائے تو فضائل کی راہوں میں بڑھتا اور بلند یوں کے درجے طے کرتا چلا جائے۔ اسلامی خصائص میں سے یہ ہے کہ بندہ علو ہمت، مقصد جلیل، ہدف نبیل اور غایت عظیمہ سے آراستہ ہو کیونکہ ہمت ہی انسان کی شخصیت میں اثبات و نفی کا مرکز ہے۔ جو ارجح کی نگران ہے۔ وہ محسوس ایندھن اور شعلہ بد اماں قوت ہے جو انسان کو معالی و مجاہد میں مسابقت پر ابھارتی ہے۔ بلند ہمتی اللہ کے اذن سے آپ کو غیر منقطع خیر سے نوازے گی، درجہ کمال سے سرفراز کرے گی، لوگ آپ کو فضائل کے باب پر کھڑا دیکھیں گے، علم و عمل کے میدان میں تیز مسابقت اور مردانگی کا لہو آپ کی رگوں میں دوڑے گا۔ آپ کے ہاتھ مہمات امور کے لئے ہی پھیلیں گے، سابقین و قائدین کا مقابلہ کریں گے۔ کم پر راضی نہ ہوں گے، خیر میں پس و پیش نہ کریں گے، آخری صف میں کھڑے نہ ہوں گے۔ بلند ہمتی سے سرفرازی آپ کو چھوٹے کاموں اور حقیر امیدوں میں لگنے نہ دے گی۔ ذلت، تملق و کاسہ لیسے کے جراثیم آپ کے اندر سے مرجائیں گے۔ بلند ہمت ثابت قدم ہوتا ہے، سخت و دشوار منزلوں سے ڈرتا نہیں۔ جب کہ کم ہمت بزدل اور ڈرپوک ہوتا ہے، اس کا منہ بند رہتا ہے۔

یہاں آپ تکبر اور بلند ہمتی کو ایک سمجھ لینے کی غلطی نہ کر بیٹھئے گا کیونکہ دونوں کے بیچ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بلند ہمتی آزاد مثالیست پسندوں کے سر کا تاج ہے جو اس کے لئے باعث طہارت ہے، پاکیزگی، ترقی اور فضیلت کے لئے کوشاں ہوتا ہے۔ بلند ہمت سے جو محاسن اور کارنامے چھوٹ جاتے ہیں اسے ان پر سخت رنج اور حسرت ہوتی ہے۔ اور وہ انتہا تک پہنچنے اور مقصد کے حصول کی مسلسل

غم نہ کریں

جدوجہد میں لگا رہتا ہے۔ بلند ہمتی وارثین انبیاء کا زیور ہے جب کہ کبر ایسی بیماری ہے جو بد بخت جاہلوں کی علت ہے۔ علو ہمتی آدمی کو ہمیشہ اوپر اٹھاتی ہے اور کبر ہمیشہ اسے نیچے گراتا ہے لہذا اے طالب عالم! اپنے آپ کو بلند ہمتی کا عادی بنا۔ اس سے کنارہ کشی نہ کر، شرع نے روزمرہ کی زندگی میں بہت سے فقہی احکام میں بلند ہمتی کا خیال رکھا ہے تاکہ آدمی ہمیشہ بیدار رہے اور ان کو غنیمت سمجھے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ مکلف اگر پانی نہ پائے تو تیمم مباح ہے۔ کوئی پانی خریدنے کے لئے قیمت دینا چاہے تو اس کو لینا ضروری نہیں، کیونکہ اس سے ہمت میں پستی آتی ہے۔ اسی پر قیاس کر لیجئے۔ بقول شاعر:

ایسی بلند ہمتیں جیسے سورج محبوب کو پیغام دے اور چاند چاندنی میں حروف لکھ دے۔ اللہ اللہ
ہمت کا رگاہ حیات اور رزم زندگانی میں کیا کیا کارنامے انجام دیتی ہے: بقول شاعر:
”جدوجہد کئے جاؤ حتیٰ کہ آنکھ دوسری آنکھ پر بھاری پڑ جائے ایک دن دوسرے پر غالب
آجائے۔“

بڑے لوگوں کی سوانح کا مطالعہ

دل اور نفس کو سرور بخشنے والی ایک چیز یہ بھی ہے کہ بڑے اور ذہین لوگوں کی عقل و ذہانت پر غور و فکر کیا جائے، ان کے روشن کارنامے کو پڑھنے والا خوشی محسوس کرتا ہے۔ سید العارفین اور خیر العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس بارے میں سب سے بڑی ہے۔ آپ پر بقیہ لوگوں کو قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ آپ کی تائید وحی سے ہوتی تھی۔ معجزات آپ کی تصدیق کرتے اور آیات بینات آپ پر اترتی تھیں۔ یہ چیزیں آپ کو اذکیاء کی ذکاوت اور ادباء کی ذہانت پر بالادستی عطا کرتی ہیں۔

”جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے“

بقراط کا قول ہے کہ ”نقصان دہ کی کمی نافع کی زیادتی سے زیادہ بہتر ہے۔“ اس نے یہ بھی کہا:
”کان وکاسل سے کام نہ چھوڑو اور کھانے پینے سے پیٹ پورا نہ بھرو صحت برقرار رہے گی۔“ ایک حکیم

کہتا ہے: ”جو صحت کا طلب گار ہے اسے چاشت کے وقت اچھا کھانا چاہئے صاف ستھرا ہو کر کھانا چاہئے، پیاس پر ہی پانی پینا چاہئے۔ پانی کم پیئے، دوپہر کے کھانے کے بعد لیٹ جائے۔ شام کے کھانے کے بعد چلے، جب پیٹ کچھ ہلکا ہو جائے تبھی سوئے، بھرے پیٹ نہ نہائے، گرمی میں ایک بار کا کھانا سردی کے دس کھانوں کے برابر ہے۔“

حارث کا قول ہے: جو زیادہ عمر چاہتا ہے (حالانکہ بقاء دنیا میں ملتی نہیں) اسے صبح کا کھانا جلد لینا چاہئے۔ شام میں بھی جلد کھائے، بستر ہلکا رکھے، عورتوں کے پاس کم جائے۔“ افلاطون کہتا ہے: پانچ چیزیں بدن کو پگھلا ڈالتی ہیں، بلکہ قتل تک کر دیتی ہیں، کم مال، دوستوں کی جدائی، غیظ و غضب کی باتیں، خیر خواہی کو نہ ماننا اور یہ کہ جاہل عقل مندوں کا مذاق اڑائیں۔“ جالینوس سے پوچھا گیا کہ وہ بیمار کیوں نہیں ہوتا، کہا: کیونکہ میں دو کھانے ساتھ ساتھ نہیں کھاتا، برا کھانا نہیں کھاتا، جس چیز سے اذیت محسوس ہو اسے معدہ میں باقی نہیں رکھتا۔“ بقراط کے جامع اقوال میں سے ہے کہ ”ہر چیز کی کثرت فطرت کے مخالف ہے۔“

چار چیزیں جسم کو بیمار کر دیتی ہیں: زیادہ بولنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا اور جماع کی کثرت۔ زیادہ بولنے سے دماغ کا بھیجا کمزور ہوتا ہے بڑھاپا جلد آتا ہے۔ زیادہ سونے سے چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے، آنکھ کو نقصان ہوتا ہے، کسل مندی آتی ہے۔ اور مشکل بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کثرت جماع سے بدن کمزور، قوی ضعیف ہوتے ہیں، بدن کے رطوبات خشک ہو جاتے اور پٹھے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، سدے پڑ جاتے اور پورے جسم کو اس کا نقصان پہنچتا ہے، بطور خاص دماغ زیادہ متاثر ہوتا ہے کیونکہ جو ہر نفسانی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے جس سے جسم کا جو ہر گھلتا رہتا ہے، چار چیزیں بدن کو توڑ دیتی ہیں۔ غم، فکر، بھوک، بے خوابی اور چار چیزیں خوشی دیتی ہیں، سرسبزی، جاری پانی، محبوب اور پھلوں کو دیکھنا۔ بقول شاعر:

شام کو ہم نے وہ پیارے پیارے چہرے دیکھے کہ ان کے حسن و جمال سے روح سرشار ہو گئی۔
چار چیزیں ایسی ہیں جو نگاہ کو کمزور کرتی ہیں۔ ننگے پاؤں چلنا، صبح و شام کسی قابل نفرت، بدخلق اور دشمن کو دیکھنا، کثرت سے سونا، باریک خط کو زیادہ دیکھنا۔ چار چیزیں جسم کو مضبوط بناتی ہیں، نرم کپڑا

غم نہ کریں

پہننا، معتدل حمام میں داخل ہونا، بیٹھا اور چکنائی کھانا اور خوش بوئیں سونگھنا، چار چیزیں چہرہ کو سکھاتی اور اس کی رونق و چمک زائل کر دیتی ہیں۔ جھوٹ، بے شرمی، بغیر علم کے سوال کرنا، کثرتِ فحور۔ چار چیزیں چہرہ کی رونق و زیبائش دو بالا کرتی ہیں، مردانگی، وفا، کرم اور تقویٰ۔ چار چیزیں بغض و نفرت پیدا کرتی ہیں کبر، حسد، جھوٹ اور چنچل خوری۔ چار چیزیں روزی لاتی ہیں قیام لیل، راتوں میں کثرت سے استغفار برابر صدقہ دیتے رہنا اور صبح و شام ذکر کرنا۔ بقول شاعر:

میں نے رات سے کہا کہ کیا تیرے سینہ میں کوئی راز ہے۔ کیونکہ تو وہ ہے جس میں داستانیں اور راز سر بستہ ہیں۔ بولی میری زندگی میں ایسا کوئی راز نہیں سوائے دوستوں کا راتوں میں باتیں کرنا۔ یعنی اہل اللہ کا ذکر خفی۔

چار چیزوں سے روزی میں کمی آتی ہے صبح کی نیند، نماز کم پڑھنا، سستی اور خیانت، چار چیزیں فہم اور ذہن کو نقصان دیتی ہیں کھٹ۔ ی چیز اور میوے برابر کھانا، گدی کے بل سونا اور رنج و فکر، چار چیزیں فہم اور ذہن کو جلا دیتی ہیں۔ فارغ البالی، خوش دلی سے کھانا، غذا میں چکنائی اور میٹھی چیزیں ڈال کر لذیذ بنانا، بدن سے فربہی کم کرنا۔

احتیاط برتنے

بیدار مغز وہ ہے جو توقف کرتا ہے، دیکھتا اور غور کرتا نظر ثانی کرتا ہے، عواقب کو پڑھتا اور قدموں کو تولتا ہے، رائے قائم کرنے میں محتاط رہتا ہے تاکہ وہ نادم نہ ہو۔ اگر معاملہ ویسے ہی ہوا جیسے اُس نے سوچا تھا تو وہ اللہ کی حمد کرتا اور اپنی رائے کو بہتر سمجھتا ہے، اگر معاملہ دیگر ہوا تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہی مقدر کیا تھا۔ اس پر راضی رہتا ہے اور ناخوش نہیں ہوتا۔

سمجھنے کی بات ہے

عقل مند ثابت قدم اور اپنی بات پر جمنے والا ہوتا ہے۔ جب خبریں مختلف ہوں اور مسائل پیچیدہ تو وہ درست بات تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ وہ ظاہری باتوں کو نہیں لیتا نہ جلد بازی میں حکم لگاتا ہے۔

جو وہ سنتا ہے اس کی تحقیق کرتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، عاقلوں سے مشورے کرتا ہے کیونکہ بچی اور پنی تلی رائے ادھ بچی سے بہتر ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم درگزر میں غلطی کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ سزا دینے میں غلطی کرو۔

”مبادا تم اپنے کئے پر نادام ہو۔“ (۶:۴۹)

عزیمت کے ساتھ اقدام کرو

یہاں جتنی آیات، اشعار، حدیثیں، عبرتیں، قصے اور حکمتیں پیش کی جا رہی ہیں ان کا پیغام آپ کے لئے یہی ہے کہ آپ ایک نئی زندگی شروع کریں، جس میں حسن عاقبت کی اُمید ہو، حسین خاتمہ و بہتر نتائج کی توقع ہو۔ آپ اس ہمت و عزم صادق کے ذریعہ ہی اپنے رنج و فکر، غم و فکر اور اکتاہٹ و افسردگی سے باہر نکل آئیں گے۔ ایک عالم سے کہا گیا: بندہ کیسے توبہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے لئے عزیمت کی ضرورت ہے۔ اسی لئے اللہ نے اولوالعزم لوگوں کو ہمت بھی دی ہے، فرمایا:

”پس صبر کریں جیسے اولوالعزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔“ (۳۵:۴۶)

حضرت آدمؑ میں عزم کی کمی تھی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

”وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم کی کمی پائی۔“ (۱۱۵:۲۰)

یہی حال ابن آدم کا ہے۔ عزم ایسی چیز ہے جو اونچی ناک سے پہچان لی جاتی ہے، اگر کوئی آدمی آدم جیسا ہو تو کوئی زیادتی کی بات نہیں لیکن اُسے گناہوں میں ان کی پیروی نہیں بلکہ توبہ میں ان کی پیروی کرنی چاہئے۔

دُنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے

آخرت کی سعادت دُنیا کی سعادت سے وابستہ ہے، عقل مند کو جانا چاہئے کہ یہ زندگی اُس سے متصل ہے۔ زندگی ایک ہی ہے غیب و شہادت دُنیا و آخرت، آج اور کل، بعض دُنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ وہ مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور بقاء چاہتے ہیں حالانکہ ان کو فانی زندگی ملی ہے۔ پھر

حب وہ مر جاتے ہیں تو کتنی آرزوئیں، امنگیں اور حسرتیں سینہ میں رہ جاتی ہیں :

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پدم نکلے

بہت نکلے مرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے

(عالم)

ہم صبح و شام اپنی ضرورتوں کے لئے نکلتے ہیں لیکن جو زندہ ہے اس کی ضرورت کبھی ختم نہ ہوگی، آدمی کی موت کے ساتھ ہی اس کی حاجتیں ختم ہوتی ہیں، جب تک زندگی ہے ضرورت باقی رہے گی، صبح و شام کے آنے جانے نے بچہ کو جوان اور بوڑھے کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب ایک دن ڈھل جاتا اور رات آتی ہے تو دوسرا دن نوجوان اور تروتازہ نکلتا ہے۔

مجھے اپنے اوپر اور ارد گرد کے لوگوں پر حیرت ہوتی ہے، دور کی آرزوئیں، لمبے لمبے خواب بڑی امنگیں، جیسے چلے جانے کے ارمان، عجیب عجیب خواہشیں، پھر آدمی اس طرح چلا جاتا ہے کہ اس سے نہ کوئی مشورہ لیا جاتا ہے اور نہ اس کا کچھ اختیار اور نہ خبر۔

”کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا۔“ (۳۳:۴۱)

آپ کے سامنے ہم تین حقائق پیش کرتے ہیں: پہلی یہ کہ جب آپ اپنے رب کے احکام، فیصلے اور قضا و قدر سے راضی نہ ہوں گے اپنے رزق، صلاحیتوں اور پونجی پر مطمئن نہ ہوں گے تو سکون و اطمینان اور راحت کہاں ملے گی؟ دوسری یہ کہ آپ کو جو نعمتیں، خیر اور احسانات حاصل ہوئے کیا ان کا شکر ادا کر لیا کہ اور دوسری چیزوں کا سوال اور مطالبہ کرنے لگے جو تھوڑے سے عاجز ہو وہ زیادہ کی بجا آوری کیسے کر سکتا ہے؟ تیسرے ہم اللہ کے عطیات سے مستفید کیوں نہیں ہوتے کہ انہیں شمر خیز بنائیں، انہیں بڑھائیں، ان کو اچھی طرح کام میں لائیں، اور نقائص اور کمیوں سے پاک کریں اور زندگی میں ان کو نفع بخش بنادیں۔ صفات حمیدہ اور بڑی صلاحیتیں ہماری عقل اور بدن میں نختہ ہیں لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کے نزدیک وہ ایسی ہی ہیں جیسے مٹی میں قیمتی کانیں اور مدفون معدنیات جو نظروں سے اوجھل ہوں۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں مٹی سے نکالے دھوئے صاف کرے اور چمکا کر رکھ دے کہ سب دیکھ کر ان کی قدر کریں۔

نہ کہیں جہاں میں اماں ملی

پکڑ کے ڈر سے روپوشی ایک وقتی حل ہے جب تک آزادی کی پوری راہ نہ کھلے۔ عبدالغنی الازدی کی ایک کتاب ”کتاب المتوارین“ نامی ہے۔ کتاب کیا ہے ادب لطیف کا مجموعہ ہے۔ وہ حجاج بن یوسف کے خوف سے چھپ جانے والوں کے احوال بیان کرتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے یہ علم ہوا کہ زندگی میں آسانی ہے، شرم میں خیر مضمر ہے اور بسا اوقات ناپسندیدہ سے نجات مل جاتی ہے۔ ایورڈی اپنی روپوشی پر یوں روشنی ڈالتا ہے:

”اس کے سایہ عاطفت میں ایک زمانہ تک روپوش رہا، میری آنکھ زمانہ بھر کونہ دیکھتی، بس مجھے دیکھتی، اگر تم گردش ایام سے میرے بارے میں اور میرے ٹھکانے کے متعلق پوچھتے تو اسے بھی معلوم نہ ہوتا اور نہ بتا پاتی۔“

ابو عمرو بن العلاء جیسا فصیح و بلیغ ادیب کبیر آزمائش کے دنوں کی اپنی پتاپیوں بیان کرتا ہے: ”مجھے حجاج نے خوف زدہ کیا تو میں یمن بھاگ گیا، صنعاء کے ایک گھر میں پناہ لی، رات میں گھر کی چھت پر اور دن میں اندر چھپا رہتا ایک دن گھر کی چھت پر تھا کہ ایک آدمی کو یہ شعر پڑھتے سنا:

”لوگ ایسے معاملہ سے ڈر رہے ہیں جس میں ایسی فراخی پیدا ہوگئی ہے جیسے گرہ کھل جائے۔“

اس وقت میں نے محسوس کیا اور کہا کہ ہاں دل میں فراخی ہوگئی، مجھے اُس سے خوشی ہوگئی۔ پھر ایک آدمی نے بتایا: حجاج مر گیا ہے۔ بخدا مجھے یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ دونوں میں کس خبر پر زیادہ خوشی مناؤں، فراخی پر یا حجاج کی موت پر“

حسن بصریؒ بھی حجاج سے چھپے ہوئے تھے انہیں اس کی موت کی خبر پہنچی تو انہوں نے بھی اللہ کا شکر یہ ادا کیا، سجدہ تشکر بجلائے۔ کیا خدا کی شان ہے کہ ایک مرتا ہے تو دوسرا اس کی موت پر خوشی کے مارے سجدہ تشکر کرتا ہے۔

”نہ انہیں آسمان رویا نہ زمین نہ ان کو اس کی خبر دی گئی تھی“

دوسرے مرتے ہیں تو ان کے گھر ماتم کدے بن جاتے ہیں۔ پلکیں بھگ جاتی ہیں۔ دل اندر

غم نہ کریں

ہی اندر زخمی ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم خلی بھی حجاج کے خوف سے چھپے ہوئے تھے انہیں بھی اُس کی موت کی خبر ملی تو وہ خوشی سے رو پڑے :

”خوشی ایسی طاری ہوئی کہ خوشی کی زیادتی نے مجھے رلا دیا۔ ارحم الراحمین کی آغوش میں خوف زدوں کے لئے پراسن پناہ گاہیں ہیں۔ کیونکہ وہ ظالم و مظلوم اور غالب و مغلوب سب کو دیکھتا ہے۔“

”ہم نے بعض کو بعض کے لئے آزمائش بنا دیا ہے کہ کیا تم صبر کرتے ہو اور تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔“ اس سے مجھے یاد آیا کہ حمزہ پرندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر منڈ لایا۔ آپ صحابہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ پرندہ زبان حال سے اس شخص کی شکایت کر رہا تھا جس نے اس کے گھونسلہ سے اس کے چوزے اٹھائے تھے۔ آپ نے فرمایا ”کس نے اس کے بچے اٹھا کر اسے تکلیف دی ہے؟ اس کے بچے واپس کر دو۔“ اسی بارے میں ایک شاعر نے کہا :

”آپ کے پاس ایک دل گرفتہ فاختہ آئی جو اپنے دل بے تاب کا شکوہ کر رہی تھی، اسے کسی نے بتا دیا کہ آپ کا مکان حرم ہے اور آپ خوف زدہ کے بلجاو ماویٰ ہیں۔“

سعید بن جبیر بھی حجاج سے چھپ کر بھاگے۔ کہتے ہیں کہ پھر مجھے اللہ سے شرم آئی اور باہر آ گیا۔ انہیں پکڑ کر حجاج کے پاس لایا گیا۔ سر پر تلوار لٹک رہی تھی کہ مسکرائے، حجاج نے پوچھا کیوں مسکراتے ہو؟ فرمایا مجھے حیرت ہوئی کہ تو اللہ پر کس قدر جری ہے اور اللہ تیرے ساتھ کتنا علم برت رہا ہے۔ سبحان اللہ! کتنا بڑا دل تھا ان کا اور کتنا انہیں اللہ پر بھروسہ تھا۔ اپنے اچھے انجام اور حسن عاقبت کا یقین تھا۔ اسی طرح ایمان ہونا چاہئے۔

آپ کا معاملہ ارحم الراحمین سے ہے

ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی مجھے بھی اُس نے متوجہ کیا حدیث احمد ابو یعلیٰ الہزازی اور الطبرانی نے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا آدمی لاٹھی شیکتا ہوا آیا اور عرض کیا ”یا رسول اللہ! میں نے غدر اور فجور کے بہت سے کام کئے ہیں میری بخشش ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں آپ فرمایا: تب اللہ

تمہارے غم و رنجور کے کام معاف کر دے گا، وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہوا چلا گیا۔ اس حدیث سے کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ارحم الراحمین کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اسلام پہلے کی چیزیں ڈھا دیتا ہے، توبہ ماقبل کی باتوں کو ساقط کر دیتی ہے اور گناہوں کے بڑے بڑے پہاڑ علام الغیوب بالکل معاف کر دے گا اور تمہارے اوپر واجب ہے کہ مولیٰ تعالیٰ سے حسن ظن، اس کے کرم عمیم اور رحمت واسعہ کی امید رکھو۔

نیک فال لیجئے

ابن ابی الدنیا کی کتاب ”حسن الظن باللہ“ میں آیات واحادیث کے ۱۵۰ نصوص پیش کئے گئے ہیں جن کا فائدہ یہ ہے کہ نیک فال لیجئے یا س وقنوط کو چھوڑ دیجئے، ہمیشہ حسن ظن رکھئے حسن عمل اختیار کیجئے کیونکہ وعدے کی نصوص وعید کی نصوص سے زیادہ ہیں۔ رحمت کی دلیلیں تہدید کی دلیلوں سے زیادہ ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کی مناسب قدر و قیمت متعین کی ہے۔

زندگی دھوپ چھاؤں ہے

زندگی کی کدورتوں سے اکتائیے نہیں؛ اس کے علاوہ زندگی میں ہے ہی کیا۔ مصیبت اور تکلیف دینیوی زندگی کی اصل ہیں، خوشی یہاں عارضی ہوتی ہے۔ فرحت و سرور یہاں ایک نادر چیز ہے۔ وہ اچھی تو لگتی ہے لیکن اللہ کو اپنے نیک بندوں کے لئے دنیا کا مستقر بنانا پسند نہیں؟ اگر دنیا امتحان گاہ نہ ہوتی تو یہاں بیماریاں اور کدورتیں نہ ہوتیں، یہاں انبیاء اور صلحاء کو رہنا دشوار نہ ہوتا۔ آدم علیہ السلام نے دنیا سے جانے تک تکلیفیں اٹھائیں۔ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم جھٹلاتی اور ٹھٹھا کرتی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، بیٹے کو ذبح کرنا پڑا۔ یعقوب علیہ السلام روتے رہے حتیٰ کہ بینائی چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا ظلم برداشت کرنا پڑا۔ ان کی قوم نے ایذا پہنچائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے غربت و عسرت کی زندگی گزاری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فقر کا سامنا رہا، محبوب چچا حمزہ کے قتل پر اور اپنی قوم کی اذیتوں پر صبر کرنا پڑا۔ ان کے علاوہ اور بھی انبیاء و صلحاء نے اذیتیں اٹھائیں۔ ان کا تذکرہ طولانی ہے۔ دنیا کی لذت میں مومن کا حق بہت کم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”دنیا

غم نہ کریں

مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے۔“ دنیا میں صالحین کو قید و بند کیا جاتا ہے باعمل علماء کبار اولیاء اور صالحین کی زندگیاں اجرن کر دی جاتی ہیں۔ سچ کہا ہے شاعر نے:

دنیا ہے سکھ سے خالی دکھ چار سو بھرا ہے
غم کے سوا یہاں پر سوچو تو کیا دھرا ہے

وقفہ

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا:

”جس کا مقصد دنیا ہو اللہ اس پر اس کے معاملات متفرق کر دیتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے فقر رکھ دیتا ہے دنیا سے اسے وہی ملتا ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ جس کی نیت آخرت ہو اللہ اس کے معاملات یکجا کر دیتا ہے، اس کو دل کا غنا حاصل ہوتا ہے، دنیا اس کے پاس مجبور ہو کر آتی ہے۔“

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا:

”جو اپنی تمام فکریں آخرت کے لئے کر لے اللہ اسے دنیا کی فکر سے نجات دے گا اور دنیا کے احوال میں جس کی فکریں مرتکز ہوں اللہ کو کیا پروا کہ کسی وادی میں وہ ہلاک ہوگا۔“

وحشیوں کے طریقے چھوڑ دو صبر کی پناہ لو، خوش رہو گے۔ کیونکہ تاریکیاں بھی چھٹ جائیں گی۔ بغیر شکر کے تم رواداری برتتے ہو اور بغیر حرج کے تم ہمیں روکتے ہو۔ اللہ کا لطف آ جاتا ہے تو مومنین چھٹ جاتی ہیں۔ وہ تنگی سے فراخی اور غم سے خوشی لاتا ہے۔

اعتدال ہی میں راہِ نجات ہے

سعادت کا کمال تین چیزوں پر ہے:

(۱) غضب میں اعتدال ہو (۲) شہوت میں اعتدال ہو (۳) علم میں اعتدال ہو۔

آدمی کے لئے ضروری ہے کہ اس کا ہر معاملہ معتدل ہوتا کہ قوت شہوت نہ بڑھے کہ رخصتیں ڈھونڈے اور ہلاک ہو جائے۔ قوت غضب کے بڑھنے سے سرکشی بڑھے گی آدمی ہلاک ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے ”تمام امور میں اعتدال بہتر ہے۔“ جب قوت علم کے اشارہ پر یہ دونوں امور معتدل ہو جائیں تو ہدایت کا راستہ ملے گا۔ اسی طرح غضب اگر بڑھ جاتا ہے تو مرنے مارنے پر آدمی اتر آتا ہے اور اگر غصہ کم ہو جاتا ہے تو غیرت اور دین و دنیا کے بارے میں حمیت چلی جاتی ہے۔ اعتدال پر رہے تو صبر، شجاعت اور حکمت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی شہوت بڑھ جائے تو فسق و فجور بہت ہو جائے گا اور اگر کم ہو جائے تو عاجزی اور فتور پیدا ہو جائیں گے لیکن اگر معتدل رہے تو عفت اور قناعت حاصل ہوگی۔ حدیث میں ہے

”تم پر لازم ہے کہ معتدل قربانی دو۔“

قرآن کہتا ہے کہ ”اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔“ (۱۴۳:۲)

آدمی اپنی غالب صفات کے ساتھ

یہ اچھی بات ہے کہ خیر کی صفات بری عادتوں پر غالب ہوں اور آپ کو ہر معاملے میں تعریف کے قابل بنادے۔ تب آپ میں کوئی برائی بھی ہوگی تو لوگ مانیں گے نہیں کیونکہ پانی زیادہ ہو تو گندی چیز نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ پہاڑ سے ایک پتھر گھٹا لیا یا بڑھا دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے پڑھا ہے کہ حلیم العرب، قیس بن عاصم، شریف و نخی برا مکہ اور مشہور سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کی ہجو کی گئی اور سخت نکتہ چینی کی گئی، میں نے پایا کہ یہ تنقید اور سب و شتم محفوظ نہیں رہی نہ نقل ہوئی اور نہ کسی نے اس کی تصدیق کی کیونکہ محاسن اور کارناموں کے سمندر میں یہ قطرہ تھا جو گم ہو گیا۔ اسی کے مقابلہ میں حجاج، ابومسلم الخراسانی اور حاکم باہر اللہ العبیدی کی خوب مدح و ثنا کی گئی لیکن وہ تعریف اور تصیّدے نہ محفوظ رہے نہ منقول ہوئے اور نہ کسی نے ان کو سچ مانا کیونکہ وہ ان کے ظلم و جور اور جھوٹ کے طوفان میں دب کر رہ گئے۔

آپ اسی طرح پیدا ہوتے ہیں

حدیث میں ہے ”ہر آدمی جس چیز کے لئے بنا ہے وہ اس کے لئے آسان کر دی جاتی ہے۔“ تب فطری صلاحیتوں، صفتوں اور قوتوں کو توڑا مروڑا کیوں جائے؟ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ اس سے زیادہ بد بخت اور بد نصیب کوئی نہیں جو اپنے آپ کو بدلنا چاہے، ہوشیار و عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پڑھتا ہے اور اپنی جگہ مطمئن رہتا ہے، جس کام کے لئے وہ بنا ہے اس میں خلا دور کر دیتا ہے۔ پہرے داری میں ہو یا مقدمہ لٹیشن میں ہر جگہ لوہا منواتا ہے۔ شیخ انجوسیبویہ نے پہلی حدیث پڑھی۔ لیکن آگے نہ بڑھ سکا اس کے ذہن نے ساتھ نہ دیا تو اُس نے علم نحو کو سیکھا اور اس میں مہارت حاصل کر کے اپنا لوہا منوا لیا۔ ایک حکیم کہتا ہے جو آدمی اپنے ذمہ وہ کام لیتا ہے جسے وہ کر نہیں سکتا اُس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص دمشق کے مرغزار میں کھجور کا پودہ لگائے اور حجاز میں اس سے ترنج کا پھل توڑنا چاہے۔

حسان بن ثابتؓ اذان اچھی طرح نہیں دے سکتے تھے کیونکہ وہ بلالؓ نہ تھے، خالد بن ولیدؓ میراث تقسیم نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ زید بن ثابتؓ نہ تھے۔ علماء تربیت کہتے ہیں کہ اپنے مقام کی تحدید کیجئے :

معرکہ کارزار کے لئے مرد میدان الگ ہیں اور دیوان خانوں کے محرر اور کاتب الگ ہیں۔

ذہانت کے لئے نیکی و پاکیزگی بھی درکار ہے

بی بی سی سے یہ خبر میں نے سنی کہ مشہور مصنف اور نوبل انعام یافتہ ادیب نجیب محفوظ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ مجھے اس کی کتابیں یاد آئیں جو اس سے قبل پڑھی تھیں۔ مجھے حیرت ہے کہ اتنا ذہین آدمی یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ حقیقت خیال سے بڑی اور نیکی فناء سے برتر ہے، آسمانی اصول زمینی اصول سے بڑھ کر ہیں ”کیا وہ جو حق کی رہنمائی کرتا ہے اتباع کا زیادہ حق دار ہے یا وہ جو خود راستہ بھی نہیں پاسکتا جب تک اسے بتایا نہ جائے“ نجیب محفوظ نے اپنے زرخیز ذہن اور دقت نظر، قوت عرض اور جذبات کی

برا بچھتھی سے کام لے کر ڈرامے اور فن پارے لکھے ہیں لیکن آخری تجربہ میں وہ غیر صحیح اور ناکام ہی ہیں۔ نجیب کی زندگی کے مطالعہ سے ایک بڑی بات سمجھ میں آئی کہ خوش نصیبی یہ نہیں کہ دوسروں کی خوشی و راحت کی قربانی پر آپ کو خوشی و راحت مل جائے یا آپ افسردہ و غمگین ہوں اور کوئی خوشی منائے۔ بعض مصنفین بعض طرح نوڈالنے والوں کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ وہ اپنے سوز جگر سے دوسروں کے لئے راستہ روشن کرتے ہیں۔ لیکن صحیح بات اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود بھی روشنی میں رہے اور دوسروں کے لئے بھی مینارہ نور بنے۔ اس کا دل بھی خیر، ہدایت اور روشنی کی آماجگاہ ہوتا کہ دوسروں کے دل و روح بھی آباد ہوں۔ لیکن نجیب محفوظ کی تحریروں میں آخرت اور عالم غیب کا کوئی نشان نہیں ملتا، ہاں اس کے ہاں خیال، تصویر، دنیا، شہرت، جاذبیت اور جذبات نگاری ہے۔ لیکن حق، مقصد، مشن اور عہد کے جلوے کہاں ہیں؟ نجیب محفوظ نے دنیا میں جو مقصد بنایا حاصل کر لیا۔

”ہم دنیا میں ان کو اور ان کو سب کو دیا کرتے ہیں، تیرے رب کی عطاء ہے، اور تیرے رب کی بخشش کوئی روکنے والا نہیں۔“ (۲۰:۱۷)

لیکن اتنا کافی نہیں کہ آدمی جو چاہے پالے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہاں تک انسان پہنچے:

”اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لئے تم سے پہلوں کے طریقے اور راستے کھول کھول کر بیان کر دے، تمہاری توبہ قبول کرے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے جب کہ خواہشات کے پیچھے چلنے والے تمہیں بالکل گمراہ کر دینا چاہتے ہیں۔“ (۲۶:۴-۲۷)

بخدا میں کسی کے جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ نہیں کر رہا ہوں یہ تو شرع کا کام ہے، شرعی دلائل ہی اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں تو لوگوں کے اقوال و آثار اور اعمال پر ایک نظر ڈالی جا رہی ہے۔

”یقیناً آپ انہیں ان کی بات کی ڈھب سے پہچان لیں گے“ (۳۰:۴۷)

کاش کہ سبھی لوگ ہدایت یاب ہوتے اور جنت میں جاتے جس کا عرض آسمان وزمین ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس کسریٰ کی بادشاہت اور قیصر کا اقتدار بھی ہو لیکن دل پر باطل چھایا ہو، خیر

کی اُمید کھوئی گئی ہو تو اس کو ان سب سے کیا ملے گا، صلاحیت اگر نجات کا سبب نہ بنے تو اس کا نفع اور شمرہ کیا ہے؟

صاحب جمال بننے کا نجات بھی حسین لگے گی

شریعت کے دائرہ میں ہمیں زندگی کی تمام خوشیاں اور دل فریبیاں حاصل ہوں تو سونے پر سہاگہ ہے کہ اللہ نے ہی دل کش باغات بنائے ہیں، وہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے، اس کی دل کش تخلیق میں ہمیں وحدانیت کی آیات پڑھنی چاہئیں۔

”وہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کی تمام مخلوقات پیدا کر دی ہیں۔“ (۲۹:۲)

اچھی خوشبو لذیذ کھانا اور دل فریب منظر سے شرح صدر میں اضافہ ہوتا ہے۔ روح کھل اٹھتی

ہے۔ ”جو زمین میں ہے اُس سے حلال طیب کھاؤ“ (۱۶۸:۲)

حدیث میں آیا ہے ”تمہاری دنیا میں سے دو چیزیں میرے لئے محبوب بنائی گئی ہیں۔ خوش بو

اور عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔“

واقعہ ہے کہ تاریک خیال زہد اور اندھے تقویٰ نے جو زیادہ خود ساختہ ہیں ہم میں سے بہت

سوں کی زندگی سے خوشیاں چھین لیں ہیں اور زندگی کو رنج و فکر، بھوک، پیاس، تہجد اور شب بیداری بنا کر

رکھ دیا ہے، جب کہ رسول اکرم فرماتے ہیں

”لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، نماز پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ شادی

بھی کرتا ہوں، اور گوشت بھی کھاتا ہوں، پس جو میری سنت سے اعراض کرے گا اُس کا مجھ سے تعلق

نہیں ہے۔“

بعض گروہوں نے خود ہی سے اپنے آپ کو مختلف چیزوں کا پابند بنا لیا ہے۔ یہ تر چیزیں نہ

کھائے گا، وہ ہنسے گا نہیں، یہ ٹھنڈا پانی نہ پئے گا۔ کیا عجیب بات ہے جیسے بیچاروں کو معلوم ہی نہ ہوا کہ یہ

نفس کی تعذیب ہے۔ اس کی روشنی کو ماند کر دینا ہے۔

”کہہ دو اللہ نے بندوں کے لئے جو زینت اور پاکیزہ رزق اتارا ہے اُسے کون حرام کر سکتا

ہے۔“ (۳۲:۷)

ہمارے رسولؐ دنیا کے سب سے بڑے زاہد تھے آپؐ شہد استعمال فرماتے تھے کیونکہ اللہ نے شہد اسی لئے بنایا ہے کہ کھایا جائے۔

”شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے ایسا مشروب نکالتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے۔“ (۶۹:۱۶)

آپؐ نے بیواؤں اور کنواریوں سے شادی بھی کی:

”جو عورتیں پسند آئیں ان میں دو دو تین تین چار چار سے شادی کرو۔“ (۳۰:۴)

آپؐ نے عید وغیرہ میں بہترین کپڑے بھی پہنے

”ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔“ (۳۱:۷)

یعنی نبیؐ روح کا حق اور جسم کا حق دونوں ادا کرتے تھے۔ دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی چاہتے تھے کیونکہ دین فطرت لے کر آئے تھے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔

دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنگ تابی

ایک مؤلف لکھتا ہے ”شداید کتنے ہی کیوں نہ ہوں ان کی شدت اور امتداد کیسا ہی ہو ہمیشہ نہیں رہتے بلکہ جتنی زیادہ ان کی شدت، گہرائی اور تاریکی ہوگی اتنی ہی جلد ان کے چھٹ جانے اور زائل ہونے کا وقت قریب ہوگا۔ اور یسر، فراخی، کشادگی، خوش حالی اور روشنی آئے گی، جب ابتلا و آزمائش انتہا کو پہنچتی ہے اللہ کی مدد اور احسان بھی اسی وقت حاصل ہوتا ہے۔ اُنق سے آفتاب اُبھرتا اور گراں خوابی کا دور چلا جاتا ہے۔ بقول شاعر :

ایک ہی ساعت ہوتی ہے جو جلدی سے گزر جاتی ہے اور چلتے رہنے والا منزل کا راستہ پالیتا

ہے۔



بغض و حسد سے بالاتر ہو جائیے

سب سے زیادہ خوش اور شرح صدر کے ساتھ آخرت کا طالب ہوتا ہے۔ لوگوں کو اللہ کی جو نعمتیں ملی ہیں ان پر حسد نہیں کرتا، بلکہ خیر، نیکی اور احسان جیسی قدروں کی نمائندگی کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ ہی پہنچانا چاہتا ہے یا کم از کم انہیں نقصان نہیں پہنچاتا۔ دیکھئے کہ حضرت ابن عباسؓ جو علم کے سمندر اور ترجمان القرآن کہے جاتے ہیں اپنے حسن اخلاق، سخاوت نفس اور شرعی آسانوں کے رجحان کے باعث بنی امیہ اور بنو مروان وغیرہ جیسے دشمنوں کو دوستوں میں بدل لیتے ہیں۔ چنانچہ لوگ ان کے علم و فہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مجالس اور مساجد ان کے فقہ، ذکر، تفسیر اور خیر کے چرچوں سے گونج اٹھتی ہیں۔ آپؓ جمل اور صفین کو فراموش کر کے مثبت اور تعمیری کاموں میں لگ جاتے ہیں، ٹوٹے کو جوڑتے اور زخموں کو مندمل کرتے ہیں۔ لہذا سب آپ سے محبت کرتے ہیں اور صحیح طور پر فقیہ الامت قرار دیئے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس حضرت عبداللہ بن زبیرؓ جیسا عابد زاہد اور بلند انسان تصادم کی پالیسی اپناتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو روایت حدیث کا موقع نہیں ملتا اور مسلمانوں کا سواد اعظم بھی ان سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر حرم کا المیہ پیش آیا کہ آپؓ کو کعبہ کی پناہ یعنی پڑی اور بد بخت دشمنوں نے کعبہ پر سنگ باری کی، ہزاروں لوگ قتل ہوئے۔ پھر آپؓ کو شہید کر کے سولی پر لٹکا دیا گیا ”اللہ کا فیصلہ یہی تھا جو ہو کر رہا۔“ ہم ان حضرات کی جلالت قدر کو گھٹانا اور ان کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے بلکہ یہ ایک تاریخی مطالعہ ہے جس میں ہمارے لئے عبرت کا سامان ہے۔ رفق، نرمی درگزر اور غفو جیسی صفات سے انسانوں میں کم ہی لوگ متصف ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس کے لئے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ سیادت کے حصول کی خواہش کو مارنا ہوتا ہے۔

وقفہ

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ کے معرفت خوشحالی میں حاصل کرو اللہ تمہیں شدت کے دنوں میں یاد رکھے گا۔“ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ تقویٰ اختیار کرے گا اسے اللہ کے حدود

وہ حقوق کا پاس و لحاظ رہے گا۔ تو اس کے ذریعہ اس کے اور اللہ کے مابین ایک خاص قسم کا تعلق پیدا ہو جائے گا جس کی وجہ سے تنگ حالی میں اللہ سے تہانہ چھوڑے گا بلکہ مصیبتوں سے نجات دے گا۔ اس معرفت خاصہ کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے رب سے قریب ہو، اس سے محبت کرے، اس کی پکار پر دوڑتا چلا جائے۔“

”جب بندہ کما حقہ صبر کرتا ہے، تو آزمائش اُس کے حق میں انعام بن جاتی ہے، بلاء عطیہ میں اور ناپسندیدہ چیزیں مرغوب چیزوں میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ کی بندگی خوش حالی و بد حالی، پسند و ناپسند ہر حال میں ہونی چاہئے۔ جب کہ زیادہ تر لوگ بس خوش حالی میں اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ مزہ تو جب ہے، جب بد حالی، ترشی اور بے بسی میں بھی بندگی کا حق ادا کریں۔ یہیں پر بندوں کے رویے مختلف ہو جاتے اور اسی لحاظ سے اللہ کے ہاں ان کے مراتب ہوتے ہیں۔“

علم آسانی کی کلید ہے

علم اور آسانی دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ شریعت میں تبصر علماء را سخین کو دیکھئے ان کی زندگی سہل و سادہ تھی، ان سے معاملات بہت آسان تھی۔ کیونکہ انہوں نے مقصد کو جان لیا اور مطلوب تک پہنچ گئے، ان کے برعکس وہ صوفی اور زاہد لوگ جو علم سے محروم تھے ان کا طریقہ سب سے زیادہ مشکل ہے، ان سے معاملات بہت دشوار ہوتی ہے۔ انہوں نے کچھ جملے سن لئے انہیں سمجھ نہیں سکے، کچھ مسائل تک ان کا مبلغ علم محدود تھا۔ خوارج کی مصیبت یہی تھی کہ علم نہ تھا، نہ سمجھ تھی کیونکہ حقائق جانتے نہ تھے، مقاصد معلوم نہ تھے، لہذا چھلکے سے چٹ گئے مطالب عالیہ ضائع کر بیٹھے اور امت کے حق میں ایک فتنہ بن گئے۔

یوں نہیں یوں

میں نے دو مشہور کتابوں کا مطالعہ کیا لیکن دونوں میں شریعت کے عطا کردہ سیر اور سعادت کے برعکس باتیں پائی جاتی ہے، غزالی کی کتاب ”احیاء علوم الدین“ نفس کو بھوکا مارنے، پھٹے حال رہنے

غم نہ کریں

اور اول فول بکنے کی کھلی دعوت ہے۔ اس میں وہ سارے اغلال اور بیڑیاں ہیں جنہیں ہلکا کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ انہوں نے اناپ سناپ روایات جمع کر دی ہیں جن کا بیشتر حصہ ضعیف یا موضوع ہے۔ انہیں پرانہوں نے اصول کھڑے کر لئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تک پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہیں۔ احیاء علوم الدین اور بخاری و مسلم کے مابین موازنہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک سراپا مشقت تنگی اور تکلف کی چیز ہے۔ دوسری سراپا رواداری، سہولت اور آسانی ہے۔ یہیں سے مجھے اللہ کے قول ”وَنِيَسْرِكَ لِلْيَسْرَى“ کے معنی سمجھ میں آئے۔ دوسرے ابوطالب مکی کی ”قوت القلوب“ ہے۔ انہوں نے اس پر بہت زور دیا ہے کہ دنیا ترک کر دی جائے، گوشہ نشینی اختیار کی جائے، طلب و سعی چھوڑ کر تعطل کا راستہ اپنائیں، طہبات کا استعمال نہ ہو، شدت تنگی اور مشقت کی راہیں اپنائی جائیں۔ بلاشبہ دونوں مولفین، ابو حامد الغزالی اور ابوطالب المکی، مخلص تھے، خیر چاہتے تھے لیکن کتاب و سنت کا علم دونوں کے پاس کم تھا۔ بس یہی غلطی کی بنیاد تھی۔

رہ نما ایسا ہونا چاہئے جو ماہر ہو، راستہ سے اچھی طرح واقف ہو جیسا کہ فرمایا

”لیکن ربانی ہو کتاب کا جو علم تمہیں ہے اور جو تم پڑھتے ہو اس پر عمل پیرا ہو۔“ (۷۹:۳)

سب سے زیادہ شرح صدر والے نبی اکرم ﷺ تھے

معلم خیر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے نمایاں صفت یہ تھی کہ آپ کو انشراح صدر، رضا اور سعادت کی دولت ملی تھی آپ بشارت دیتے، مشقت اور نفرت انگیزی سے روکتے تھے۔ مایوسی و قنوطیت پاس بھی نہ پہنکتی تھی۔ چہرہ پر ہمیشہ مسکراہٹ تھی رہتی دل میں رضا مندی ہوتی۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت میں آسانی ہے۔ سنت میں وسطیت و اعتدال ہے۔ ملت میں خوش نصیبی ہے۔ اور کیوں نہ ہو آپ کا تو مشن ہی لوگوں سے تنگی اور تکلف کا بوجھ اتار بھینکنا تھا۔

تدریج برتیں

مخاطبین کو عقل و شعور سے نوازنے کے لئے مناسب ہے کہ مسائل میں تدریج برتی جائے اور

اہمیت کے حساب سے درجہ بدرجہ چیزیں لائی جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اس کی تعلیم فرمائی تھی جب یمن روانہ کرتے وقت ان کو یہ وصیت کی کہ سب سے پہلے تم انہیں توحید کی دعوت دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف بلانا (الحدیث) اس طرح معلوم ہوا کہ مسئلے میں پہلا، دوسرا اور تیسرا وغیرہ درجات ہیں، تو پھر ہم مسائل میں گڈنڈ کیوں کرتے ہیں۔ اور ان کو یکبارگی کیوں پیش کر دیتے ہیں۔

”کافروں نے کہا کہ اس پر پورا قرآن بیک وقت نازل کیوں نہ ہو جاتا؟ اس لئے کہ ہم آپ کے دل کو جمادیں اور تاکہ ہم آپ کے دل کو حوصلہ دیں اور ہم نے اس کو بہترین طریقہ پر پڑھا۔“ (۳۲:۲۵)

مسلمانوں کی سعادت ہوگی اگر وہ اپنے اسلام اور اس کی تعلیمات پر ادا مردنوا ہی میں اس کے یسر و سہولت کے پہلو پر خوشی محسوس کریں۔ کیونکہ وہ اصلاً قلبی اضطراب ذہنی انتشار اور اجتماعی بے راہ روی سے نجات دلانے کے لئے آیا ہے۔

مکلف بنانا ایک مشقت ہے، دین مشقت کے ازالہ کے لئے آیا ہے۔ اس لئے شرع میں مکلف بنانے کا حکم منفی طور پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اللہ مکلف نہیں بناتا کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے بقدر“

صحابہ کرامؓ جب رسول اکرمؐ سے نصیحت کی فرمائش کرتے تو آپ انہیں کوئی جامع اور مختصر بات بتا دیتے جو شہری و دیہاتی سبھی کو یاد ہو جائے۔ آپؐ کی قیمتی وصایا اور نصح میں واقفیت، حالات کی رعایت اور آسانی کے پہلو غالب ہوتے۔ یہ غلط ہوگا کہ ہم سامعین کو ایک ہی وقت میں جو کچھ بھی ہمیں معلوم ہے بتا دیں ساری نصح، تعلیمات، سنن اور آداب انڈیل دیں

”قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس لئے اتارا کہ آپؐ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنا دیں۔“

(۱۰۶:۱۷)

بقول شاعر:

”سعد شملہ اوڑھے انہیں پن گھٹ پر پانی پینے کے لئے لایا لیکن اے سعد! اونٹ اس طرح پن

گھٹ پر نہیں لائے جاتے۔“

قلیل شکر نہیں کرتے تو کثیر پر کیسے کرو گے

جو آدمی ٹھنڈے میٹھے صاف جاری پانی پر اللہ کی حمد نہ کرتا ہو وہ زبردست مخلوق شاندار گاڑیوں اور گھنے باغات پر بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو گرم روٹی پر اس کا شکر گزار نہ ہوگا وہ لذیذ کھانوں اور اچھے دسترخوانوں پر اس کا شکر گزار کیسے ہوگا، کیونکہ منکر اور ناشکرے کے لئے قلیل و کثیر سب برابر ہیں۔ ان میں بہتیرے تو ایسے ہوں گے جنہوں نے اللہ سے مضبوط عہد و پیمانہ کئے ہوں گے کہ اگر ان کو اللہ کا انعام، فضل اور نعمت مل جائے تو وہ شکر گزار ہوں گے انفاق اور صدقہ کریں گے۔ فرمایا:

”ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے تو ہم ضرور صدقہ کریں اور ضرور صالحین میں سے ہو جائیں۔“ پس جب اس نے اپنا فضل انہیں دے دیا تو انہوں نے بخل کر کے پیٹھ پھیر لی اور اعراض کر لیا۔“ (۶:۹)

ہم اس قسم کے کتنے ہی لوگوں کو روز دیکھتے ہیں کہ وہ مضطرب، افسردہ دل، مردہ ضمیر اور رب تعالیٰ سے شاکہ ہوتے ہیں کہ انہیں بہت سارا رزق نہیں دیا حالانکہ وہ صحت و عافیت سے ہیں۔ بقدر کفاف انہیں مل رہا ہے، بعض فارغ البال ہیں، وسعت میں ہیں لیکن شکر گزار نہیں، تب اگر ایسے ناشکرے کو خزانے، کوٹھیاں اور محلات بھی دے دیئے جائیں تو وہ اپنے رب سے بھاگنے اور اپنے آقا و مولیٰ کی نافرمانی کرنے میں سب سے آگے ہوگا۔ بقول شاعر:

”وطن کا شوق دامن گیر ہے، وہ گھر ہماری نظروں کے سامنے ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب مہینہ بھر کے لئے ساتھیوں کے ساتھ سفر کریں گے؟“

ہمارا حال یہ ہے کہ جب کسی کے پاس جو تانہ ہو تو کہے گا ’اے رب! تو مجھے جوتے دے دے میں شکر گزار ہوں گا۔ جوتے مل جائیں تو شکر کو موخر کر کے گاڑی مانگتا ہے، ہم نعمت نقد مانگتے ہیں، شکر کو ادھار کر دیتے ہیں۔ اپنی خواہشات اللہ سے فوراً پوری کرانا چاہتے ہیں، اس کے احکامات پر نال مثل سے عمل کرتے ہیں۔

تین باتیں

ایک دانے اپنے آفس پر تین قیمتی لوے لگائے۔ پہلے پر لکھا ”دن کا خیال کیجئے دن کا“ یعنی آج کے حدود میں رہئے۔ دوسرے پر لکھا تھا ”سوچئے اور شکر کیجئے“ یعنی اپنے اوپر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیجئے۔ تیسرے پر لکھا تھا ”غصہ نہ کریں“ یہ تین ایسی نصیحتیں ہیں جو آپ کو سعادت کا آسان ترین اور قریبی راستہ دکھاتی ہیں۔ انہیں اپنے روزنامے میں لکھئے اور روزانہ ان کا مطالعہ کیجئے۔

وقفہ

شدت کے ساتھ فراخی اور عمر کے ساتھ یسری و ابھگی کے اسرار اور لطائف میں سے یہ ہے کہ تکلیف جب زیادہ اور بے انتہا ہو جائے اور بندے کو اس بات سے مایوسی ہو جائے کہ مخلوقات اس کی تکلیف دور کر دیں گی تو اس کا دل اللہ وحدہ لا شریک سے جڑے گا یہی اللہ پر توکل کی حقیقت ہے، ایک چیز یہ بھی ہے کہ مومن کو اگر کثرت دعا کے بعد بھی فراخی نہ ملے گی، قبولیت دعا سے مایوسی ہی ہونے لگے تو وہ اپنے کو ہی ملامت کرے گا اور کہے گا کہ میرا نفس ہی خراب ہے اس کے سبب یہ آفت ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اگر اس میں خیر ہوتا تو ضرور دعا قبول ہوتی۔ اس کا نفس کو ملامت کرنا اللہ کو بہت سی طاعات سے زیادہ پسند ہے۔ کیونکہ اس سے بندہ اللہ کے لئے انکسار و عاجزی اختیار کرتا ہے اور وہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ اسی تکلیف کا مستحق ہے اور دعا کی عدم قبولیت کا سزاوار ہے تب فوراً اللہ اس کی فریاد سنتا ہے اور اس کی تکلیف دور فرما دیتا ہے۔

صوفی ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں ”ہماری زندگی ایسی ہے کہ اگر اسے بادشاہ جان جائیں تو وہ ہم سے اس پر تلواروں سے جنگ کریں۔“ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ”میرے دل پر ایسی ساعتیں گزرتی ہیں کہ اس طرح کے احوال سے اہل جنت گزریں تو میں کہوں گا کہ وہ اچھی اور خوش گوار زندگی میں ہیں۔“

لوگو! مطمئن رہو

کتاب ”الفرج بعد الشدة“ میں ۳۰ سے زیادہ ابواب یہ بتاتے ہیں کہ جب شدائد اور بحران عروج کو پہنچ جاتے ہیں تو آسانی و فراخی مل جاتی ہے۔ اور یہ کہ بندہ جتنا زیادہ مصیبت میں ڈوبا ہوگا اور جتنے غم و الم سے دوچار ہوگا اتنا ہی قریب تر آسانی، سہولت اور خلاصی ہوگی۔ التوفیٰ نے اپنی دلچسپ اور طویل کتاب میں پریشان حالوں اور مصیبت زدوں کے قصے بیان کئے ہیں جن میں بعض قید ہوئے تھے، بعض کو معزول اور جلاوطن کر دیا گیا تھا بعض کو کوڑے لگائے گئے تھے اور بعض مفلس و قلاش بنا دئے گئے تھے۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ عین یاس اور غفلت کے وقت نصرت و امداد کے فرشتے نازل ہو گئے، اللہ کی مدد آگئی۔ توفیٰ آفت کے ماروں اور مصیبت زدوں سے کہتے تھے مطمئن رہو اس راستہ میں تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں:

ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے

کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی

تب یہ ایک سنت الہی ہے ”ہم تم کو کسی چیز میں آزمائیں گے“ ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، یہ عدل کا تقاضا ہے کہ اللہ بندوں کا امتحان لے، انہیں شدت اور آسانی میں آزمائے ان کو دن اور رات کی طرح مختلف احوال سے گزارے، لہذا اعراض، ناراضگی اور اعتراض کیوں؟ ”اگر ہم نے ان پر فرض کر دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کر دیا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے چند ہی لوگ ایسا کرتے“ (۶۶:۴)

بقول شاعر:

گر تم مجھ سے یہ کہتے کہ انگاروں پر چلو تو میں بسر چشم کہتا کہ انگاروں کی گرمی تمہاری آنکھوں کی وجہ سے سونا بن جاتی۔



خیر کے کام برے انجام سے بچاتے ہیں

بہترین کلمات میں حضرت ابو بکرؓ کا یہ قول بھی ہے کہ ”معروف کے کام برے انجام سے بچا لیتے ہیں“ عقل و نقل اس بات کی تصدیق کرتی ہیں
 ”اگر یونسؑ تسبیح گزاروں میں سے نہ ہوتا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑا رہتا۔“ (۱۳۳:۳۷-۱۳۴)

حضرت خدیجہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں
 ”ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے، لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے، غریب کو دیتے اور نبوی آفات میں مدد کرتے ہیں۔“
 یہاں دیکھیں کہ کیسے انہوں نے معروف کے کاموں اور محاسن سے حسن عاقبت پر استدلال کر لیا۔ اچھی ابتداء سے اچھے نتیجے تک پہنچ گئیں۔

الصابی کی کتاب ”الوزراء“ ابن الجوزی کی ”المنتظم“ اور توحفی کی ”الفرج بعد الشدة“ میں ایک قصہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وزیر ابن الفرث ابو جعفر ابن بسطام کے پیچھے پڑا رہتا اور اسے اذیت دینے کے درپہ رہتا تھا۔ ابو جعفر نے اس کے ہاتھوں بہت سی تکلیفیں اٹھائیں۔ ابو جعفر کی ماں نے بچپن سے اسے اس کا عادی بنا دیا تھا کہ اس کے تکلیف کے نیچے روز ایک روٹی رکھتی اور دوسرے دن اسے صدقہ کر دیتی۔ جب ابن الفرث کی اذیتوں پر ایک مدت گزر گئی تو ابن الفرث اس سے بولا ”کیا تمہاری ماں کی روٹی اب بھی ملتی ہے؟“ ابو جعفر نے کہا ”نہیں“۔ ابن الفرث نے کہا وہ ضروری ہے اُسے صدقہ کرنے دو، ابو جعفر نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ”وہ خواتین کی نیکیوں کی قبیل سے ہے، ابن الفرث بولا ”نہیں“ میں کل رات تمہیں بالکل ختم کر دینے کی تدبیر کر رہا تھا۔ نیند میں خواب دیکھا کہ میں ننگی تلوار لئے تمہیں قتل کرنے جا رہا ہوں تو تمہاری ماں اپنے ہاتھ میں روٹی لئے اسے ڈھال بنا کر سامنے آگئی، میں تمہارے قریب پہنچا ہی تھا کہ آنکھ کھل گئی۔“ ابو جعفر نے دونوں کے بیچ دوری پر افسوس ظاہر کیا اور وزیر کا فرمان بردار ہو گیا۔ اُسے راضی کیا، اس کی اصلاح کی کوشش کی حتیٰ کہ دونوں دوست ہو گئے، ابن

الفرات نے کہا ”بخدا اب میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔“

تفریح خاطر سے زندگانی کا سفر آسان ہو جاتا ہے

معلوم ہے کہ شریعت میں آسانی اور وسعت ہے، جس سے بندہ عبادت، کارگردی، عمل صالح کرتے رہنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنتے تھے اور اللہ ہی ہنسانے اور رزلانے والا ہے۔ آپ مزاح فرماتے اگرچہ اس میں سچ بات ہی کہتے۔ آپ نے حضرت عائشہؓ سے دوڑ میں مقابلہ کیا۔ تذکیر میں اختصار سے کام لیتے مبادا صحابہ اکتانہ جائیں۔ آپ تعمق، تکلف اور تشدد سے منع فرماتے کہ جو دین میں بے جا سختی برتے گا وہ مغلوب ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے ”دین مضبوط ہے اس میں نرمی کے ساتھ داخل ہو۔“ عبادت گزار میں شدت، تکلیف اور جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ تکلف کرنے والا ٹوٹ ہی جاتا ہے کیونکہ وہ فوری حالات پر نظر رکھتا ہے۔ وہ طول مدت اور دل کی افسردگی کو بھول جاتا ہے۔ ورنہ عقل مند کام کی ایک حد رکھتا ہے جب زیادہ جوش پیدا ہوگا تو اُس سے آگے نکل جائے گا اور جوش نہ ہوگا تو اپنی اصل پر باقی رہے گا۔ بعض صحابہ سے جو یہ منقول ہے کہ ”نفوس میں توجہ اور بے حضوری دونوں ہوتی ہے توجہ کے وقت کو غنیمت جانو اور بے حضوری میں اسے چھوڑ دو۔“ اس کا مفہوم یہی ہے۔ بہت سوں کو دیکھا کہ جوش پیدا ہوا نوافل کی کثرت شروع کر دی، غلو کا شکار ہو گئے، سستی چھائی تو پہلے سے بھی زیادہ کمزور پڑ گئے“

دین اصلاً خوشی سے ہمکنار کرنے کے لئے آیا ہے

”ہم نے قرآن آپ پر اس لئے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔“ (۲۰:۲۰)

اللہ نے ان لوگوں کو ملامت کی ہے جنہوں نے طاقت سے زیادہ اپنے کو مکلف کر لیا پھر حقیقت کی زمین پر پسپا ہو گئے جس کا اپنے کو مکلف بنا ڈالا تھا اُسے توڑ بیٹھے۔

”وہ رہبانیت جو انہوں نے خود ایجاد کی ہم نے ان کے اوپر فرض نہ کی تھی۔ وہ اللہ کی خوشنودی

چاہتے تھے لیکن اُس رہبانیت کا حق بھی ادا نہ کر سکے۔“ (۲۷:۵۷)

دوسرے مذاہب پر اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ وہ دین فطرت ہے، وسطیت والا ہے، وہ روح و جسم

دنیا و آخرت سب کے لئے اور آسان ہے“ وہی ہے سیدھا راستہ“ ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبیؐ کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہؐ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ کہا وہ مومن جو اللہ کے راستہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتا ہے۔ پھر وہ آدمی جو ایک گوشہ میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔“ ایک روایت میں یوں ہے کہ ”وہ اللہ سے ڈرتا اور لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔“ اور ابو سعیدؓ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریمؐ کو فرماتے سنا:

”جلد ہی وہ زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا سب سے اچھا مال وہ بکریوں کا ریوڑ ہوگا جسے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں میں چرائے گا اور فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر دور بھاگ جائے گا۔“ (بخاری)

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں ”کبھی کبھی تنہا بھی رہو۔“ اسی بارے میں حضرت جنیدؒ نے کیا خوب کہا ہے ”عزالت کی تکلیف جلوت کی مدارات سے آسان ہے۔“ خطابی کہتے ہیں اگر عزالت سے صرف اتنا ہی فائدہ ہو جائے کہ غیبت سے اور اس منکر کو دیکھنے سے نجات مل جائے جس کو طاقت سے دور نہیں کر سکتا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ حاکم کی روایت کردہ حضرت ابو ذرؓ کی مرفوع حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ”تنہائی برے ساتھی سے بہتر ہے۔“ اس کی سند حسن ہے۔

خطابی نے ”کتاب العزلة“ میں لکھا ہے کہ عزالت اور اختلاط کے جیسے متعلقات ہوں گے ویسے ہی ان میں بھی اختلاف ہوگا۔ جو دلیلیں اجتماع پر ابھارتی ہیں ان کا محل یہ ہے کہ وہ ائمہ اور امور کی اطاعت سے متعلق ہیں۔ جو انفرادیت کی دلیلیں ہیں انہیں برعکس حالت پر محمول کیا جائے گا۔ اور جسمانی افتراق و اجتماع کا مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنی معیشت اور دین کی حفاظت پر اکتفا کرے تو اس کے لئے یہی مناسب ہے کہ لوگوں کے اختلاط سے پرہیز کرے بشرطیکہ جماعت، سلام اور اس کے جواب اور عیادت مریض اور جنازہ کے ساتھ چلنے وغیرہ کے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں انہیں پورا کرے۔ مطلوب جو ہے وہ بری صحبت سے پرہیز کرنا ہے کیونکہ اس میں تشویش خاطر اور تفتیح اوقات ہے۔ لوگوں سے اختلاط کو ایسا سمجھا جائے گا جسے دن رات کا کھانا، لہذا بقدر ضرورت پر ہی اکتفاء کیا جائے کیونکہ جسم و جان کے لئے زیادہ مفید ہوگا۔ القشیریؒ ”الرسالۃ“ میں لکھتے ہیں کہ عزالت پسندی کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو

غم نہ کریں

تکلیف نہ دینے کا خیال کرے، اس کے برعکس نہیں کیونکہ اول الذکر میں تواضع اور انکسار نفسی ہے جب کہ دوسری میں آدمی کا دوسرے پر بڑھ جانا ہے جو متکبرین کی علامت ہے۔ عزت اور اختلاط کے سلسلہ میں لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ وسط میں بہت کم لوگ ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ لوگوں کو بالکل چھوڑ دے حتیٰ کہ جمعہ و جماعت عید اور اجتماعات سے بھی دور رہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ لوگوں سے اتنا ملا ہو کہ لہو و لعب اور قیل و قال اور تضحیح وقت میں شریک رہے یہ بھی درست نہیں۔ اعتدال کی بات یہ ہے کہ جو اجتماعی عبادتیں ہیں ان میں اور تعاون علی البر والتقویٰ اور ثواب کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ رہے۔ اور ایسے مواقع پر جہاں اللہ سے اعراض ہو اور فضول مباحات میں مشغولیت ہو ان سے دور رہے ”ہم نے تمہیں اسی طرح امت وسط بنایا ہے۔“

وقفہ

حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ کے راستہ میں جہاد کرو کیونکہ وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ غم اور فکر دور کر دیتا ہے“۔ غم و فکر کو دور کرنے میں جہاد کی تاخیر وجدان سے معلوم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جب نفس پر باطل کی یلغار اور استیلاء ہو جائے گا تو رنج و فکر بھی بڑھ جائیں گے، خوف اور پریشانی بڑھے گی جب اللہ کی خاطر باطل سے جہاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس رنج و فکر کو خوشی و نشاط و قوت سے بدل دے گا، جیسا کہ فرمایا:

”ان سے قتال کرو اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا۔ انہیں رسوا کرے گا، ان کے اوپر تمہاری مدد کرے گا، ایمان والوں کے سینے ٹھنڈے کرے گا اور دلوں کے غصہ کو دور کر دے گا۔“ (۹: ۱۴-۱۵)

یعنی دل کی گھبراہٹ، تڑپ اور حزن کو جہاد سے زیادہ کوئی چیز دور نہیں کر سکتی، جہاد میں اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی۔ بقول شاعر:

آنکھ میں تیکا پڑے تو میں آنکھ کی تپنی بند کر لیتا ہوں اور صبر کا سفید کپڑا پہن لیتا ہوں، جنگی میں

اللہ کو پکارتا ہوں تو تنگی دور ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کے لئے راستے بند ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کو پکاریں تو راستے بھی کھل جاتے ہیں۔

ملکوت کا مشاہدہ کیجئے

نفس کو راحت اور دل کو آرام دینے والی ایک چیز یہ بھی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں قدرت کے آثار و نشانیوں کا مشاہدہ کیا جائے۔ اللہ کی مخلوقات کی شادابی سے آنکھ ٹھنڈی کی جائے، درخت، تالاب، نہر، نشیب و فراز، زمین و آسمان، رات و دن چاند اور سورج ہر چیز میں قدرت کے جلوے بکھرے پڑے ہیں، ان کے مشاہدہ سے لطف ملے گا، ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا ”اے اولوالابصار عبرت حاصل کرو۔“

ایک مسلمان ہو جانے والے فلسفی نے کہا تھا ”مجھے جب بھی قدرت کے سلسلہ میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے میں کتاب کائنات کو دیکھنے لگتا ہوں جس میں اعجاز سے پراچھوتے حروف ہیں ان سے میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔“

تجربے کی باتیں

شوکانی لکھتے ہیں: ایک عالم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا تصنیف و تالیف مت چھوڑنا، چاہے دن میں دو ہی سطر لکھو۔ میں نے ان کی نصیحت پر عمل کیا اور اس کا ثمرہ پایا، اس حدیث کا یہی مفہوم ہے جس میں کہا گیا ہے ”بہترین عمل وہ ہے جو برابر کیا جائے چاہے تھوڑا ہو۔“ پرانی کہادت ہے کہ قطرہ قطرہ دریا می شود۔ کیا نہیں دیکھتے کہ زیادہ دیر تک رگڑنے سے رسی بھی پتھر پر اثر انداز ہوتی ہے۔

ہمارے اضطراب و بے چینی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک بارگی کر ڈالنا چاہتے ہیں۔ پھر اکتا کر اسے چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم بتدریج کام کریں اور اسے مراحل میں تقسیم کر لیں تو سب سکون سے ہو جائے، نماز کی مثال لیں کہ شرع نے اُسے پانچ الگ اوقات میں رکھا ہے۔ تاکہ بندہ

غم نہ کریں

آرام و راحت سے رہے اور شوق کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر ایک ہی وقت میں ساری نمازیں ہوتیں تو آدمی اکتا جاتا۔ حدیث میں آیا ہے: جڑ سے کاٹ دینے والا نہ پیٹھے باقی رکھتا ہے نہ زمین قطع کرتا۔“ تجزیہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جو آدمی وقفوں میں کام کرے تو اس کا جذبہ و جوش بھی برقرار رہتا ہے اور وہ اسے اس کی نسبت زیادہ بہتر طور پر کرتا ہے جو یک بارگی کرنا چاہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نمازیں بھی تنظیم اوقات کا بڑا ذریعہ ہیں جیسا کہ فرمایا کہ ”نماز مومنین پر متعینہ وقت میں فرض ہے۔“ تو اگر بندہ اپنے دینی و دنیاوی کاموں کو ہر نماز کے بعد تقسیم کر لے تو اس کے وقت میں وسعت پیدا ہوگی۔ اسے ایک مثال سے سمجھئے کہ ایک طالب علم اگر فجر کے بعد کو کسی بھی فن کی کتاب حفظ کرنے کے لئے ظہر کے بعد کو عام مطالعہ کے لئے اور عصر کے بعد کو دقیق علمی بحث کے لئے اور مغرب کے بعد کو ملاقات و گفتگو کے لئے اور عشا کے بعد کو عصری کتابیں، مقالات اور تحقیقات کے مطالعہ اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کے لئے خاص کر لے تو اس کے لئے بہتر ہوگا۔ عقل مند وہ ہے جو بصیرت سے استفادہ کر لے ”اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔“ (۲۹:۸)

انتشار ذہنی کا شکار نہ ہوں

ذہن کو پراگندگی اور کدورت کا شکار سب سے زیادہ اس کی ذہنی انار کی بناتی ہے، بعض لوگ اس کے بیمار ہوتے ہیں۔ وہ اپنی صلاحیتوں کی تحدید نہیں کر پاتے نہ ان کے فکر و نظر مربوط ہو پاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ معرفت کی بہت سی قسمیں اور راہیں ہیں۔ اس کے راستوں اور طریقوں کی تحدید ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی ایک خاص نقطہ نظر کا حامل ہو کہ انفرادیت مطلوب ہے۔ ذہن کو پراگندگی اور رنج دینے والی ایک چیز قرض، معاشی ذمہ داریاں اور مالی مسائل ہیں۔ اس سلسلہ میں ہم چند اصول بیان کرنا چاہتے ہیں: پہلا یہ کہ جو میانہ روی برتے گا انفاق بہتر طور پر کرے گا۔ ضرورت و حاجت میں ہی مال لگائے گا فضول خرچی اور اسراف سے بچے گا تو اللہ کی مدد پائے گا، فرمایا ”فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں“ ”وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے نہ تنگی بلکہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔“ (۶۷:۲۵)

دوسرا اصول یہ ہے کہ مال مباح ذریعہ سے ہی کمایا جائے، حرام ذریعے اختیار نہ کئے جائیں کیونکہ اللہ طیب ہے، طیب ہی کو قبول کرتا ہے اور حرام کمائی میں وہ برکت نہیں دیتا، اگرچہ تجھے کثرتِ خبث زیادہ پسند آئے۔“ (۱۰۰:۵)

تیسرا اصول یہ ہے کہ مال حلال کی طلب اور کوشش ہو، حلال طریقہ سے جمع کیا جائے، بے کاری اور بے عملی چھوڑ دی جائے، چھوٹی اور بے کار باتوں میں وقت ضائع نہ کیا جائے، دیکھئے کہ عبدالرحمن ابن عوف فرماتے ہیں مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔

”جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اسے زیادہ سے زیادہ یاد کرو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔“ (۱۰:۶۲)

ایمان و اخلاق سب سے گراں قدر ہیں

وہ غریب فقیر تھا، پرانے چھتھرے تن پر ڈالے ہوئے بھوکا پیٹ، پاؤں ننگے، اس کا نسب بھی معلوم نہ تھا۔ نہ مال نہ منصب نہ خاندان، کوئی گھر نہیں جس میں آرام کرتا، نہ کوئی اثاثہ۔ اپنی تھیلیوں سے عام کوڑوں سے پانی پی لیتا۔ مسجد میں سو جاتا، ہاتھ تکیہ ہوتا اور پتھر ملی زمین بستر، لیکن ساتھ ہی وہ اللہ کا ذکر کرتا، کتاب الہی کی تلاوت زبان پر رہتی نماز اور جہاد میں صفِ اوّل میں نظر آتا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اس جوان کا گزر ہوا آپ نے آواز دے کر پکارا جلیب! تم شادی نہیں کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میرے پاس نہ مال نہ جاہ و منصب؟ ایک بار پھر گزر ہوا تو آپ نے اپنا سوال دہرایا انہوں نے بھی وہی جواب دیا پھر تیسری بار بھی یہی سوال جواب ہوا۔ آپ نے فرمایا جلیب! تم فلاں انصاری کے پاس جاؤ انہیں میرا سلام کہو اور کہنا کہ ”رسول اللہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔“ وہ انصاری ایک اونچے گھرانہ کے تھے۔ جلیب ان کے گھر پہنچے اور رسول اللہ کا پیغام عرض کر دیا۔ انصاری بولے رسول اللہ کو سلام عرض ہے لیکن تمہارے پاس نہ مال نہ منصب کیسے میں اپنی بیٹی کو تم سے بیاہ دوں، ان کی بیوی بھی سن لیتی ہیں اور وہ بھی یہی بات کہتی ہیں کہ مال و منصب کچھ تو ہو، ان کی مومنہ بیٹی بھی سنتی ہے اور ماں باپ سے کہتی ہے کہ آپ لوگ رسول

غم نہ کریں

اللہ ﷻ کے فرستادہ کو لوٹائیں گے، نہیں خدا کی قسم نہیں۔ چنانچہ یہ شادی ہو جاتی ہے۔ گھر آباد ہوتا ہے برکت ہوتی ہے۔ اولاد ہوتی ہے، تقویٰ اور خوشنودی رب کی اساس پر گزر بسر ہونے لگتی ہے کہ اچانک جہاد کے لئے منادی پکارتا ہے۔ جلیب فوراً گھر سے جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ سات کافروں کو جہنم رسید کر کے شہید ہو جاتے ہیں اللہ اور رسول اور اپنے مشن کے لئے بخوشی جان کی قربانی دیتے ہیں، جنگ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقتولین کی کھوج کرتے ہیں۔ لوگ شہیدوں کا نام لے کر آپ کو سناتے ہیں اور اس گفتگو میں جلیب کو فراموش کر دیتے ہیں کیونکہ وہ مشہور آدمی نہ تھے۔ لیکن رسول اللہ انہیں بھولتے نہیں بلکہ بھیڑ بھاڑ میں بھی ان کا نام یاد رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں ”ارے بھی! میں جلیب کے بارے میں معلوم کر رہا ہوں۔“ پھر انہیں مٹی میں پڑا پاتے ہیں تو ان کے چہرہ سے گرد وغبار ہٹاتے اور فرماتے ہیں ”تم سات کو مار کر شہید ہوئے۔ تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔“ یہ جلیب کے لئے بہت بڑا انعام اور سرمایہٴ افتخار تھا۔

جلیب کی قیمت ان کا ایمان اور اللہ کے رسول کی ان سے محبت تھی۔ وہ مشن تھا جس کے لئے انہوں نے جان فدا کی، ان کی غربت، فقر اور خاندان کی کمی نے ان کو اس شرف عظیم اور بلند مرتبہ سے پیچھے نہیں رکھا۔ انہوں نے دنیا و آخرت میں ہی شہادت، رضا، قبولیت اور سعادت پالی ”اللہ نے ان کو جو فضیلت دی اس پر مسرور ہیں اور ان کے جو اخلاف ہیں ان پر وہ خوش ہیں کہ انہیں نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔“ (۱۷۰:۳)

آپ کی قیمت تو آپ کے بلند کارنامے اور بہترین صفات ہیں، آپ کی خوش بختی یہ ہے کہ اشیاء کی معرفت ہو، وہ جو اپنی قدر و قیمت جان لے اور ویسا ہی عمل کرے مبارک ہے، وہ جو اپنے نفس کو بلندی، جہاد اور نیک عملی کی رہنمائی کرے، مبارک ہے، وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب و کامران ہو۔



کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ

ابوبکرؓ خوش نصیب تھے جو اس آیت کے مصداق بنے ”دوزخ سے بچا لیا جائے گا وہ جو بہت تقویٰ والا ہے، اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے“۔ عمرؓ خوش نصیب ہیں کہ انہیں حدیث میں بشارت دی گئی۔ ”میں نے جنت میں ایک سفید قصر دیکھا اور پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے۔ مجھ سے کہا گیا عمر بن الخطاب کا ہے، اور عثمانؓ خوش نصیب تھے کہ ان کے لئے دعا کی گئی ”اے اللہ عثمان کے نئے پرانے سب گناہ معاف کر دے۔“ علیؓ خوش نصیب تھے کہ فرمایا ”یہ ایسے آدمی ہیں جو اللہ ورسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ ورسول اس سے محبت کرتے ہیں“ سعد بن معاذؓ خوش نصیب تھے کہ فرمایا ”ان کے لئے رحمن کا عرش بھی جھوم اٹھا، عبداللہ بن عمرو الانصاری کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آمنے سامنے بغیر ترجمان کے گفتگو کی۔ حظلہؓ کے بارے میں فرمایا: ”رحمن کے ملائکہ نے ان کو غسل دیا۔“

اور یہ کتنے بد نصیب تھے

فرعون: اس کے بارے میں فرمایا ”فرعون اور اس کے ساتھی صبح و شام آگ پر پیش کئے جاتے ہیں۔“ (۴۶:۲۰)

قارون: اس کے بارے میں فرمایا گیا ”ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا“ (۸۱:۲۸)

الولید بن المغیرہ: جس کے متعلق کہا گیا ”میں اس کی جان سختی کے ساتھ نکالوں گا۔“ (۷۴:۱۷)

امیہ بن خلف: جس کے متعلق ارشاد ہوا ”بربادی ہو ہر عیب چین اور چغل خور کے لئے“ (۱:۱۰۴)

ابولہب: جس کے بارے میں فرمایا گیا ”ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔“ (۱:۱۱۱)

اور العاص بن وائل: جس کو عذاب کی وعید سنائی گئی ”ہرگز نہیں جو کچھ وہ کہتا ہے

ہم لکھیں گے اور اسے زیادہ سے زیادہ عذاب دیں گے۔“ (۱۹:۷۹)

وقفہ

اللہ کے ذکر سے غفلت اور محصیت سے بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں مثلاً قلت توفیق، فساد رائے، خفائے حق، فساد قلب، گنہامی، اضاعت وقت، نفرت خلق اللہ اور اس کے بندے کے مابین وحشت۔ بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، دل سخت ہو جاتا ہے رزق اور عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، علم سے محرومی، ذلت سے سابقہ ہوتا ہے اور دشمن اہانت کرتا ہے، سیدزنگ بری صحبت اور اس سے دل فاسد اور وقت ضائع ہوتا ہے۔ فکری طاری رہتی ہے، روزی میں تنگی اور دل میں افسردگی پیدا ہوتی ہے، یہ آفتیں ایسے پیدا ہو جاتی ہیں جیسے سرسبز کھیتی کو آگ جلا ڈالتی ہے۔ اطاعت ربی سے ان آفتوں کی مقابل چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔“ رنج و فکر اور تنگی کو دور کرنے میں استغفار کی تاثیر کے سلسلہ میں تمام مذاہب کے لوگ اور ہر امت کے حکماء متفق ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معاصی اور فساد سے رنج و فکر، خوف اور حزن، سینہ کی تنگی اور دل کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ گنہگار نفسانی لذتوں سے جب اکتا جاتے ہیں تو اپنے دل کی افسردگی اور رنج و فکر کو مٹانے کے لئے پھر گناہ کرتے ہیں، اسی بارے میں گناہوں کا سرخیل شاعر کہتا ہے:

”ایک جام تو میں لذت کے لئے پیتا ہوں اور دوسرے جام سے پھر اس کا علاج کرتا ہوں۔“
پھر جب کہ گناہوں اور غلطیوں کے دل پر یہ اثرات پڑتے ہیں تو ان کی دوا بس
توبہ و استغفار ہی ہے۔

خواتین کا خیال رکھیں نرمی کا معاملہ کریں

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ان کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ رہو۔“ (۱۹:۳۴)

”اللہ نے تمہارے درمیان الفت و محبت ڈال دی ہے۔“ (۲۱:۳۰)

حدیث میں آیا ہے ”عمورتوں کے ساتھ خیر کی نصیحت کیا کرو کیونکہ وہ تمہارے ہاتھ میں امانت ہیں۔“ ایک اور روایت میں ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہو۔ میں تم میں اپنے اہل و عیال کے لئے سب سے اچھا ہوں“

خوش نصیب گھر وہ ہے جو الفت سے بھرا ہو۔ تقویٰ، رضامندی اور محبت کی اساس پر قائم ہو:
 ”کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کو اللہ کے تقویٰ اور رضامندی پر اٹھایا ہے بہتر ہے یا وہ آدمی جس نے اپنی بنیاد ٹوٹنے بکھرتے کنارے پر کھڑی کی، وہ عمارت جہنم کی آگ میں گرگئی اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔“ (۱۰۹:۹)

مسکراہٹ سے آغاز کیا جائے

بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ بیوی شوہر کا استقبال مسکراہٹ سے کرے اور شوہر بیوی کے لئے مسکرائے۔ مسکراہٹ اتحاد اور مصالحت کا اعلان ہے۔ فرمایا: اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے مسکراتے تھے۔ ابتداء اسلام سے کی جائے۔

”پس اپنے آپ کو سلام کرو اللہ کی جانب سے مبارک سلام“ (۶۱:۲۴) ایک دوسرے کو سلام کرنے ”جب تمہیں سلام کیا جائے تو اسے اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم اسی کو لوٹا دو۔“ (۸۶:۴) اسی میں سے یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت دعا کی جائے:

”اے اللہ ہم تجھ سے اچھا داخلہ اور اچھی واپسی چاہتے ہیں۔ اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے نکلیں گے اور اللہ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے“

گھر کی خوش گواری اس سے بھی ہوتی ہے کہ فریقین نرمی سے بات کریں ”اور کہو اے میرے بندو بھلی بات کہو۔“

بقول شاعر:

”اس کا کلام تو جادو ہے اگر وہ پرہیزگار مسلمان تک کو قتل نہ کر ڈالتا تو جائز جادو ہوتا۔“ اگر دیر تک گفتگو کرے تو آکٹاہٹ میں نہ ڈالے اگر مختصر کر دے تو مخاطب آرزو کرے کہ کاش گفتگو مختصر نہ

غم نہ کریں

ہوتی۔ کاش کہ مرد اور عورت دونوں ہی ایسی باتوں سے بچیں جو دل شکنی کرنے اور جذبات بھڑکانے کا کام کرتی ہیں۔ کاش کہ وہ دونوں ہی ہر ایک کے خوشگوار پہلو پر نظر رکھیں اور کمزور انسانی پہلو سے صرف نظر کر لیں۔

مرد اگر بیوی کے محاسن شمار کرے اور اس کی کمی سے صرف نظر کر لے تو وہ مطمئن اور خوش رہے گا۔ حدیث میں آیا ہے۔

”کوئی ایمان والا مرد مومنہ سے نفرت نہ کرے کہ اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری اچھی لگے گی۔“

بقول شاعر:

ایسا کون ہے جس نے کبھی غلطی نہ کی ہو اور جس کے پاس بس نیکی ہی نیکی ہو۔ کون ہے جس کے فضائل کی تلوار کبھی کند نہ پڑے، محاسن کا گھوڑا لڑکھڑائے نہیں۔

”اگر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کسی پر اچھائی نہ جتاتا۔“

گھریلو مسائل اکثر چھوٹی اور حقیر باتوں پر پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے دسیوں ایسے چھوٹے مسئلے دیکھے جو جدائی پر منتج ہوئے اور بہت چھوٹی باتوں سے ان کی شروعات ہوئی تھی۔ مثلاً یہ سبب تھا کہ گھر کی صفائی نہ ہوئی تھی، کھانا وقت پر نہیں لگایا گیا۔ کبھی ایسا ہوا کہ عورت چاہتی تھی کہ گھر میں زیادہ مہمان نہ آیا کریں۔ اس طرح کے مسائل کی لمبی فہرست ہے جنہوں نے گھر کو تباہ کر دیا۔ ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ اپنی حد میں رہیں۔ حقائق سے واقفیت پیدا کریں، اپنی کمزوری کا اعتراف کریں، وہم و خیال اور اس معیار کے پیچھے نہ پڑیں جو دنیا کے اولوالعزم افراد کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ ہم انسان ہیں ہمیں غصہ بھی آتا ہے، حدت بھی پیدا ہوتی ہے، ہم کمزور ہیں غلطیاں بھی کرتے ہیں ہمیں ازدواجی امور کو بہتر طور پر چلانے والے اسباب ڈھونڈنے چاہئیں۔ امام احمد بن حنبلؒ کی طبیعت اور مزاج کو نمونہ بنائیں۔ ان کی بیوی ام عبداللہ کا انتقال ہوا تو فرمایا ہم چالیس سال ساتھ ساتھ رہے لیکن میرا اس سے کبھی اختلاف نہ ہوا۔ جب بیوی ناراض ہو تو شوہر کو چپ ہو جانا چاہئے۔ اسی طرح جب شوہر کو غصہ آئے تو بیوی خاموش ہو جائے، یہاں تک کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، جذبات اعتدال پر آئیں اور دل کا

اضطراب ختم ہو جائے۔ ابن الجوزی نے ”صید الخاطر“ میں لکھا ہے ”جب دیکھو کہ ساتھی ناراض ہے اور غصہ میں بولتا جا رہا ہے تو اس کو بے پروائی سے ٹال دو، اس پر اس کا مواخذہ نہ کرو۔ کیونکہ اس وقت نشہ کی سی حالت میں ہے اور اسے نہیں معلوم کہ کیا بک رہا ہے۔ اس پر شیطان غالب ہے، طبیعت میں ہیجان ہے۔ عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اس لئے کچھ دیر تک صبر کرو اس کو زیادہ اہمیت نہ دو۔ اگر آپ نے اس کی بات پکڑ لی اور اس کے مطابق جواب دینا شروع کر دیا تو آپ کی مثال ایسی ہوگی کہ عقل مند مجنوں سے مقابلہ کر رہا ہے یا جیسے ٹھیک ٹھاک آدمی بے ہوش کو سرزنش کر رہا ہے اس میں آپ کی ہی غلطی ہوگی۔ آپ تو اسے قابلِ رحم سمجھیں اور اس سے لطف لیں کہ تک مزاجی نے اسے کہاں پہنچا دیا ہے۔“

یہ جان لیجئے کہ جب وہ متنبہ ہوگا اسے ندامت ہوگی اور آپ کے صبر کر لینے کا اعتراف کرنے گا۔ کم سے کم اتنا کریں کہ اسے بالکل چھوڑ دیں یہاں تک وہ اعتدال میں آئے۔ جب باپ ناراض ہو تو بیٹے کو شوہر ناراض ہو تو بیوی کو اس کا خیال رکھنا چاہئے اور اسے اپنی بات کہنے کا موقع دینا چاہئے کیونکہ جلد ہی اسے ندامت ہوگی لیکن اگر غصہ کی حالت میں اس کا مقابلہ کیا گیا تو اس کی حدت بڑھ جائے گی اور غصہ ختم ہونے کے بعد بھی اس کی عداوت نہ جائے گی۔

زیادہ لوگ اس کے برخلاف عمل کرتے ہیں، آدمی غصہ میں جو بکتا ہے وہ اس کا ترکی بتر کی جواب دیتے ہیں حالانکہ یہ حکمت کا تقاضا نہیں ہے لیکن تقاضائے حکمت کو سمجھنا ہی سمجھ سکتے ہیں۔“

جذبہ انتقام غصہ کرنے والوں کیلئے زہر ہے

کتاب ”المصلوبوں فی التاريخ“ میں بعض ان جابروں کے قصے ہیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کو شدید ایذائیں اور تکلیفیں پہنچا پہنچا کر مارا، پھر ان کو قتل کر کے بھی چین نہ ملا تو ان مردوں کو سولی دی، ظاہر بات ہے کہ مردہ کو سولی سے نہ تکلیف ہوتی نہ کوئی احساس کیونکہ روح جسم کا ساتھ پہلے ہی چھوڑ چکی ہے، لیکن زندہ قاتل کو انہیں زیادہ سے زیادہ ایذا پہنچا کر سکون ملتا ہے۔ ایسے اذیت پسندوں کے دل کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ ان کے انتقام کا شعلہ نہیں بجھتا حتیٰ کہ وہ دشمنوں سے

غم نہ کریں

پہلے خود انہیں کو اندر سے جلاتا رہتا ہے۔ کیا یہ تعجب اور افسوس کی بات نہیں کہ بنی امیہ کے سقوط کے بعد بنو عباس کے بعض خلفاء نے انتقام کی آگ یوں ٹھنڈی کی کہ پہلے مرے ہوئے مردوں اور ان کی ہڈیوں کو نکال کر سولی پر لٹکایا پھر انہیں زندہ جلا دیا۔ یہ اسی اندھے جذبہ انتقام کا شاخسانہ تھا۔ جو خود منتقم کی ذات کے لئے بھی سوہان روح ہوتا ہے۔ اس کے اعصاب، اس کی راحت اور سکون و اطمینان سب کو غارت کر ڈالتا ہے۔ شاعر کے بقول:

جہاں کو دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا وہ خود اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے۔

”جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو غیظ و غضب میں اپنی انگلیاں چبا ڈالتے ہیں کہو اپنے غصہ سے

مر جاؤ۔“ (۱۱۹:۳)

وقفہ

کسی بندے پر ظلم و زیادتی ہو، دشمن مسلط ہو جائیں تو اسے سب سے زیادہ جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ خلوص دل سے توبہ اور استغفار ہے، اس کی سعادت کی علامت یہ ہے اپنے نفس اور گناہوں اور عیوب کا جائزہ لے کر اس کی اصلاح کرے اور جو آفت نازل ہوئی اس پر سوچ بچار کے لئے وقت ہی نہ چھوڑے بلکہ توبہ اور اصلاح نفس میں لگ جائے باقی چیزیں اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا۔ وہ مدد و نصرت کرے گا اور ضرور کرے گا۔ اگر ایسا کر لے تو اس کی سعادت کے کیا کہنے اور اس کی مصیبت بھی کیا ہی برکت والی ہوگی۔ کیا اچھا اثر اس پر پڑے گا۔ لیکن توفیق و ہدایت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو وہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا جو نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اور ہر کسی کو اس کی توفیق ملتی بھی نہیں نہ اس کی معرفت ہوتی ہے نہ ارادہ اور نہ قدرت اور ساری قوت و طاقت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ شاعر نے کہا:

”پاک ہے وہ جو ہمیشہ غصہ سے کام لیتا ہے اور ہم ہمیشہ کوتاہی کرتے ہیں۔ بندہ جب بھی غلطی

کرتا ہے وہ درگزر کرتا ہے۔ جو خطا کار ہے اسے بھی دیتا ہے اور اس کا جلال اسے گنہگاروں کو بھی دینے

سے نہیں روکتا۔“

اپنی شخصیت نہ کھو دیجئے

انسان پر تین مرحلے گزرتے ہیں۔ تقلید، انتخاب اور اختراع، تقلید دوسروں کی نقل کرنا، ان کی شخصیت کا رنگ اختیار کرنا ہے ان کے صفات و عادات قبول کر لینا ہے۔ اس تقلید کا سبب شدید وابستگی، عقیدت اور تعلق خاطر ہوتا ہے، جو آدمی کو حرکات و سکنات آواز اور لہجہ تک کی نقل اتارنے پر مجبور کر دیتا ہے، یہ جذبہ اپنے کو دفن دینا اور اپنی ذات کی معنوی خودکشی ہے۔ ایسے لوگ اپنے کو تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ اپنی رائے کے خلاف جاتے اور پیچھے کی طرف چلتے ہیں۔ کوئی اپنی فطری آواز دوسرے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی اپنی چال دوسرے کی چال پر قربان کر دیتا ہے۔ کاش کہ یہ تقلید اچھی صفات میں ہوتی جس سے اسے بڑائی اور رفعت ملتی یعنی علم، کرم، بردباری وغیرہ میں۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ نقالی حروف کے مخارج طریقہ کار اور ہاتھوں کے اشارہ میں نقل کرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر اس پر زور دوں گا کہ آپ دوسروں سے بالکل الگ ہیں آپ کو اپنی صفات اور صلاحیتوں کے حساب سے چلنا چاہئے۔ کیونکہ ابتدائے آفرینش سے کوئی دو آدمی بھی مکمل طور پر ایک دوسرے کے ہم شکل نہیں ہوتے۔

”تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی نشانی ہے“ (۲۲:۳۰)

پھر ہم کیوں اپنی صفات اور صلاحیتوں میں دوسروں کی طرح بننا چاہتے ہیں؟ آواز کا جمال یہ ہے کہ آپ منفرد ہوں اور آپ کا حسن کلام یہ ہے کہ آپ متمیز ہوں، ”پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ ہیں ان کے رنگ مختلف ہیں“ (۲۷:۳۵)

بقول شاعر: تین ہیں چار ہیں اور ایک، یہ سب اکٹھی ہوئیں تو آٹھ ہو گئیں۔ سلیمی، سلمیٰ، رباب، اس کی بہن، سعدی، لبنی، المنی، قطام۔

صابرین لطف و کرم کے منتظر ہیں

یہ ایک بلند پایہ خطیب ہیں، جب تقریر کرتے تو الفاظ پرے باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، زبان پر سیلاب کی طرح رواں دواں ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب ہیں، خطیب الاسلام

غم نہ کریں

ہیں اور ان کے شرف کے لئے یہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے دین کی نصرت کے لئے اپنی خطیبانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ ثابت بن قیس بن شماس ہیں۔ اللہ کا فرمان نازل ہوتا ہے ”اے ایمان والو! نبیؐ کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ ان سے زور زور سے ایسے بات نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے کرتے ہو مبادا کہ تمہارے اعمال انجانے میں ضائع ہو جائیں۔“ (۲۰:۲۹)

اس آیت کا مصداق ثابت بن قیس نے اپنے آپ کو سمجھا اور لوگوں سے چھپ کر گھر کے ایک گوشہ میں بیٹھ گئے اور رونے لگے، رسول نے ان کو معلوم کرایا تو صحابہؓ نے ان کے بارے میں یہی اطلاع آپؐ کو دی، آپؐ نے فرمایا:

”ہرگز نہیں ثابت تو اہل جنت میں سے ہیں۔“ اس طرح انذار ان کے حق میں بشارت ہو گیا۔

بقول شاعر:

ایسی خوشی ملی کہ اس نے سابقہ تکلیف کو مٹا دیا۔ غمزہ آدمی ابھی گھبرایا تھا کہ مسکرا پڑا۔ حضرت عائشہؓ ام المومنینؓ پر جب بہتان لگایا گیا تو مسلسل ایک ماہ روتی رہیں، غم کے مارے کلیجہ چھلنی ہو گیا اور تیز بخار چڑھ آیا پھر ان کی برأت آئی فرمایا:

”جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومنات پر الزام لگاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت دونوں میں

لعنت ہوگی“ (۲۳:۲۳)

حضرت عائشہؓ نے اللہ کی حمد کی کہ پاکیزہ تھیں اور پاکیزگی مل گئی مومنین کو اس فتح مبین کی بڑی خوشی ہوئی۔ اسی طرح ان تین کا قصہ ہے جو غمزہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور زمین کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، ان کے دل تنگ ہو گئے انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتے پناہ بس وہی دے سکتا ہے پھر اللہ نے ان کی نصرت کی اور توبہ قبول فرمائی:

نہ جہاں میں کہیں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی

مرے جرم خانہ خراب کو ترے عفو بندہ نواز میں



جس عمل میں راحت ملے اُسے کیجئے

ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں کہ ”میں بیمار پڑا، طبیب نے مجھ سے کہا: آپ کے مطالعہ اور علمی گفتگو سے بیماری میں اضافہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ اس پر تو صبر نہیں ہو سکتا میں تمہاری معلومات سے ہی حاکمہ کرتا ہوں کیا ایسا نہیں کہ جب نفس مطمئن اور خوش ہو تو طبیعت میں تازگی اور قوت آتی ہے اور مرض ختم ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! ایسا ہی ہے میں نے کہا تو مجھے تو علم سے ہی سکون ملتا ہے، طبیعت میں اس سے قوت آئے گی اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا، بولا: یہ ہمارے علاج سے باہر کی چیز ہے“

”اسے اپنے لئے شرنہ سمجھو وہ تمہارے لئے خیر ہے۔“ (۱۱:۲۴)

ہم ان کو ان کو سب کو دیتے ہیں

ہمیں صبر و استقلال سے وقت کو نتیجہ خیز بنانے اور مفید کام کرنے اور عمل صالح میں سبقت کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہماری سعادت ہوگی جب ہم دوسروں کو نفع پہنچائیں، شعور پیدا کریں، خدمت کریں اور اپنے رویہ سے اعلیٰ تہذیب و ثقافت پیش کریں۔ ہماری واقعی خوش نصیبی ہوگی جب ہم زندگی کو یونہی نہ بتادیں۔ ہم بے کار پیدا نہیں ہوئے ہمارا وجود عبث نہیں۔ ایک دن الزرکلی کی ”الإعلام“ کی ورق گردانی کی جس میں مشرق و مغرب کے حکمرانوں، سیاست دانوں، علماء حکماء اداء اور طبیبوں کے تذکرے ہیں ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ وہ سب نابغہ روزگار اور مشہور ہیں۔ ان کی سوانح سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مخلوق میں اپنی سنت قائم رکھی ہے اور اپنا وعدہ پورا کیا ہے کہ جو دنیا کی وجہ سے کارنامے انجام دے اسے دنیا میں ہی پورا فائدہ مل جاتا ہے، شہرت و ناموری ہوتی ہے، منصب اور جاہ و مال حاصل ہوتے ہیں اور جو آخرت کے لئے اچھے اعمال انجام دیتا ہے اسے یہاں وہاں دونوں کا فائدہ ملتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے دنیوی شہرت و قبولیت کے ساتھ آخرت کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے

”تیرے رب کی عطا و بخشش ان کو ان کو سب کو ملتی ہے اور کسی کو محروم نہیں رکھا جاتا۔“

اسی کتاب میں بعض عمیق و اشخاص کے احوال بھی ہیں جنہوں نے انسانیت کی تو خدمت کی

غم نہ کریں

اور کارہائے نمایاں انجام دے لیکن آخرت کے لئے کچھ نہیں کیا ان میں غیر مومنین خاص ہیں۔ میں نے پایا کہ انہوں نے دوسروں کو تو خوش کیا لیکن اپنے آپ کو خوشی نہ دے سکے چنانچہ بعض نے خودکشی کی، بعض اپنے حالات اور زندگی سے دل گرفتہ ہو گئے بعض نے شدت و تنگی کی زندگی بسر کی۔ میرے دل نے سوال کیا۔ مجھ سے کچھ لوگ فائدہ اٹھالیں میں محروم رہوں۔ وہ خوش ہوں میں بد حال تو کیا فائدہ؟ بقول شاعر:

”بہت سوں کو تم نے خوش کر دیا جب کہ تم مغموم ہو بہت سوں کو ہنسایا جبکہ خود روتے رہے۔“

میں نے پایا کہ اللہ نے ان بڑے لوگوں میں سے ہر ایک کو وہ دے دیا جو اس نے چاہا اور اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ لہذا ان میں سے کچھ نے نوبل انعام حاصل کیا کہ اسی کے لئے کدو کاوش کی تھی بعض نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی کہ اسی کی تمنا تھی۔ بعض نے مال و زر پالیا کہ اسی کی لالک تھی۔ ان میں بعض اللہ کے نیک بندے بھی تھے جنہوں نے بفضلہ تعالیٰ دنیا و آخرت کا ثواب پالیا کیونکہ انہیں بس اللہ کی خوشنودی و رضادار کا تھی۔

بالکل حق اور صحیح بات ہے کہ گنناں سعادت مند اور اپنے منہج و طریقہ کا پابند شخص اس دولت مند مشہور آدمی سے زیادہ خوش ہوگا جو اپنی فکر اور اصول پر نہ چلتا ہو۔ جزیرہ العرب کا مسلمان اونٹ چرانے والا اسلام کے باعث نالسنائی جیسے مشہور و معروف ادیب سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ کیونکہ پہلے نے زندگی اطمینان و سکون سے گزاری اسے اپنے انجام کی خبر تھی دوسرے کی زندگی ٹکڑوں میں بنی تھی تتر بتر تھی، مقصد ملتا نہ تھا، مستقبل معلوم نہ تھا۔

انسانیت نے سب سے بڑی دوا اور سب سے اہم علاج جو دریافت کیا ہے وہ مسلمان کے پاس ہے اور وہ قضا و قدر پر ایمان رکھنا ہے۔ بعض حکماء کہتے ہیں جو قضا و قدر کو نہ مانے وہ زندگی میں خوش نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو آپ کے سامنے میں بار بار اور مختلف اسالیب میں پیش کر چکا ہوں۔ ایسا عمداً کیا ہے، کیونکہ اس کا مجھے یقین ہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے دوسروں کا بھی کہ جہاں خوشی کی بات ہوگی وہاں ہم قضا و قدر پر ایمان کی بات کریں گے جہاں کوئی ناپسندیدہ بات ہوتی ہے تو وہاں قضا و قدر کا خیال کم ہی آتا ہے۔ اسی لئے ایمانیاں میں قضا و قدر کو ماننا بھی ایک ضروری شرط قرار پائی۔ فرمایا:

”کہ تم اچھی بری اور کڑوی میٹھی ہر طرح کی تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔“

اللہ ایمان والوں کے دل کی رہنمائی کرتا ہے

قضا و قدر پر ایمان والا کیسے خوش رہتا ہے اور ایمان نہ رکھنے والا کس طرح شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے یہ ایک قصہ سے واضح ہوگا۔ ایک مشہور امریکی مصنف ”بودی“ ہے جس نے ”صحراء کی آندھی“ اور The Prophet وغیرہ کتابیں لکھی ہیں۔ ۱۹۱۸ء میں اس نے مغربی شمالی افریقہ کو وطن بنا لیا جہاں مسلمان بادیہ نشینوں کے ساتھ رہنا سہنا تھا۔ یہ لوگ روزہ نماز اور ذکر اذکار کے پابند تھے۔ ان کے ساتھ گزارے بعض مشاہدات اس نے لکھے ہیں: ”ایک دن تیز آندھی آئی جس نے صحراء کی ریت اٹھا کر بحر بیض متوسط پار کر کے فرانس کی وادی الرودی میں جا ڈالا۔ آندھی نہایت شدید گرم تھی۔ گرمی کی شدت سے مجھے لگا کہ میرے سر کے بال اکھڑ جائیں گے اور اس کی شدت سے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ لیکن عربوں کو کوئی پرواہ ہی نہ ہوئی، انہوں نے کندھے اچکائے اور کہا یہ مقدر کی بات ہے۔ پھر اپنے کام میں لگ گئے، قبیلہ کا سردار شیخ بولا کہ ہماری ہر چیز برباد ہو سکتی تھی لیکن الحمد للہ بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا اب بھی ہمارے مویشیوں میں ۴۰ فیصد باقی ہیں اور ہم ان سے دوبارہ کام کی شروعات کر سکتے ہیں۔“

ایک حادثہ اور ہے، ایک دن ہم صحراء میں کار سے جا رہے تھے ایک پہیہ خراب ہو گیا۔ ڈرائیور احتیاطی پہیہ رکھنا بھول گیا تھا۔ اب مجھے غصہ بھی آیا اور فکر بھی لاحق ہوئی۔ قبائلیوں نے کہا کہ غصہ کا کوئی فائدہ نہ ہوگا کہ طیش میں آ کر انسان حماقتیں کر بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد گاڑی تین ہی پہیوں پر چلی تھوڑا سا ہی چلے تھے کہ معلوم ہوا تیل ختم ہو گیا ہے، اب بھی اعرابی ساتھی نہیں بھڑکے بلکہ پرسکون رہے اور راستہ بیدل چل کر طے کیا۔ راستہ بھر نغمے گنگناتے رہے۔ اعرابیوں کے ساتھ صحراء میں سات سال جو گزارے ان سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ امریکہ و یورپ میں اضطراب سے دوچار نفسیاتی بیماریوں کے مریض اور نشہ باز جو منشیات پر پیسے خرچ کرتے ہیں وہ موجودہ تمدن کا شکار ہیں جس کی اساس بھاگ دوڑ اور سرعت ہے۔ صحراء میں رہتے ہوئے مجھے کوئی بے چینی نہیں ہوئی وہ اللہ کی جنت ہے وہاں سکینت، رضا اور قناعت ہے اگرچہ بہت سے لوگ اعرابیوں کے عقیدہ جبر و قدر کا مذاق اڑاتے ہیں،

غم نہ کریں

لیکن کون جانتا ہے کہ یہ اعرابی ہی حقیقت کو پاگئے ہوں کیونکہ جب میں زندگی کی یادیں حافظہ میں تازہ کرتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ وہ مختلف حادثوں اور واقعات سے پر ہے جو وہم و گمان میں بھی نہیں آتے تھے۔ اعرابی اس کو قضا و قدر یا قسمت کہتے ہیں۔ آپ ان کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحراء کو چھوڑے ۷۱ سال ہو گئے لیکن میرا اب تک تقدیر کے بارے میں وہی موقف ہے جو عربوں کا تھا۔ چنانچہ حادث کا سامنا میں اطمینان و سکون سے کرتا ہوں، عربوں سے جو عادات سیکھیں وہ اعصاب کو سکون دینے میں مسکن دواؤں اور جڑی بوٹیوں سے بھی زیادہ کامیاب ہیں۔“

صحرائی عربوں کو یہ تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ مشاکاة نبوت کی اس تعلیم کا خلاصہ لوگوں کو حیرانی اور تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانا ان کے سر سے مٹی جھاڑنا ان کے بوجھ اور بیڑیاں اُتار پھینکنا ہی ہے۔ رسول اکرم ﷺ جو وثیقہ لے کر آئے اُس میں سکون و اطمینان کا راز چھپا ہے۔ ناکامی سے بچانے کے طریقے ہیں۔ تقدیر کا اعتراف، حق پر عمل مقصد تک پہنچنا، نجات کی کوشش اور جدوجہد کرنے پر اُبھارنا ہے، یہ بانی مشن اس لئے آیا کہ کائنات میں انسان کا مقام متعین کرے دل کو سکون اور قلب کو اطمینان دے، رنج و فکر ختم کرے عمل و اخلاق کا تزکیہ کر دے تاکہ ہم اور آپ ایک مثالی بندہ بن جائیں جو غایت وجود سے واقف ہوتا ہے۔

منہج اعتدال

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ”اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے“ (۱۴۳:۲)

سعادت اعتدال میں ہے غلو، زیادتی اور افراط و تفریط میں نہیں۔ وسطیت ایک قابل تعریف منہج ہے، جو بندہ کو افراط و تفریط سے روکتا ہے۔ وسطیت اسلام کے خصائص میں سے ہے، یہودیت و نصرانیت دونوں کے منہج اسلام اعتدال کا راستہ ہے، یہودیت میں صرف علم ہے عمل نہیں۔ نصرانیت میں عبادت میں غلو ہے علم و دلیل نہیں جب کہ اسلام، علم و عمل، جسم و روح اور عقل و نقل سب کا حامل ہے، وسطیت سے زندگی میں خوشگواہی آئے گی۔ عبادت میں اعتدال ہو کہ جسم کو عبادت میں نہ گھلائیں کیونکہ اس سے مداومت اور نشاط کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسے خشک بھی نہ بنیں کہ نوافل چھوڑ دیں فرائض میں

کو تباہی ہو اور نال مثل کی عادت پڑ جائے۔ انفاق میں بھی اعتدال ہو، مال ضائع نہ کریں آمدنی کو یونہی نہ اڑائیں کہ غریب ولا چار ہو کر رہ جائیں۔ تنگ دلی اور بخل سے بھی کام نہ لیں کہ ملامت و محرومی حصہ میں آئے۔ اخلاق میں بھی اعتدال ہو، نہ زیادہ سنجیدگی نہ حد سے زیادہ نرمی نہ ترش روئی نہ بے پناہ ہنسی ٹھٹھا، نہ حد سے زیادہ تنہائی اور نہ فضول قسم کا اختلاط۔ چیزوں کے لینے اور حکم لگانے میں اور دوسروں سے معاملات کرنے میں یہی منج اعتدال ہے، اس میں نہ زیادتی کی اجازت ہے جس میں اقدار کو تاپا جائے نہ کمی کی گنجائش جس سے خیر کی جڑ مر جھا جائے، زیادتی اسراف ہے کمی میں جفاء ہے

”پس اللہ نے اہل ایمان کو جس حق میں وہ اختلاف کر رہے تھے صحیح راستہ بتایا، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے“ (۲۱۳:۲)

نیکی دونوں انتہاؤں کے بیچ ہے یعنی افراط اور تفریط کے درمیان، غلو اور کمی کے درمیان، یعنی حق دو باطلوں کے درمیان ہے۔ زیادتی اور نقص، تہور اور بزدلی کے بیچ میں سعادت ہے۔

نہ یہ نہ وہ

مطرف بن عبد اللہ کہتے ہیں سواری کو اتنا تیز دوڑانا کہ سوار اور سواری کو نقصان پہنچے سب سے بری چال ہے، حدیث میں آیا ہے ”سب سے برا نگر وہ ہے جو توڑ پھوڑ چائے“ یعنی وہ ذمہ دار جو اپنے گھریا دوسری ذمہ داری میں زیادتی سے کام لے۔ کرم اسراف اور بخل کے درمیان کی حالت ہے۔ شجاعت بزدلی اور تہور کے بیچ ہے۔ بردباری وہ ہے جو حدت اور برودت ذہنی کے درمیان ہے۔ ترش روئی اور ٹھٹھے کے بیچ میں مسکراہٹ ہے۔ صبر سختی اور جزع فزع کے درمیان ہے۔ غلو کا علاج یہ ہے کہ اس میں تخفیف کی جائے، اور اس کے گرم شعلہ کو ٹھنڈا کیا جائے۔ جفاء کی دو مضبوط ارادہ امید کی کرن اور ہمت مردانہ ہے۔

”ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، ان کے راستہ کی جن پر تو نے انعام کیا۔ ان کی نہیں جن پر

تیرا غضب ہوا اور نہ ان کی جو گمراہی میں ہیں۔“ (۶:۱-۷)

وقفہ

زندگی میں صبر سے مشکل کوئی چیز نہیں، محبوب چیز نہ ملے تب صبر، مکروہات کا سامنا ہو تب صبر، بطور خاص جب زمانہ دراز ہو جائے یا کشادگی سے مایوس ہو جائے۔ ایسی مدت میں زاد سفر کی ضرورت ہوتی ہے جو کئی طرح کا ہو سکتا ہے مثلاً مصیبت بڑی بھی ہو تب بھی اسے چھوٹا سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی، جیسے ایک لڑکا مر جائے، ایک اور ہو جو اس سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ اس میں سے یہ ہے کہ دنیا میں اس کے عوض کی امید ہو۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ آخرت میں اجر کی امید رکھے۔ اور یہ بھی کہ دنیا میں لوگ اس کی اچھائی کی تعریف کریں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی بھی امید ہو۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ آہ و زاری سے کوئی فائدہ نہ ہوگا بلکہ آدمی اور رسوا ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جن کی رہنمائی فکر و عقل کرتی ہے۔ صبر کی زاد راہ یہی ہے۔ اس لئے صابر کو اپنے آپ کو ان میں مشغول کر کے مصیبت کے ایام کاٹنے چاہئیں۔

دلی کون ہیں؟

دلیوں کی صفات میں یہ ہے کہ وہ شوق سے اذان کا انتظار کرتے ہیں، تکبیر تحریر پر دوڑ پڑتے ہیں، پہلی صف میں جگہ پانے کے لئے بے تاب ہوتے ہیں، حلقہ ذکر میں ہمیشہ بیٹھتے ہیں۔ سلامتی صدر سنت کے احترام، کثرت ذکر، اکل حلال، لایعنی باتوں سے گریز، بقدر کفایت پر رضامندی اور کتاب و سنت کی تعلیمات سیکھنا ان کی عادتیں ہوتی ہیں، ان کا چہرہ کھلا رہتا ہے، وہ مسلمانوں کے مصائب پر تڑپتے ہیں، اختلافی باتوں پر نہیں جاتے، شدائد پر صبر کرتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں۔ معیشت میں اعتدال سب سے اچھی چیز ہے، نہ زیادہ مالداری اور نہ ایسا فقر جو سب کچھ بھلا دے، بلکہ اتنا ہو جو کافی و شافی ہو۔ جس سے غرض پوری ہو جائے۔ اور زندگی کا مقصد حاصل ہو۔ ایسی ہی زندگی سب سے اچھی اور ایسی ہی روزی سب سے زیادہ مفید ہے جو بقدر کفایت ہو۔ رہنے کے لئے گھر ہو، محبت والی بیوی، اچھی سواری، اور بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے تھوڑی سی رقم۔

اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے

ریاض شہر کے ایک معزز آدمی نے مجھے بتایا کہ ۱۳۷۶ھ میں جبیل کے کئی مچھیرے مچھلی کے شکار کے لئے سمندر کی طرف گئے۔ تین دن رات انہیں ایک بھی مچھلی ہاتھ نہیں لگی وہ بیچ وقتہ نمازی تھے۔ پاس میں مچھیروں کا ایک اور گروپ بالکل بے نمازی تھا لیکن وہ شکار میں کامیاب ہو رہا تھا۔ ان میں سے بعض لوگ بولے سبحان اللہ! ہم تمام نمازیں پڑھتے ہیں اور ابھی تک کچھ نہیں ملا۔ یہ بے نمازی ہیں اور کامیاب ہیں۔ شیطان نے وسوسہ اندازی کی اور پہلے فجر کی چھوٹی پھر ظہر عصر چھوڑ بیٹھے بعد عصر سمندر کے پاس پہنچے تو ایک مچھلی ملی، اسے نکال کر اس کا پیٹ چیرا تو اس کے اندر سے ایک قیمتی موتی نکلا ان میں سے ایک نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا پھر بولا کیا خدا کی شان ہے! جب اطاعت خدا کر رہے تھے تو کچھ نہ ملا، نافرمانی میں یہ مال ہاتھ آیا۔ یقیناً دال میں کچھ کالا ہے۔ پھر اُس نے موتی اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا کہ اللہ اس کا عوض عطا فرمائے گا۔ ساتھیوں سے بولا چلو دوسری جگہ چلو یہاں ہم نے نافرمانی رب کی ہے۔ وہاں سے تین چار کلو میٹر دور جا کر خیمہ لگایا پھر ساحل سمندر پر پہنچے، اب کی بار انہیں الکنعد مچھلی ملی، اس کے پیٹ میں بھی ایک بہترین موتی ملا بول اٹھے۔ الحمد للہ اس نے ہمیں رزق طیب عنایت کیا۔ اب کیونکہ وہ توبہ کر چکے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے اس لئے اس موتی کو لے لیا۔

دیکھئے کہ معصیت میں پڑے تھے تو رزق خبیث ملا، طاعت گزار ہوئے تو رزق طیب ”اگر وہ اللہ ورسول کی عطا پر راضی رہتے اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے تو اللہ ورسول انہیں اپنے فضل سے اور نوازتے وہ کہتے کہ ہم اللہ کی طرف ہی رغبت رکھتے ہیں۔“

یہ اللہ کا لطف و کرم ہے، جو شخص اللہ کے لئے کچھ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اس سے مجھے حضرت علیؓ کا قصہ یاد آ گیا آپ کو فد کی مسجد میں چاشت کی نماز پڑھنے کے لئے داخل ہوئے۔ انہوں نے دروازے کے پاس ایک لڑکا دیکھا اُس سے کہا بیٹے اس خچر کو پکڑ لو تاکہ میں

غم نہ کریں

نماز پڑھ لوں۔ پھر آپ مسجد میں آ کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ لڑکے نے خچر کی ٹکیلی لی اور اسے بیچنے کے لئے بازار چلا گیا۔ حضرت علیؑ نماز کے بعد خچر کے پاس آئے دل میں ارادہ تھا کہ لڑکے کو اس کی خدمت کے عوض ایک درہم دیں گے۔ اب آپ نے پایا کہ نہ لڑکا نہ خچر کی لگام۔ اس کے پیچھے ایک آدمی کو بازار روانہ کیا، اس نے لڑکے کو پایا کہ ایک درہم میں لگام بیچ رہا ہے واپس آ کر حضرت علیؑ کو اس کی خبر دی، فرمایا سبحان اللہ! میں تو اسے حلال کا ایک درہم دینا چاہتا تھا لیکن وہ حرام ہی لینا چاہتا ہے۔ بندے جہاں اور جس جگہ بھی ہوں جہاں بھی جائیں اور اتریں اللہ کا لطف و کرم ساتھ ساتھ رہتا ہے۔

”تم جن کام میں بھی ہوتے ہو قرآن کی جو بھی تلاوت کرتے ہو اور جو عمل بھی انجام دیتے ہو ہم ہر جگہ رہتے ہیں، جب تم وہاں آ رہے ہوتے ہو، تمہارے رب کی گرفت سے زمین و آسمان میں کوئی ذرہ بھی دور نہیں ہے۔“ (۶۱:۱۰)

اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں کا گمان بھی نہیں ہوتا

التنوخی نے اپنی کتاب ”الفرج بعد الشدة“ میں ایک قصہ لکھا ہے جو یہاں ذکر کرنے کے لائق ہے کہ ایک آدمی مصیبت میں گرفتار ہوا۔ روزی کے دروازے اس پر بند ہو گئے ایک دن گھر میں فاقہ کی نوبت بھی آ گئی، اس نے کہا کہ ایک دن تو بھوکے رہ گئے، دوسرے دن جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوا۔ تو بیوی بولی، جاؤ کچھ تلاش کر کے لاؤ، روزی روٹی کا کچھ بندوبست کرو ورنہ مرجائیں گے، کہتا ہے، مجھے ایک پڑوس کی عورت یاد آئی اس کے گھر جا کر میں نے اس سے سب حال بتایا، اُس نے کہا ہمارے پاس تو صرف ایک مچھلی ہے وہ بھی سڑ گئی ہے، میں نے کہا وہی دو، ہم تو مر رہے ہیں، میں اُسے لے گیا۔ اُس کا پیٹ چیرا تو اُس سے ایک موتی نکلا جو ہزار دینار میں فروخت ہوا۔ میں نے پڑوسن کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا جو میرا حصہ ہو بس وہی میں لوں گی زیادہ نہیں۔ کہتا ہے: اُس کے بعد میں ثروت مند ہو گیا، اس سے گھر میں اثاثہ خریدا، اصلاح حال ہوئی اور روزی میں کشادگی ہو گئی اور یہ محض اللہ کا لطف و کرم ہے۔

”تمہیں جو بھی نعمت ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔“ (۵۳:۱۶) ”یاد کرو کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کتنا تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی۔“ (۹:۸)

وہی بارش برساتا ہے

ایک فاضل صوفی نے ہم سے بیان کیا کہ بادیہ میں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ عبادت، انابت اور ذکر واذکار ہی کی مشغولیت تھی۔ کہتے ہیں، ہمارے قریب کے پانی کے چشمے سوکھ گئے۔ میں گھر والوں کے لئے پانی لینے کے لئے نکلا۔ میں نے پایا کہ چشمہ سوکھ گیا ہے۔ دائیں بائیں تمام اطراف میں پانی ڈھونڈ لیکن ایک قطرہ پانی بھی نہ ملا، پیاس لگنے لگی، بچے پانی پانی کرنے لگے تو میں نے اللہ سے لو لگائی۔ تیمم کیا قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھی پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ روایا گزر گڑایا، یہ آیت یاد آئی کہ ”کون ہے جو پریشان کی سنتا ہے جب وہ اسے پکارے“ بخدا میں اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہ تھا کہ ایک بدلی اٹھی اور صحراء میں عین میرے مکان پر مرتکز ہو کر خوب برسی ہمارے اطراف کے تمام چشمے بھر گئے۔ ہم نے غسل بھی کیا اور وضو بھی۔ حالانکہ آسمان بالکل صاف تھا نہ بادل تھے نہ گھٹا۔ میں نے اللہ کی حمد کی، اپنے مکان کے پیچھے تھوڑا بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی سوکھا اور قحط ہے۔ تب اندازہ ہوا کہ اللہ نے خاص میری دعا پر یہ بدلی ارسال فرمائی تھی، میں نے اللہ عزوجل کی حمد کی۔ ”وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے مایوسی کے بعد اپنی رحمت پھیلاتا ہے اور وہی ولی وحمید ہے۔“ (۲۸:۲۲)

لہذا ضروری ہے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں کیونکہ اس کے علاوہ نہ کوئی نفس کی اصلاح کر سکتا ہے، نہ روزی اور ہدایت دے سکتا ہے، نہ توفیق اور ثبات دے سکتا ہے اور نہ مدد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے بارے میں خود فرمایا ”ہم نے اس کی بیوی کو اس کے لئے ٹھیک کر دیا یہ لوگ خیر کے کاموں میں سبقت کرتے اور رغبت و خوف میں ہمیں پکارتے اور ہمارے سچے اطاعت گزار تھے۔“ (۹۰:۲۱)

نعم البدل بھی وہی دیتا ہے

ابن رجب وغیرہ نے لکھا ہے کہ مکہ میں ایک عابد زاہد شخص تھا۔ اس کا مال ختم ہو گیا اور شدید بھوک کے باعث ہلاکت کے قریب ہو گیا۔ مکہ کی کسی گلی میں گھومتے ہوئے اسے ایک قیمتی ونفیس ہار پڑا ملا۔ اسے آستین میں دبا کر حرم پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص ہار کی گمشدگی کا اعلان کر رہا ہے کہتے ہیں کہ اس نے مجھے صحیح صحیح اس ہار کے بارے میں بتا دیا تو وہ ہارا سے دے کر میں نے گزارش کی کہ میری بھی کچھ مدد کرے لیکن اس نے ہار لیا اور مڑے بغیر چلتا بنا، ایک دھیلا بھی مجھے نہ دیا۔ میں نے کہا اے اللہ یہ میں نے تیری خاطر چھوڑ دیا، تو ہی اس کا نعم البدل عنایت کر۔ پھر وہ ساحل کی طرف گیا اور ایک کشتی میں بیٹھ گیا کہ اچانک تیز تند ہوا چلی جس سے کشتی پھٹ گئی یہ شخص ایک لکڑی پر بیٹھا رہا، موجیں دائیں بائیں دھکیلتی ہوئی ایک جزیرہ پر لے گئیں وہاں اترا تو ایک مسجد دیکھی جہاں چند لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے بھی نماز پڑھی پھر قرآن کے کچھ اوراق پائے تو تلاوت کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا تم قرآن پڑھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا ہاں کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لئے کہا۔ اجرت پر بات طے ہو گئی پھر میں نے لکھا تو بولے کہ بچوں کو لکھنا بھی سکھا دو۔ چنانچہ اجرت پر میں نے انہیں لکھنا بھی سکھانا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا: ہمارے ایک صالح آدمی جس کی وفات ہو گئی ہے کی ایک بیٹی ہے کیا تم اس سے شادی کر سکتے ہو؟ میں نے کہا کیا حرج ہے۔ کہا ”پھر میں نے اس سے شادی کر لی جب اس کے پاس گیا تو وہی ہار اس لڑکی کی گردن میں تھا۔ میں نے پوچھا اس ہار کا کیا قصہ ہے؟ تب اُس نے بتایا کہ اس کے باپ سے یہ ہار مکہ میں کھو گیا تھا ایک آدمی کو ملا تھا جسے اُس نے اس کے حوالہ کر دیا تھا۔ اس کا باپ سجدے میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اس کی بیٹی کو ایسا ہی شوہر ملے، کہا کہ وہ آدمی تو میں ہی ہوں۔ یعنی وہ ہارا سے حلال طریقے سے مل گیا کیونکہ اس نے اللہ کے لئے اسے چھوڑ دیا تھا، اللہ نے اُسے نعم البدل عنایت کیا ”کیونکہ اللہ پاک ہے، پاکیزہ چیز ہی پسند کرتا ہے۔“



مانگنا ہی ہے تو اللہ سے مانگو

اللہ کا لطف قریب ہے، وہ سمجھ و مجیب ہے، ہم خطا کار ہیں لہذا ہمیں شدید ضرورت ہے کہ اسے پکاریں اس سے دعا کریں اور اس میں اکتائیں نہیں ہم یہ نہ کہیں کہ کتنی ہی دعا کر لی قبول ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کے درپر کریں اور یا ذالجلال والا کرام کا ورد کریں اللہ کی صفات حسنیٰ اور صفات علیا کو بار بار باردہرائیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہماری فریاد سن لے یا اپنے پاس سے کوئی بدلہ دے۔

”اپنے رب کو گڑگڑا کر اور چپکے چپکے پکارئے“ (۷:۵۵)

ایک داعی نے اپنے کسی رسالہ میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک ملک میں پناہ لینے کے لئے گیا اور وہاں کی شہریت مانگی۔ اپنے دوست احباب سے مدد مانگی اور پوری کوشش کی لیکن اس کے سارے راستے بند ہو گئے۔ تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ اس کی ملاقات ایک متقی عالم سے ہوئی اور ان سے سارا حال بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رات کے اخیر حصہ میں اپنے آقا و مولیٰ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ، وہی ہر چیز کو آسان کرے گا۔ یہی حدیث کا مفہوم ہے کہ ”جب تم مانگو تو اللہ سے ہی مانگو، مدد تو اللہ سے لو اور یہ جان لو کہ تمام لوگ مل کر بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے“ اس آدمی کا کہنا ہے: اس کے بعد میں نے لوگوں کے پاس اور سفارشیں کروانا چھوڑ دیا۔ میں روز رات کے اخیر حصہ میں وہی عمل کرتا جو اس عالم نے بتایا تھا۔ اور سحر میں دعائیں کرتا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے پھر درخواست دی اور کوئی سفارش استعمال نہیں کی کچھ دن کے بعد میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ طلحہ آئی اور مجھے شہریت مل گئی جسکی سخت ضرورت تھی۔

قیہتی لہجات

التونخنی نے ذکر کیا ہے: بغداد میں ایک وزیر نے ایک بڑھیا کے مال و اسباب پر دست درازی کی اس کے حقوق و اموال ضبط کر لئے، بڑھیا روتی پیتی اس کے پاس گئی اور اُس کے ظلم و جور کا ذکر کیا اُس نے کوئی پروا نہ کی، نہ توبہ کی، بڑھیا نے کہا میں تجھے بد عبادوں گی۔ تب وہ بوڑھیا کا مذاق اڑانے لگا

غم نہ کریں

اور بولا جا جارات کے تیسرے پہر میں بددعا دینا، اُس نے اپنے فسق و طاعت کے زعم میں ایسا کہا تھا لیکن بڑھیا نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ معزول ہوا، اس کے اموال چھین لئے گئے۔ جانکاد ضبط ہوئی۔ اور بیچ بازار میں کوڑے لگائے جانے لگے کیونکہ لوگوں پر خوب ظلم ڈھائے تھے۔ بڑھیا وہاں سے گزری اور اس سے کہا ”تو نے صحیح مشورہ دیا تھا۔ رات کے تیسرے پہر کو میں نے بہت اچھا پایا۔“

رات کا یہ حصہ بہت ہی قیمتی اور گراں قدر ہے اس میں رب العزت فرماتا ہے ”کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مغفرت چاہتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی پکارنے والا ہے کہ اس کی پکار سنوں؟“

نوجوانی میں بہت سے تجربے ہوئے، بہت سی باتیں سنیں، اور بہت سے ناقابل فراموش حادثات سے گزرا لیکن جو سب سے زیادہ فریادرس بھی ہو اور مدد و لطف و کرم کا منبع بھی ایسا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ملا۔

خلیج کے بحران کے وقت میں ہوائی جہاز سے ابہا سے ریاض کو روانہ ہوا۔ آسمان میں بلند ہوتے ہی اعلان ہوا کہ دوبارہ ہوائی اڈے پر جہاز اترے گا کیونکہ اُس میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے، پھر ہم لوٹے اور انہوں نے جتنی مرمت کرائی تھی وہ کرائی۔ دوبارہ کوچ کیا، ریاض کے قریب ہی پہنچے تھے کہ جہاز کے پہیوں نے کام کرنا بند کر دیا اور ایک پورا گھنٹہ جہاز ہمیں لئے ریاض کے آسمانوں میں گھومنے لگا۔ اُس نے دس بار سے زیادہ لینڈ کرنے کی کوشش کی لیکن اتر نہیں سکا ہمیں گھبراہٹ اور اضطراب لاحق ہو گیا، عورتوں اور بچوں کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے، ہم آسمان وزمین کے مابین موت کو ایسے آتا دیکھنے گے جیسے پلک جھپکتے آ جائے گی۔ ہر چیز یاد کرنے لگے۔ عمل صالح سب سے بڑی ڈھارس تھی۔ دل اللہ اور آخرت میں اٹک گیا۔ دنیا اچانک بے کار، سستی اور حقیر نظر آنے لگی۔ اور ہم نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملك وله الحمد وهو على كل شئى قدير کا زور زور سے ورد شروع کر دیا۔ ایک بوڑھے شیخ نے لوگوں سے چلا کر کہا کہ اللہ کی پناہ لیں، اس سے دعا کریں، استغفار کریں اور توبہ کریں۔

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نفسیات کا ذکر یوں فرمایا ہے ”پس جب وہ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں تو مخلصانہ طور پر بس اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔“ (۶۵:۲۹) چنانچہ ہم نے بھی اسی کو پکارا، روئے اور گڑگڑائے، کچھ ہی دیر بعد گیارہویں یا بارہویں مرتبہ جہاز لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم کیمین سے یوں نکلے جیسے قبروں سے نکلے ہوں۔ نفوس اپنی پہلی حالت پر لوٹ آئے، آنسو سوکھ گئے، چہروں پر مسکراہٹیں آئیں، اللہ نے کتنا بڑا لطف و کرم کیا۔ شاعر کہتا ہے :

مصیبت میں ہم اللہ کو خوب پکارتے ہیں جب بلاء دور ہو جاتی ہے تو اُسے ہم بھول جاتے ہیں، سمندر میں ہم پکاریں گے کہ ہماری کشتی بچالے، کنارے آ کر پھر اُس کی نافرمانی کرنے لگیں گے۔ امن و سکون سے فضا میں پرواز کریں گے، گریں گے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ محافظ ہے۔ یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف و احسان ہے۔

مصیبت میں کون ہمارے کام آتا ہے

جریدۃ التقسیم ملک کا ایک پرانا اخبار ہے، اُس میں آیا ہے کہ دمشق کے ایک نوجوان نے سفر کے لئے ٹکٹ رزرو کر لیا اپنی والدہ کو بتا دیا کہ ہوائی جہاز اتنے بجے پرواز کرے گا اس لئے اس ٹائم پر اسے اٹھادیں پھر وہ سو گیا، ماں نے ذرائع ابلاغ میں موسم کے احوال سنے کہ ہوائیں شدید ہیں اور بادل گھرے ہوئے ہیں، ریلی آندھیاں چل رہی ہیں۔ اسے اپنے اکلوتے بیٹے پر ترس آیا اس لئے اس نے وقت پراٹھا یا ہی نہیں، جب یہ یقین ہو گیا کہ جہاز پرواز کر چکا ہو گا تب بیٹے کو جگانے آئی لیکن اسے بسر پر مردہ پایا:

کس قدر مشکل ہے جینا کس قدر آساں ہے موت

”کہہ دو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں لاحق ہو کر رہے گی پھر تم حاضر و غائب کو جاننے والے کے پاس لوٹائے جاؤ گے پس وہ تم کو خبر کرے گا تمہارے اعمال کی“ (۸:۶۲)

سچ ہے کہ موت سے بھاگا اور موت میں گرا۔ کہاوت ہے کہ جو بچنے والا ہوتا ہے اسے سمندر میں بھی رستہ مل جاتا ہے اور جب قضا آ جائے تو کوئی بھی چیز موت کا سبب بن سکتی ہے۔

موت کا ایک قصہ

شیخ علی طنطاوی نے اپنے سماعتات و مشاہدات میں لکھا ہے کہ شام کے ایک آدمی کے پاس لاری تھی۔ اس کے ساتھ ایک آدمی گاڑی پر سوار ہوا۔ اس کے اوپری حصہ میں ایسبولینس تھی جس میں ضرورت کے لئے ایک بادبان بھی تھا۔ بارش ہوگئی پانی بہا، یہ سوار کھڑا ہوا اور ایسبولینس میں داخل ہو گیا اور اپنے کو بادبان سے ڈھک لیا۔ اتنے میں ایک اور سوار ہوا جو ایسبولینس کی جانب چلا گیا اسے معلوم نہ تھا کہ پہلے سے بھی کوئی آدمی موجود ہے۔ بارش پڑتی رہی، اچانک پہلے والے نے یہ دیکھنے کے لئے کہ بارش تھی یا نہیں اپنا ہاتھ باہر نکالا؟ دوسرا بے چارہ اس کے چمکتے ہاتھ کو دیکھ کر سمجھا کہ مردہ زندہ ہو گیا، اس پر گھبراہٹ اور خوف طاری ہو گیا۔ اپنے آپ کو بھول گیا اور شدید گھبراہٹ میں گاڑی سے نیچے گر پڑا جو اس کے بھچو کو پاش پاش کر گئی۔ اس بے چارے کی موت اس طریقہ پر لکھی تھی وہ آ کر رہی۔

بندہ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ موت اس کے تعاقب میں ہے، وہ صبح و شام موت کی طرف گامزن ہے۔ کتنی شاندار بات ہے جو حضرت علیؑ نے فرمایا کہ ”آخرت سامنے آنے کے لئے چل پڑی ہے اور دنیا پیچھے کی طرف واپس چل رہی ہے۔ اس لئے آخرت کے ہنودنیا کے نہ بنو۔ آج عمل ہے اور حساب نہیں، کل صرف حساب ہوگا عمل نہیں۔“ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو تیار ہونا چاہئے، وہ اصلاح حال کرے، تجدید تو بہ کرے اور یہ جان لے کہ اس کا معاملہ رب کریم کے ساتھ ہوگا جو قوی و عظیم بھی ہے اور کریم بھی۔ موت کسی سے اجازت نہیں لے گی نہ کسی کی طرف داری کرے گی نہ ہی وہ پہلے سے لوگوں کو آنے کی اطلاع دے گی۔

”کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور نہ یہ کہ کسی جگہ موت آئے گی۔“ (۳۱:۳۴)

موت میں نہ تاخیر ہو سکتی ہے نہ تقدیم

طنطاوی نے ہی اپنے سماعتات و مشاہدات میں ذکر کیا ہے کہ ایک بس جو سواریوں سے بھری ہوئی تھی ڈرائیور دائیں بائیں دیکھتا جا رہا تھا دفعۃً ٹک گیا سواریوں کے سبب پوچھنے پر بولا ایک بوڑھا

آدمی سوار ہونا چاہتا ہے اسی نے ہاتھ دے کر رکوا یا ہے۔ لوگوں نے کہا ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ کہا نہیں دیکھو! کہنے لگے کوئی بھی تو نہیں ہے، کہا دیکھو وہ بیٹھنے کے لئے آیا، وہ سب پھر بولے ہمیں تو کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ اچانک وہ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھے بیٹھے مر گیا۔

”پس جب ان کی موت آجائے گی تو نہ اس میں ایک ساعت کی تقدیم ہوگی نہ تاخیر۔“^{۳۳:۷}
انسان خطرات سے گھبراتا اور موت سے بھاگتا ہے لیکن موت ہے کہ عین مامن کے اندر آ کر دبوچ لیتی ہے

”وہ لوگ جو پیچھے بیٹھے رہے اپنے بھائیوں کے بارے میں بولے کہ انہوں نے ہمارا کہا کیا ہوتا تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ تم اپنے آپ سے موت کو دفع کر لو اگر تم سچے ہو۔“ (۱۶۸:۳) عجیب بات یہ بھی ہے کہ جب ہم خطروں سے دوچار ہوتے ہیں تبھی ہمیں اللہ سے ملاقات دنیا کی حقارت اور اسے چھوڑ کر جانے کی بات یاد آتی ہے۔

جنہیں تم پکارتے ہو وہ گم ہو گئے سوائے اللہ کے

۱۴۱۳ھ میں میں نے ریاض سے دمام شہر کا سفر کیا اور تقریباً دوپہر دو بجے وہاں پہنچا۔ ہوائی اڈے پر اپنے ایک دوست کا انتظار کیا جو ڈیوٹی پر تھا اور دیر سے ہی نکلتا تھا، قریب کے ایک ہوٹل کے لئے میں گاڑی کرایہ پر لی، ہوٹل میں داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ وہاں زیادہ لوگ نہ تھے۔ چھٹی اور وزٹ کے دن بھی نہ تھے۔ کارکنوں اور ملازموں سے ہٹ کر میں نے چوتھی منزل پر ایک کمرہ لیا۔ میرے ساتھ کوئی نہ تھا۔ کمرہ میں داخل ہو کر میں نے بیگ بستر پر رکھ دیا اور وضو کے لئے آیا۔ ہاتھ روم کو بند کر کے میں نے وضو کیا پھر دروازہ کھولنے کے لئے آیا تو وہ بند ملا میں نے ہر طرح اسے کھولنے کی کوشش کی لیکن نہیں کھلا اب میں وہاں بالکل اکیلا تھا۔ نہ کوئی کھڑکی نہ فون جس سے رابطہ کر دوں، نہ پاس میں کوئی آدمی جسے آواز دوں۔ اب مجھے اللہ رب العزت کی یاد آئی۔ میں اس جگہ پون گھنٹہ رہا جو مجھ پر پورے تین دن کی طرح گزرے۔ پسینہ پھوٹ پڑا، دل تھرا کر رہ گیا کیونکہ میں نئی جگہ تھا۔ دوسرے جو معاملہ پیش آیا وہ بالکل اچانک تھا۔ پھر میں کسی سے رابطہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ صرف پون گھنٹہ میں کتنی

عبرتیں حادثات اور یادیں دماغ میں گھوم گئیں۔ بقول شاعر:

کبھی پوری عمر تنگ ہو جاتی ہے اور ایک گھڑی کی راحت ملتی ہے اور پوری زمین پر ایک ہی جگہ پاؤں دھرنے کو ملتی ہے۔

آخر میں نے دروازہ کو دھکا دینے کے بارے میں سوچا چنانچہ کمزور و نحیف جسم سے میں نے دھکا دینا شروع کیا، مجھے لگا کہ گھڑی کے ڈائل جتنا لوہے کا ٹکڑا آہستہ آہستہ کھسک رہا ہے۔ میں اس میں لگا رہا جب تھک جاتا رک جاتا پھر شروع کر دیتا پھر تھک جاتا تو رُک جاتا اور پھر شروع کر دیتا آخر میں دروازہ کھل گیا مجھے لگا کہ میں قبر سے نکل آیا ہوں۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا مجھے اللہ کی قدرت کے ساتھ انسان کی کمزوری، بے تدبیری اور موت کے پیچھے لگے ہونے کا احساس ہوا ساتھ ہی اپنے نفس اور عمر میں اپنی غلطیاں اور آخرت فراموشی بھی یاد آئی۔

”اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے“ (۲۸۱:۲) ”تم جہاں بھی ہو گے موت تمہیں آئے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔“ (۷۸:۴)

اس باب میں بہت سے عجائب و غرائب میں نے پڑھے بھی ہیں اور سنے بھی۔ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی موت کی طرف جاتا ہے، زندگی مل جاتی ہے۔ کوئی زندگی کی طرف جاتا ہے، موت مل جاتی ہے۔ کوئی علاج کراتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے کوئی اپنے آپ کو فدا کر دیتا اور موت کو گلے لگاتا ہے تو وہ نجات پا جاتا ہے۔ پس ساری عظمت اور حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے ہے۔

کبھی بیماری ہی شفا بن جاتی ہے

اہل سیر نے لکھا ہے کہ ایک آدمی پر فالج گرا، اسے گھر میں بیٹھا دیا گیا، حزن و ملال اور مایوسی کے کئی سال گزر گئے ڈاکٹر اس کے علاج میں ناکام ہوئے، اور یہ بات انہوں نے اس کے گھر والوں کو بھی بتادی، ایک دن گھر کی چھت سے ایک بچھو گرا، وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا۔ بچھو اس کے سر پر آ گیا اور اسے کئی بار سر پر کاٹ کھایا۔ زہر کے مارے اس کا جسم سر سے پیر تک کانپ گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ زندگی اس کے جسم میں لوٹ آئی، مردہ رگوں میں خون دوڑ گیا۔ اب وہ ہاتھ جھاڑ کر اٹھا چستی کے ساتھ پیروں پر کھڑا ہوا۔ کمرہ میں چلا پھر دروازہ کھول کر اپنے بیوی بچوں کے پاس آیا، انہیں اسے کھڑا

اور چلتا دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ پھر اُس نے ساری بات بتائی۔
پس اللہ ہی کی عظمت ہے کہ اس نے اس کا علاج زہر میں رکھ دیا تھا۔ اس قصہ کا ذکر بعض
ڈاکٹروں سے میں نے کیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ اس قسم کے مریضوں کا علاج زہر سے
کیا جاتا ہے۔ جس کی حدت کیمیادی طریقہ سے کم کر دی جاتی ہے۔ کتنا عظیم ہے اللہ تعالیٰ جس کی صفت
یہ ہے کہ ”اس نے جو بھی مرض اُتار ہے اس کی دوا بھی نازل کی ہے۔“

اولیاء کی کرامات

تابعین میں صلۃ بن اشیم ایک عابد زاہد ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لئے شمال کی طرف گئے۔
رات آئی تو جنگل میں عبادت کے لئے جاتے ہیں درختوں کے بیچ میں جا کر وضو کر کے نماز کے لئے
کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک شیر دانت نکالے صلۃ کے پاس آیا۔ وہ نماز پڑھتے رہے، انہوں نے نہ
نماز توڑی نہ ان کے خشوع و خضوع میں فرق آیا، شیر ان کے چاروں طرف گھومتا رہا۔ پھر صلۃ بن اشیم
دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں اور شیر سے کہتے ہیں: اگر تجھے مجھے ماردینے کا حکم دیا گیا ہے تو مجھے
کھاؤ اور اگر اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے تو مجھے چھوڑ دو کہ اپنے رب سے سرگوشی کروں۔ تب شیر نے اپنی دم
ڈھیلی کی اور وہاں سے چلا گیا اور انہیں نماز پڑھنے کے لئے چھوڑ دیا۔

البدایۃ والنہایۃ جیسی کتب تاریخ کو دیکھیں۔ تذکرہ صحابہ کی کتابوں میں رسول اکرم کے خادم
سفینہ کا قصہ ہے۔ جس میں ہے کہ سفینہ اور ان کے رفقاء سمندر کے ساحل پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک شیر
دانت نکالے ان کی طرف آ رہا ہے، سفینہ نے کہا اے شیر ہم اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں۔ میں آپ کا
خادم ہوں یہ میرے ساتھی ہیں اس لئے تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چنانچہ شیر بھاگ گیا اور اتنے زور
سے دھاڑا کہ سارا مقام گونج اٹھا۔

ان واقعات و حادثات کا انکار کوئی کج بحث ہی کر سکتا ہے، ورنہ اللہ کی سنتوں میں ایسی بہت سی
کہانیاں ہیں اگر طول کلام کا اندیشہ نہ ہوتا تو اس سلسلہ میں دسیوں صحیح اور ثابت شدہ قصے نقل کرتا۔ اس
حدیث سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا رب ہے جو لطف و کرم والا ہے جس سے کوئی چیز نہیں چھپی۔

اس کا علم سب کو محیط ہے فرمایا:

”تین کے بیچ کوئی بات ہوتی ہے تو اللہ چوتھا ہوتا ہے پانچ کے بیچ ہوتی ہے تو اللہ چھٹا ہوتا ہے۔ اس سے کم ہوں یا زیادہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوتے ہیں۔“ (۷۸:۷)

اللہ ہی بہترین مددگار اور کارساز ہے

امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے دوسرے سے ہزار دینار قرض لئے، اس نے کہا: کیا تمہارا کوئی گواہ ہے، کہا میرا گواہ تو بس اللہ ہے کہا پھر تو اللہ کافی ہے، کہا تمہارا کوئی وکیل ہے، بولا نہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں، بولا کہ پھر تو اللہ کافی ہے۔ پھر اسے ہزار دینار دے دئے آدمی چلا گیا۔ دونوں کے بیچ ایک وقت اور مدت متعین ہو گئی۔ اس دیار میں دونوں کے مابین ایک نہر تھی۔ جب وقت قریب آیا تو قرض دار قرض اتارنے کے لئے دینار لے کر آیا۔ نہر کے کنارے کشتی کی کھوج میں لگا اسے کچھ نہ ملا، لمبی رات تک وہ انتظار کرتا رہا کہ کچھ ملے کہنے لگا: بارالہ! اس نے گواہ طلب کیا تیرے علاوہ کوئی نہ ملا، اس نے ضامن طلب کیا کوئی نہ ملا۔ اے اللہ پیغام اسے پہنچادے۔ پھر ایک لکڑی لے کر اُسے چیرا اُس میں دینار رکھے، ایک خط لکھا اور اس لکڑی سے باندھ کر نہر میں پھینک دیا، اللہ کے اذن اور مہربانی سے وہ لکڑی چل پڑی۔ قرض دار بھی اپنے ساتھی کے وعدہ کا انتظار دیکھ رہا تھا اور نہر کے کنارے کھڑا تھا۔ جب کوئی نہ آیا تو دل میں بولا کہ گھر کے لئے لکڑی ہی لے جاؤں؟ اسے پانی میں وہی لکڑی دکھائی دی، اسے لے کر گھر گیا اور جب توڑ کر دیکھا تو دینار اور پیغام دونوں چیزیں اس میں نکل آئیں کیونکہ اللہ تعالیٰ مددگار ہے اور وکیل ہے اور وکالت پوری کرتا ہے۔

”اللہ ہی پر ایمان والے توکل کرتے ہیں اور اللہ پر ہی توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو۔“ ۲۳:۵

وقفہ

لبید کہتے ہیں: جب نفس تم سے کچھ کہے تو اس کا کہنا نہ مانو۔ نفس کی پیروی سے اُمید ختم ہو جاتی ہے۔ البستی کہتا ہے: تھکی طبیعت کو کچھ آرام پہنچاؤ، تھوڑا سا مزاج اور تفریح بھی دو لیکن بس اتنا جتنا

اٹے میں نمک ڈالا جاتا ہے۔ ابوعلی بن ایشبل کہتا ہے: جسم کی حفاظت ہی سے تو روح باقی رہے گی۔ دیا ٹھیک ہے تو آگ بھی جلے گی، لہذا نفس کو قاتل مایوسی سے نہ مار ڈالو، نہ ہی از حد اُمید سے اُسے دراز کر دو۔ شہداء میں اُسے فراخی کی اُمید دلاؤ اور فراخی میں شہداء کی یاد دلاؤ، اِس سے اور اُس سے نفس ٹھیک ٹھاک رہے گا کیونکہ دوا کی منفعت مرکب بنانے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔

حلال روزی کھائیں دُعا قبول ہوگی

سعد بن ابی وقاص اس حقیقت سے آشنا تھے۔ وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں صحیح ہدف اور اجابت دعا کی دعا فرمائی تھی چنانچہ جب بھی دعا کرتے قبول ہوتی۔ حضرت عمرؓ نے کئی صحابیوں کو بھیجا کہ کوفہ میں سعد کے عدل و انصاف کے بارے میں معلوم کریں، لوگوں نے آپ کی تعریف کی۔ جب وہ قبیلہ بنو عیس کی مسجد میں پہنچے تو ایک آدمی نے کہا آپ سعد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ وہ معاملات میں انصاف سے کام نہیں لیتے، رعایا کے ساتھ نہیں چلتے۔ سعد نے فرمایا ”خدا یا! اگر اس نے محض ریاء و نمود کے لئے یہ بات کہی ہے تو اس کو اندھا کر دے، اس کی عمر دراز کر اور اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔“ چنانچہ اُس شخص نے لمبی عمر پائی اس کے پوٹے آنکھوں تک لٹک آئے تھے۔ کوفہ کی سڑکوں پر لڑکیاں اس کی طرف اشارہ کرتیں۔ وہ اپنے بارے میں کہتا: یہ بوڑھا مفتون ہو گیا ہے اسے سعد کی بددعا لگی ہے۔“

یہ نتیجہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، صدق نیت اور اس کے وعدہ پر بھروسہ کا۔ سیر اعلام النبلاء میں حضرت سعدؓ کے بارے میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر حضرت علیؓ کو گالیاں دینی شروع کیں سعدؓ نے حضرت علیؓ کا دفاع کیا لیکن وہ آدمی سب و شتم کرتا رہا، سعدؓ نے فرمایا: خدا یا میری طرف سے تو اسے جواب دے جیسے چاہے، کوفہ کا ایک اونٹ لوگوں کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور بنا ادھر ادھر مڑے لوگوں پر چڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ اس آدمی کے سر پر پہنچ گیا اور سب لوگوں کے سامنے اپنے پیروں سے اُسے روند ڈالا۔

”بیشک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں مدد و نصرت فرمائیں گے

اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔“ (۵۱:۴۰)

یہ قصبے ہم نے اس لئے بیان کئے ہیں کہ آپ کے اللہ پر ایمان اور اس پر بھروسہ میں اضافہ ہو
صرف اسی کو آپ پکاریں اور سرگوشی کریں۔ کرم وہی کرتا ہے اور کتاب عزیز میں اسی کا فرمان ہے
”مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا“ (۶۰:۴۰) ”اور جب میرے بندے میرے بارے میں

پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں اور جو مجھے پکارتا ہے اس کی سنتا ہوں۔“ (۱۸۶:۲)

حجاج نے حسن بصریؒ کو سزا دینے کے لئے بلایا۔ حضرت حسنؒ چلے گئے ان کے ذہن میں
صرف اللہ کا لطف و کرم اور عنایت تھی، اللہ پر بھروسہ تھا، چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اس کے اسماء
حسنیٰ اور صفات عالیہ کا واسطہ دیا تو اللہ نے حجاج کا دل بدل دیا۔ اس میں رعب ڈال دیا حسنؒ اس کے
پاس جیسے ہی پہنچے اس نے ان کا استقبال کیا، دروازہ تک آیا، انہیں ساتھ لایا، کرسی پر بٹھایا اور نرمی و عنایت
سے گفتگو کی۔

یہ رب العزت کی قوت تسخیر تھی۔ اللہ کی رحمت کائنات میں جاری ہے، عالم انسان میں عالم
حیوان میں، بروبحر میں، رات و دن میں اور متحرک و ساکن میں، فرمایا
”کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے گن نہ گاتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، بلاشبہ وہ حلیم اور
مغفرت والا ہے۔“ (۲۴:۱۷)

صحیح اور ثابت ہے کہ حضرت سلیمانؑ کو پرندوں کی بات چیت سمجھ میں آتی تھی۔ ایک دن لوگوں
کو لے کر نماز استسقاء کے لئے نکلے۔ راستہ میں ایک چیونٹی دیکھی جو پیراٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی
تھی کہ تو ہی دیتا ہے تو ہی کرم کرتا ہے، تو ہی فریاد رس ہے۔ سلیمان نے لوگوں سے کہا لوٹ چلو، غیر کی دعا
تمہیں بھی کافی ہوگی۔ چنانچہ چیونٹی کی دعا پر زور کی بارش ہونے لگی۔ یہ وہی چیونٹی تھی جس کی بات
سلیمان نے اس وقت بھی سنی تھی جب لشکر جرار کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا
تھا۔ قرآن نے اُسے یوں بیان کیا:

”ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیو! اپنے گھروں میں گھس جاؤ مبادا کہ سلیمان اور ان کا لشکر
انجانے میں تمہیں پیس ڈالے۔ اس کے قول پر آپؑ کو ہنسی آگئی۔“ (۱۸:۲۷-۱۹)

بہت بار ان بے زبانوں کے باعث اللہ کی رحمت جوش میں آجاتی ہے۔ ابو یعلیٰ نے ایک حدیث قدسی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”میرے عزت و جلال کی قسم اگر بوڑھے عبادت گزار، دودھ پیتے بچے اور چرنے والے جانور نہ ہوتے تو میں تم پر آسمان کی بارش بند کر دیتا۔“

ہر چیز اس کی تسبیح پڑھتی ہے

پرندوں کی دنیا میں ہد ہد نے اپنے رب کو پہچانا، اس کی طاعت کی، اس کی فرمانبرداری کی، اللہ نے حضرت سلیمانؑ کے تذکرہ میں فرمایا:

”اس نے پرندوں کا جائزہ لیا کہا کیا بات ہے کہ ہد ہد نظر نہیں آ رہا کیا وہ غائب ہو گیا۔ اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا یا تو وہ کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آ کر بولا مجھے وہ معلوم ہوا ہے کہ جو آپ کو معلوم نہیں، میں اہل سب کی یقینی خبر لایا ہوں، میں نے پایا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اُسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ واحد کے لئے سجدے کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے، میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے پھر اُن کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں“ (۲۷:۲۰-۲۷)

ہد ہد جاتا ہے اور پھر وہ قصہ پیش آیا جو معروف ہے جس کے تاریخی نتائج ہوئے۔ اس کا سبب وہی پرندہ تھا جسے معرفت رب حاصل ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ہد ہد فرعون سے بھی زیادہ دانا نکلا۔ فرعون نے خوش حالی میں رب کی نافرمانی کی اور مصیبت آتی دیکھ کر ایمان لایا لیکن اُس وقت اس کے ایمان نے فائدہ نہ دیا۔ ہد ہد نے خوش حالی میں ایمان سے کام لیا جو شدت کے وقت میں اس

کے کام آیا۔ ہد ہد نے کہا

”وہ اس اللہ واحد کے لئے سجدے نہیں کرتے جو پوشیدہ چیزوں کو نکال دیتا ہے۔“ اس کے برعکس فرعون کہتا تھا ”میرے سوا کون تمہارا اللہ ہے۔“

جس آدمی سے پرندہ بھی زیادہ ذکی ہو، چیونٹی بھی جس سے زیادہ انجام کی سمجھ رکھتی ہو، اس کی شقاوت و بدبختی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے، وہ پلید ہی تو ہے جس کے راستے بند، تدبیریں منقطع اور اعضاء معطل ہو جائیں۔ فرمایا:

”ان کے دل ہیں جن سے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے نہیں، کان ہیں جن سے سنتے نہیں۔“ (۱۷۹:۷)

شہد کی مکھیوں کی دنیا میں اللہ کا لطف و کرم اور عنایت ربانی دیکھئے، یہ مخلوق کتنی معمولی اور چھوٹی ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ اپنے چھتے سے نکلتی ہے، پاکیزہ اور خوشبودار چیزوں پر بیٹھتی ہے اور ان کا مشروب چوس لیتی ہے، اسے پھولوں سے پیارا اور کلیوں سے عشق ہے۔ ان سے واپس آتی ہے، اپنے ہی خلیہ میں جاتی ہے اور ایسا عمدہ مشروب بناتی ہے جس میں لوگوں کے لئے شفاء ہے اور رنگ مختلف، وہ راستہ نہیں بھولتی دوسروں کے خلیہ میں کبھی نہیں جاتی۔

”اور تیرے رب نے شہد کی مکھیوں کو وحی کر دی کہ پہاڑ درختوں اور چھپروں کو اپنا مسکن بنائے، پھر تمام پھلوں کو کھائے اور رب تعالیٰ کے آسان کردہ راستوں پر چلے، اُس کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لئے شفاء ہے، بلاشبہ اس میں تفکر کرنے والوں کے لئے نشانی ہے۔“ (۶۸:۱۶-۶۹)

ان قصوں اور عبرت آموز واقعات سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جانیں گے کہ اللہ واحد کا لطف خفی ہر طرف جاری و ساری ہے۔ اس لئے بس اُسی کو پکاریں، اسی سے لو لگائیں، اس سے مانگیں، اور یہ سارے لوگ یہ پوری دنیا اس کے مقابلہ میں آپ کے کسی کام کی نہیں، یہ سب مساکین ہیں اور سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہی سے یہ سب صبح و شام اپنے لئے آرام، خوش حالی، صحت و عافیت و دولت اور جاہ و منصب کی گزارش کرتے ہیں کیونکہ ہر چیز کا مالک بس وہی اکیلا ہے۔

”اے لوگو! تم اللہ کے محتاج ہو اور وہ حمید و بے نیاز ہے۔“ (۱۵:۳۵)

آپ کو پورے طور پر اور علم الیقین کی حد تک جاننا چاہئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہدایت دے سکتا ہے، نہ مدد کر سکتا ہے، نہ حفاظت کر سکتا اور نہ کچھ دے سکتا ہے۔ لہذا دل کو بس اسی سے جوڑئے۔ عزت کا مالک وہی ہے، سب اسی کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں۔

کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق
زباں اور دل کی شہادت کے لائق
اسی سے ڈرو گر ڈرو تم کسی سے
اسی پر مرو گر مرو تم کسی پہ

اس کی عبادت اور اطاعت سے اس کا قرب حاصل کریں۔ اگر اُس سے استغفار کریں گے وہ معاف کر دے گا، توبہ کریں گے تو توبہ قبول کرے گا۔ اس سے مانگیں گے تو دے گا، اس سے رزق چاہیں گے تو روزی دے گا، مدد چاہیں گے مدد دے گا، اس کا شکر کریں گے تو آپ کو اور زیادہ دے گا۔

اللہ سے راضی رہو

”اللہ کو رب اسلام کو دین اور محمدؐ کو نبی ماننے“ کے لوازم میں سے ہے کہ ہم اللہ کے احکام، اس کی قضاء و قدر اور اچھی بری تقدیر سے راضی رہیں۔ قضا و قدر میں یہ انتخاب کہ آپ کی خواہشات اور رغبات کے مطابق ہو تو مانیں اور آپ کی مراد اور حجان کے خلاف ہو تو نہ مانیں یہ درست نہیں ہے اور یہ بندے کی شان کے خلاف ہے۔ جو لوگ آسانی میں رب سے راضی اور مصیبت میں ناراض ہوتے ہیں، نعمت میں طاعت گزار اور آفت میں نافرمانی کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا:

”اگر انہیں خیر پہنچے تو مطمئن ہوتے ہیں آزمائش لاحق ہو تو منہ پھیر لیتے ہیں، وہ دنیا و آخرت کے خسارہ میں ہیں۔“ (۱۱:۲۲)

بعض اعرابی مسلمان ہوتے تھے، جب بارش ہوتی، بکریاں دودھ زیادہ دیتیں نباتات اُگتیں تو کہتے: یہ تو اچھا دین ہے اور فرمانبرداری و اطاعت کرنے لگتے، جب دوسری صورت ہوتی کہ قحط پڑتا،

غم نہ کریں

سوکھا آجاتا، مال کم ہوتے چراگاہ کی قلت ہوتی تو ایڑیوں کے بل پھر جاتے اور دین کو چھوڑ بیٹھتے۔ ان کا دین خواہشات کا دین تھا۔ ان کے برعکس صاحب ایمان وہ تھے جو بہر صورت راضی تھے۔ انہیں اللہ کی خوشنودی مطلوب تھی، بس اس کا فضل چاہتے تھے۔ بقول شاعر: اے اللہ ہم نے تجھے رب و خالق مانا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور ہدایت تسلیم کیا ہے۔ ہمیں پروا نہیں کہ اسلام کی روشنی میں زندگی ملے یا دشمنوں سے مقابلہ میں موت آجائے۔

غلامانِ محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے

یہ سرکٹ جائے یا رہ جائے کچھ پروا نہیں کرتے

جو بظاہر بندگی کا راستہ اپناتے ہیں، ملت اسلام کی خدمت کا دم بھرتے ہیں لیکن اس کے تقاضوں و مطالبات کو پورا نہیں کرتے اور بھاگتے ہیں وہ اس لائق ہیں کہ ان کو ہمیشہ کی ذلت اور ابدی خسارہ لاحق ہو۔

”ہم نے اسے اپنی آیات دیں وہ ان سے نکل گیا پس اس کے پیچھے شیطان لگ گیا وہ گمراہوں میں ہو گیا۔“ (۱۷۵:۷) ”اور اگر اللہ ان میں کوئی خیر دیکھتا تو انہیں ضرور سنا دیتا اور اگر انہیں سنا دیتا تو وہ پشت پھیر کر بھاگ جاتے۔“ (۲۳:۸)

واقعہ یہ ہے کہ دین کا سب سے بڑا دروازہ رضا بقضا ہے۔ اس سے رب کے فرمانبردار، اس کی ہدایت پر مسرور اور اس کے اطاعت گزار داخل ہوں گے اور اس کا قرب حاصل کر لیں گے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین میں غنیمت تقسیم کی۔ روماء عرب اور نو مسلم مکہ والوں کی تالیف قلب کے لئے آپؐ نے زیادہ مال دیا اور انصار کو ایمان و یقین اور رضا و خیر عمیم کی جو دولت حاصل تھی اُس پر پھروسہ کرتے ہوئے آپؐ نے انہیں چھوڑ دیا، لیکن اصل مقصود بعض انصاریوں پر متکشف نہ ہو سکا اس لئے وہ کبیدہ خاطر ہو گئے۔ آپؐ نے انہیں جمع فرمایا اور معاملہ کی وضاحت کی اور بتایا کہ آپؐ ان کے ساتھ ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں اور جن کو زیادہ دیا ہے اس لئے دیا ہے کہ ان کے پاس یقین کی دولت کم ہے۔ مقصد ان کی تالیف قلب ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم اس پر راضی نہیں کہ دوسرے اونٹ بکری لے کر جائیں اور تم اپنے گھر اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟“ انصار اصل اور قریبی ہیں

دوسرے تو اتنے قریب نہیں۔ آپ ﷺ نے انصار کے حق میں دعا فرمائی:

”اے اللہ انصار، ابنائے انصار اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما۔“

آپ نے فرمایا: ”بخدا اگر لوگ ایک وادی اور گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری وادی اور گھاٹی میں چلیں تو میں یقیناً انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔“ آپ کے الفاظ نے اثر کیا، انصار کے دل یقین و مسرت سے بھر گئے، ان پر سکینت کا نزول ہوا، انہیں اور زیادہ رسول کی رضا حاصل ہوئی۔

جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور آسمانوں و زمین جتنی وسعت والی جنت کا شوق رکھتے ہیں وہ اس عظیم نعمت کے بدلہ دنیا اور اس کی آلائشوں کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ ایک اعرابی رسول اللہ پر ایمان لایا۔ آپ نے اُسے کچھ مال دیا۔ بولا ”یا رسول اس کے لئے ایمان نہیں لایا ہوں آپ نے دریافت کیا پھر کس کے لئے لائے ہو؟ بولا تا کہ کوئی بھولا بھٹکا تیر میرے حلق میں لگے اور گدی سے نکل جائے (یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں شہادت ملے) آپ نے فرمایا ”اگر تم سچے ہو تو اللہ تمہاری آرزو پوری کرے گا۔“ چنانچہ جنگ میں وہ شریک ہوا۔ ایک تیر لگا جو سینہ کے پار نکل گیا اور وہ خوش خوش اپنے رب سے جا ملا۔

یہ مال و دولت دنیا یہ لذت و پیوند

بتان و ہم و گماں لا الہ الا اللہ

ایک بار آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا بعض ان لوگوں کو جو مال کے حریص تھے دین و امانت اور بلند اقدار کے لحاظ سے غریب تھے زیادہ دیا اور ان کے مقابلہ میں انہیں کم دیا جو اللہ کے راستہ میں اخلاص کے ساتھ لڑتے تھے اور اپنی جان و مال کی قربانیاں دے رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے تقریر فرمائی اور معاملہ کی وضاحت کر دی کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں جزع فزع اور مال کی حرص زیادہ ہے ان کو میں تالیف قلب کے لئے دے دیتا ہوں، بعض لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ان کے دل ایمان اور خیر سے سرشار ہیں، انہیں میں عمرو بن تغلب ہیں، یہ بات سن کر عمرو بن تغلب بولے ”آپ کا یہ جملہ میرے لئے دنیا جہاں سے زیادہ قیمتی ہے۔“ یہ رضا جوئی اور اللہ و رسول کی غیر مشروط اطاعت و محبت تھی کہ ایک کلمہ دنیا جہاں سے ان کی نظر میں بہتر ٹھہرا۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام سے کسی محل، بادشاہت یا

غم نہ کریں

باغ وغیرہ کا وعدہ نہیں کرتے تھے بلکہ جنت کا اللہ کے اجر و ثواب اور خوشنودی کا وعدہ فرماتے تھے، آپؐ فرماتے جو ایسا کرے گا اُسے جنت ملے گی یا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا؟ کیونکہ ان کی جدوجہد، ان کے جان و مال کی قربانیوں کا بدلہ آخرت کی ابدی نعمتیں ہی ہو سکتی تھیں۔ دنیا و مافیہا ان کی عظیم قربانی سے کیا نسبت رکھتی ہے؟ یہ تو بہت سستی اور گھٹاٹے کی قیمت ہوتی۔

سنن ترمذی کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت لیتے ہیں تو آپؐ نے فرمایا ”بھائی! اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا“ آپؐ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے رسول ہدیٰ امام معصوم جس کی زبان سے حق بات کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ یہ ایک عظیم نفیس اور قیمتی بات ہے جس کے بارے میں حضرت عمرؓ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسا کلمہ تھا جو میرے لئے دنیا و مافیہا سے بہتر تھا۔ یہاں آپؐ کو احساس ہونا چاہئے کہ جیسے خود آپؐ سے بھی نبی کریمؐ یہی بات کہہ رہے ہیں۔

نگاہ عشق و مستی میں وہی اوّل وہی آخر

وہی قرآن وہی فرقاں وہی لیس وہی طہ

رب تعالیٰ سے رسول اللہ کی رضا اس درجہ کی تھی کہ اسے بیان نہیں کیا جاسکتا، غنا ہو یا فقر جنگ ہو یا صلح، قوت ہو یا کمزوری، صحت ہو یا بیماری، شدت ہو یا فراخی ہر حال میں آپؐ راضی برضا رہتے تھے۔ آپؐ نے تیبی کا غم اٹھایا، فقر کو جھیلایا کہ کبھی خراب بھجوروں سے کام چلنا اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آجاتی، کبھی اپنی ذرہ یہودی کے ہاں گروی رکھنی پڑتی۔ موٹی چٹائی پر آپؐ سوتے جس کا نشان بھی جسم اطہر پر پڑجاتا، تین تین دن گھر میں چولہہ نہ جلتا پھر بھی کبھی شکوہ زبان پر نہ آتا ”بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو چاہتی تو آپؐ کو اس سے بہتر سامان زندگی دیتی، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں اور محلات مہیا کر دیتی۔“ (۱۰:۲۵)

آپؐ اُس وقت بھی راضی برضا تھے جب میدان جنگ میں نکلنا پڑا، آپؐ اکیلے ایک طرف اور پوری دنیا مقابلہ میں کھڑی تھی، اپنے لاؤ لٹکروں، کیل کانٹوں اور عشرت کے سامانوں اور استکبار کے ساتھ آپؐ کے خلاف صف آرا تھی، جب آپؐ کے پیارے چچا اور پیاری بیوی خدیجہؓ دونوں وفات پا

گئے عام الحزن آ گیا، آپ کی تکذیب اور ایذا رسانی میں شدت آ گئی۔ اس وقت بھی راضی تھے جب آپ کی عزت کو چوٹ پہنچائی گئی آپ کو ساحر کذاب، کافرن، مجنون اور شاعر کہا گیا۔ آپ کو اس پر بھی کوئی شکوہ نہ ہوا جب مکہ سے آپ کو نکال دیا گیا جو آپ کو بے حد محبوب تھا جہاں آپ کا لڑکپن اور آپ کی نوجوانی گزری تھی، ہجرت کرتے وقت آپ اس کی طرف مڑ مڑ کر دیکھتے آنسو جاری تھے اور فرما رہے تھے

”اے مکہ تو زمین میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ

نکالتے تو میں نہ نکلتا۔“

جب آپ طائف گئے۔ ان بد بختوں کو دعوت دین دی تو انہوں نے برا جواب دیا، پتھر پھینکے آپ کے پیروں سے خون بہنے لگا لیکن آپ راضی برضا رہے، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، آپ کا پیچھا کیا گیا، راستے بند کئے گئے، میدان احد میں آپ زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک ٹوٹے پیارے چچا کا ظالمانہ قتل ہوا، بہت سے صحابی شہید ہوئے اور لشکر اسلام شکست سے دوچار ہوا، لیکن آپ کی شجاعت قابل دید تھی کہ فرمایا ”لوگو! صغیر باندھو آؤ اللہ کی حمد و ثنا کریں۔“ منافقین، یہود اور مشرکین سب نے آپ کے خلاف گٹھ جوڑ کیا لیکن آپ چٹان کی طرح اپنے موقف پر جمے رہے، اس کا بدلہ تھا کہ اللہ نے فرمایا: ”تیرا رب عنقریب ہی تجھ کو وہ دے گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے۔“ (۵:۹۳)

وادی ختلہ میں

طائف میں کیا ہوا؟ جہاں آپ دعوت دین کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ بد بختوں نے آپ کو انتہائی حد تک اذیتیں پہنچائیں، پتھر مارے، لونڈے شہدے پیچھے لگا دئے، تمسخر کیا گیا، کون سی تکلیف تھی جو نہ دی گئی ہو، آپ کی آنکھیں روئیں دل ٹمگن، قدموں سے خون جاری، کس کی پناہ لیں کہاں جائیں؟ کس سے شکایت کریں، کس سے مدد مانگیں؟ آپ سب سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو قوی ہے، قہار ہے، عزیز ہے اور حامی و ناصر ہے۔ آپ نے قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا مانگی فرمایا ”اللهم إني أشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، انت

ارحم الراحمين ورب المستضعفين وانت ربي إلى من تكلني؟ إلى قريب
يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، غير أن
عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي اشرفت له الظلمات، وصلح عليه
أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك، أو يحل بي سخطك لك العتبى حتى
ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ۞

ترپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے
کہ زخموں سے بھرا جسم پیپیر یاد آتا ہے
رسول اللہ پر لوگوں نے پتھر اس قدر مارے
لہو بہنے لگا زخمی محمدؐ ہو گئے پیارے
حد نخلہ میں آ پہنچے بحال حسد و غمگین
وہاں چشمہ پہ آکر زخم دھوئے پٹیاں باندھیں
یہ چشم تر نبیؐ نے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی
خدا کا فضل مانگا خوئے تسلیم و رضا مانگی
دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے
انہیں نور بصیرت دے انہیں نور ہدایت دے
الہی رحم کر کہسار طائف کے مکینوں پر
خدایا پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر

صحابہ کرام کو انعام سے نوازا گیا

”اللہ مومنین سے راضی ہو جب وہ تجھ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، ان کے دلوں

میں جو بات ہے اسے اللہ نے جان لیا اور ان پر سکینت نازل کی ان کو قریبی فتح دی۔“ (۱۸:۴۸)

یہی وہ غایت ہے جس کی تمنا مومنین کرتے ہیں، جسے صادقین چاہتے ہیں، کامیاب و کامران

اس کی حرص کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا سے بہتر برتر اور قیمتی کیا چیز ہو سکتی ہے۔ یہ تو سب سے بڑا اور بلند مقصد ہے۔ کوئی عطیہ بھی اس کی برابری نہیں کرتا۔ اس آیت میں رضا کی خبر ہے دوسری میں مغفرت کی:

”تا کہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔“ (۲:۲۸)

ایک اور جگہ اسے توبہ سے تعبیر کیا ہے ”اللہ نے نبیؐ، مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول فرمائی“ (۱۱:۹) ایک جگہ اسے عفو کہا ہے ”اللہ تمہارا بھلا کرے انہیں کیوں اجازت دے دی“ (۲۳:۹)

بہر حال یہاں جو کہا ہے اس سے خوشنودی رب متحقق ہوگئی کیونکہ انہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی اور اللہ کو دل کا حال معلوم ہے۔ وہ اللہ کی رضا کی خاطر جان و روح کی قربانی دینے کی بیعت کر رہے تھے۔ اپنے وجود و بقا کو مٹانے کی بیعت کر چکے تھے کہ ان کی موت سے پیغام حق کو زندگی ملے گی۔ ان کے قتل سے ملت اسلام کو بقا اور ان کے چلے جانے سے بیان وفا پورا ہوگا۔ ان کے دل میں ایمان و یقین، اخلاص و اذعان اور صدق و امانت کے جوہر تابدار تھے۔ وہ تھکے، جاگے، بھوکے رہے۔ پیاس جھیلی، ہر طرح کی مصیبت، ضرر، تنگی مشقت اور نقصان برداشت کیا۔ اسی لئے تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ انہیں گھر بار، دیار و اموال اور اہل و اولاد چھوڑ دینے پڑے۔ فراق کی آگ میں جلے۔ اجنبیت کا ذائقہ چکھا، سفر کی تکان، گرد و غبار اور اجنبیت کا احساس ہوا۔ گھروں سے بھگائے گئے۔ ماں باپ بچوں سے دور ہوئے، مصیبت میں ڈالے گئے، تہمی تو اللہ ان سے راضی ہوا۔ ایسے مجاہدین، ملت کے فرزندوں اور دین کے موافقین کا بدلہ کیا اونٹ اور گائے بیل، بکری یا زرد جوہر یا گنتی کے سکے یا سرسبز باغات اور شاندار محلات ہو سکتے تھے؟ نہیں، ان کا صحیح معاوضہ تو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہی ہو سکتی تھی جس سے ان کے دل ٹھنڈے ہوں۔

”ان کے صبر کا بدلہ جنت ہے، دیبا و حریر ہے، جس میں وہ مسہریوں پر ٹیک لگائے بیٹھیں گے جہاں دھوپ اور جاڑے کا احساس نہ ہوگا۔ اس کے درخت ان پر سایہ لگن ہوں گے۔ ان کے پھل نزدیک ہی لٹکے ہوں گے۔ سونے چاندی اور شیشے کے جام مناسب انداز میں بھر بھر کر انہیں مشروب پلائے جائیں گے۔“ (۱۶:۷۶-۱۳)

ہر حال میں تسلیم و رضا

بنو عیس کا ایک شخص اپنے گم شدہ اونٹوں کی تلاش میں نکلا، تین دن تک اسے ڈھونڈا، یہ شخص مالدار تھا، مال اونٹ، گائے بیل بکری اور لڑکے لڑکیاں اللہ نے اسے دی تھیں۔ گھر بڑا کشادہ تھا۔ بنو عیس کے دیار میں سیلاب کے راستہ میں مکان واقع تھا۔ یہ لوگ عیش و آرام اور امن و امان میں رہتے تھے۔ اس کے ماں باپ یا اولاد کو اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ حادثات اور مصائب بھی ان پر ٹوٹ سکتے ہیں۔ بقول شاعر:

”رات میں اوّل وقت خوشی خوشی سو جانے والے! حادثات سحر کے وقت بھی آ جایا کرتے

ہیں۔“

گھر کے لوگ چھوٹے بڑے سب سو گئے مال و اسباب سب موجود، باپ باہر نکلا ہوا، گم شدہ اونٹ کی تلاش میں تھا۔ رات میں ایسا شدید سیلاب آیا جس نے چٹانوں کو مٹی کی طرح اٹھا لیا۔ تمام گھر تباہ کر ڈالے، مال اور گھر بار سب برباد ہوئے، سب مر کھپ گئے، گویا وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ تین دن بعد باپ وادی میں واپس آیا تو کچھ نہیں تھا نہ کوئی زندہ نہ بولنے والا نہ دوست نہ محبوب، بالکل چٹیل میدان، یا اللہ! یہ کیا آفت آگئی۔ بیوی بچے، بیٹا، بیٹی، اونٹ، گھوڑے گائے اور بکری مال و زر کپڑے لٹے سب کیا ہوئے۔ اس پر مزید آفت یہ ہوئی کہ ایک اونٹ بھاگا جسے اس نے پکڑنے کی کوشش کی تو اونٹ نے چہرہ پر لات ماری جس سے اس کی آنکھیں چلی گئیں، بیچارہ صحراء میں چلانے لگا کہ کوئی آدمی اُسے پکڑ کر کسی ٹھکانے پر پہنچا دے۔ ایک دوسرے اعرابی نے اسے دیکھا اور پکڑ کر دمشق میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس لے گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ خلیفہ نے پوچھا: تم کیسے ہو؟

اس نے کہا:

”خدا نے جو کیا میں اس پر راضی ہوں۔“

کتنی بڑی بات تھی جو اس نے کہہ دی۔ ایسی بات جسے موحد مسلمان ہی کہہ سکتا ہے۔ وہ سالکوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے نمونہ ہے۔ وجہ اللہ سے رضا مندی۔ جو راضی نہیں ہوتا

مقدر کو نہیں مانتا وہ کیا کر سکتا ہے۔ زمین میں خندق یا آسمان میں سیڑھی لگالے اور اگر چاہے تو کوئی اور ذریعہ بنا کر آسمان کو چلا جائے۔ پھر اسے کاٹ دے پھر دیکھے کہ اس کی تدبیر سے اُس کا غصہ ختم ہو جائے گا؟

وقفہ

ابوعلیٰ بن الشبل نے کہا: جب تمہیں فکر لاحق ہو تو امیدوں و آرزوؤں سے کام لو کہ جنت کی نعمتیں بھی تو وعدے ہی ہیں، مایوسی سے بچانے کے لئے اُمید کی ڈھال اپناؤ یہاں تک کہ وقت خود مرہم بن جائے۔ دوستوں سے اپنا غم چھپاؤ کیونکہ ان میں حاسدین اور دشمن ہیں، حادثات کا کھڑکانہ لگا رہے کیونکہ اس سے تو آدمی مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ رنج یا خوشی دونوں ہی پائدار نہیں ہیں، آنی جانی چیز ہیں، نفس انسان کی عقل کو مغالطہ میں ڈال دیا کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو بیدار مغز لوگوں کو زندگی اچھی ہی نہ لگے گی۔

فیصلہ کرنا

”جب تم کوئی فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کر کے اس پر جمو“ (۱۵۹:۳)

”بلاشبہ اللہ متوکلین کو پسند کرتا ہے“ (۱۵۹:۳)

فیصلہ کرتے وقت ہم میں سے بہت سے لوگ مضطرب ہو جاتے ہیں۔ انہیں قلق، حیرت و شک و شبہ پیش آتا ہے، پریشانی ہوتی اور ہمیشہ سرچکراتا ہے اس لئے آدمی پر لازم ہے کہ وہ مشورہ لے اور اللہ سے استخارہ کرے اور سوچے کم۔ جب کوئی ارادہ پکا ہو جائے اور دل اس پر جم جائے تو بلا تردد اقدام کر ڈالے۔ اب استخارہ اور مشورہ کا وقت ختم۔ اب عزم کرے تو کل سے کام لے، یقین اور مضبوطی ہو تاکہ تردد اور اضطراب کی زندگی ختم ہو۔

اُحد کے دن آپؐ نے لوگوں سے مشورہ کیا۔ لوگوں نے باہر نکل کر مقابلہ کی رائے دی، تب آپؐ نے ذرہ چینی تلوار ہاتھ میں لی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! کہیں ہم نے تو آپؐ کو مجبور نہیں کر دیا

غم نہ کریں

ایسا ہے تو پھر مدینہ میں ہی ٹھہریے۔ فرمایا: کوئی نبیؐ جب زرہ پہن لیتا ہے تو اسے اتارنا زیبائیں جب تک اللہ اُس کے اور دشمنوں کے بیچ فیصلہ نہ کر دے۔ پھر آپؐ نکل پڑے۔ یہاں پہنچ کر مسئلہ میں تردد کی گنجائش نہیں۔ اب عزم مصمم اور نفاذ کی ضرورت ہے۔ جرأت و شجاعت اور قیادت کا تقاضا فیصلہ لینا ہے۔

بدر کے موقع پر بھی آپؐ نے بحکم ”و شاورہم فی الأمر“ اور ”و أمرہم شوریٰ بینہم“ صحابہ کرامؓ سے مشورہ کیا پھر جب ایک فیصلہ ہو گیا تو آپؐ نے بے کھٹکے اقدام کر دیا۔ تردد کا مطلب ہے فساد رائے، ہمت کی کمی ارادہ کا تزلزل، کوشش کا بکھراؤ اور سفر کی ناکامی، یہ لاعلاج مرض ہے۔ اس کی دوا تو بس عزم، جزم اور ثبات ہے۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، ان میں صرف شک و اضطراب کی روح کام کرتی ہے۔ اپنے بارے میں بھی ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں بھی۔ انہوں نے اپنی روح اور ذہن کو ناکامی اور انتشار کا شکار ہو جانے دیا ہے۔ واقعہ کے مطالعہ، مسئلہ پر غور، اہل رائے کے مشورہ اور رب السموات والارض سے استخارہ کے بعد آپؐ اقدام کریں، پیچھے نہ ہٹیں، جو چیز بھی سامنے آئے اُسے فوراً نافذ کریں اُس میں دیر نہ کریں، حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فتنہ ارتداد کے موقع پر لوگوں سے صلاح و مشورہ کیا، سب کی رائے یہ تھی کہ قتال نہ کیا جائے لیکن حضرت ابو بکرؓ کو اس پر شرح صدر ہو چکا تھا کہ قتال کے ذریعہ اسلام کو تقویت ملے گی، فتنہ کی جڑ کٹے گی اور دین سے جو لوگ نکل رہے ہیں ان کی تادیب ہوگی۔ اللہ کے نور نے انہیں دکھایا کہ قتال بہتر ہے لہذا انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا اور فرمایا بخدا جو نماز و زکاۃ میں فرق کر رہے ہیں ان سے ضرور جنگ کروں گا۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں مجھے احساس ہو گیا کہ ابو بکرؓ کو جس پر شرح صدر ہو گیا ہے وہی بہتر ہے چنانچہ یہ فیصلہ ہوا اور اس کے مطابق اقدامات کئے گئے۔ حضرت ابو بکرؓ کی رائے ہی مبارک اور صحیح نکلی اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔

ہم کب تک مضطرب رہیں گے؟ اپنی جگہوں میں چکرائیں گے اور فیصلہ لینے میں تردد کا شکار رہیں گے۔ بقول شاعر :

”اگر رائے رکھتے ہو تو عزیمت والی رکھو، تذبذب و تردد والی رائے بہتر نہیں ہوتی۔“

منافقین کا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے کہ بحث و تکرار اور نظر ثانی وغیرہ کی باتیں کر کے اصل اسکیم ہی رائیگاں کر دیتے ہیں:

”اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو تمہاری مشکل میں اضافہ ہی کرتے اور تمہارے بیچ فتنہ کی باتیں ڈالتے“ (۴۷:۹) ”یہ لوگ ہیں جنہوں نے پیچھے بیٹھ کر اپنے بھائیوں کے بارے میں باتیں بنائیں کہ اگر ہماری اطاعت کرتے تو قتل نہ کئے جاتے کہہ دیجئے تم اپنے آپ سے موت کو ٹال دو اگر تم سچے ہو۔“ (۱۶۸:۳)

اس قسم کے لوگ ہمیشہ لیت و لعل میں پڑے رہتے ہیں اور اگر مگر کے عادی ہوتے ہیں یہ ایک قدم آگے بڑھاتے ایک پیچھے ہٹاتے ہیں

”اسی کے بیچ لٹکے رہتے ہیں نہ ان میں ہیں نہ ان میں۔“ (۱۴۳:۴)

کبھی ہمارے ساتھ کبھی دشمن کے ساتھ ایک باریہاں ایک بار وہاں، جیسا کہ حدیث میں ان کو ”ایسی بکری جو دور یوزوں کے بیچ میں ہے۔“ کہا گیا ہے۔ مشکلات کے وقت کہیں گے

”اگر ہم جانے کہ لڑائی ہوگی تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے“ (۱۶۷:۳) حالانکہ وہ اپنے آپ سے اور خدا سے جھوٹ بول رہے تھے۔ یہ بحرانی حالت میں کھسک لیتے اور خوشحالی میں چلے آتے اور کہتے ”ہمیں جانے دیجئے ہمیں نہ آزمائیے“ (۴۹:۹) ان کا فیصلہ تذبذب اور مایوسی کا تھا احزاب کے موقع پر انہوں نے کہا کہ ”ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں حالانکہ وہ محفوظ تھے“ (۱۳:۳۳) ان کی یہ سب کارستانیوں واجب سے بچنے اور واضح حق سے کھسک لینے کے باعث تھیں۔

اُحد پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہیے

مومن کی طبیعت میں ثبات، منصوبہ سازی اور جزم و عزم ہوتا ہے۔

”ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ و رسول پر ایمان لائیں پھر اس میں شک نہ کریں“ (۱۵:۴۹)

جب کہ ”منافقین اپنے شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔“ (۴۵:۹)

یہ لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اُلٹے پیروں پلٹتے ہیں اپنے عہد و پیمان توڑ ڈالتے ہیں۔

غم نہ کریں

لہذا اے بندۂ مؤمن جب درست بات سامنے آجائے، گمان غالب ہو جائے، فائدہ کا یقین ہو تو تم بغیر کسی تذبذب و تاخیر کے اقدام کر ڈالو۔ شاعر نے کہا:

”دلت و لعل اور اگر گرگر کو دور بھیجیں گے اور ایسے چلو جیسے شمشیر زن کے ہاتھ میں تلوار۔“

ایک شخص کو بیوی بہت ستاتی تھی لیکن وہ طلاق دینے کی ہمت نہیں کر سکا۔ ایک دانہ سے اپنی پتلا سنانے لگا تو اس نے پوچھا اس بیوی کے ساتھ کتنے دن تم نے گزارے۔ کہا چار سال بولا: چار سال!! چار سال سے زہر ماری کر رہے ہو؟

صحیح یہ ہے کہ صبر و انتظار اور تحمل ہونا چاہئے لیکن کب تک ہو؟ جو سمجھدار ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ معاملہ پورا ہوگا یا نہیں، ہوگا ٹھیک ہوگا یا نہیں، ہوگا، چلے گا یا نہیں چلے گا لہذا اُسے فیصلہ کر لینا چاہئے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے:

جسے دل نہ چاہے اُسے جلد سے جلد چھوڑ دو

لوگوں کے احوال کے استقرائے متبع سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوں تو بہت سے معاملات میں حیرت اور تذبذب پیش آتا ہے، لیکن چار چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے: پہلی چیز تعلیم ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی لائن اختیار کریں، کیا موضوع لیں۔ میں نے بہت سے طلبہ دیکھے کہ تردد و تذبذب کے باعث کالجوں میں سالوں سال ضائع کر دئے۔ بعض رجسٹریشن کرانے میں کمزور رہے، حتیٰ کہ وقت نکل گیا۔ بعض کسی شعبہ میں سال دو سال رہے، پہلے انہوں نے قانون مضمون لیا پھر معاشیات لیا، پھر طب کی طرف لوٹ گئے یعنی یونہی وقت ضائع کرتے رہے۔ اگر شروع ہی میں فیصلہ کر لیا ہوتا، مشورہ سے کام لیتے اور استخارہ بھی کرتے پھر جو فیصلہ ہوتا اس پر جمے رہتے تو ان کا وقت ضائع نہ ہوتا، مقصد حاصل ہوتا۔

دوسری چیز کام ہے۔ لوگ مناسب کام کا فیصلہ نہیں کر پاتے، کبھی ایک کام لیتے ہیں اسے چھوڑ کر دوسری کمپنی میں نوکری کرتے ہیں پھر نوکری چھوڑ کر تجارت میں لگتے ہیں۔ اس میں گھانا ہوا تو مفلس و قلاش ہو کر رہ جاتے ہیں اور خالی ہاتھ گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے میرا کہنا ہے کہ جس کو جہاں روزی مل رہی ہو اُس سے چپٹے رہنا چاہئے۔ وہیں سہولت ہوگی کامرانی گی۔

تیسرا مسئلہ شادی کا ہے، اکثر نوجوانوں کو بیوی کے اختیار کرنے میں حیرت و اضطراب طاری ہوتا ہے۔ دوسروں کی مداخلت سے بھی مسئلہ الجھتا ہے، باپ کسی اور کو دلہن بنانا چاہتا ہے، ماں کسی اور کو، بیٹی کی پسند کچھ اور ہے، کبھی ماں باپ کے دباؤ میں لڑکا ان کی پسند سے شادی کر لیتا ہے اور مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ جب تک دینداری حسن اور موافقت وغیرہ میں اطمینان نہ کر لیں تب تک اقدام نہ کریں۔ کیونکہ ایک عورت کے مستقبل کا مسئلہ ہے جس میں کوئی بے پروائی نہیں برتی جاسکتی ہے۔ چوتھا مسئلہ طلاق کا ہے۔ اس میں بھی بڑی پریشانی اور حیرانی ہوتی ہے۔ کبھی آدمی چاہتا ہے کہ طلاق دے دے کبھی چاہتا ہے کہ ساتھ رکھے، کبھی چاہتا ہے کہ رتی توڑ دے، اس لئے اتنی تکانہ اضطراب فساد رائے اور انتشار فکر طاری رہتا ہے جسے اللہ ہی جانتا ہے۔ بندے کے لئے لازم ہے کہ ان نفسیاتی کمزوریوں کو اپنے قطعی فیصلے سے ختم کر دے۔ عمر ایک ہی بار ملی ہے، یہ دن یہ وقت بار بار نہیں آئیں گے اسی لئے ان کو تو ہنسی خوشی اور راحت سے گزار لے۔ راحت تمہی ملے گی جب فیصلہ کر لے گا کہ مومن بندہ جب سوچ لیتا ہے اور مشورہ اور استخارہ کر کے کسی فیصلہ پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ پر توکل کرے اور اس شعر کا مصداق بن جائے کہ مرد میدان جب سوچتا ہے، غور و فکر کے بعد فیصلہ کرتا ہے تو پھر عواقب کو کنارے کر دیتا ہے۔

اس کا اقدام سیلاب کا اقدام، اس کی تیزی تلوار کی جیسی، اس کا منصوبہ دنیا کا منصوبہ ہوتا ہے اور وہ فخر کی طرح پھوٹ پڑتا ہے (نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا):
 ”اے میری قوم! اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ تم اپنی تدبیر مع اپنے شرکا کے پختہ کر لو پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہئے۔ پھر میرے ساتھ کرگزر دو اور مجھ کو مہلت نہ دو“ (۱۰:۷۱)

جیسی کرنی ویسی بھرنی

ہم لوگ بھی کیا خوب ہیں! لوگوں سے چاہتے ہیں کہ وہ بردبار ہوں اور خود غصہ کرتے ہیں، ان سے چاہتے ہیں کہ سخی داتا ہوں اور خود بخل کرتے ہیں ان سے چاہتے ہیں کہ وہ وفاداری اور بھائی

غم نہ کریں

چارہ کا ثبوت دیں اور ہم خود ایسا نہیں کرتے :

”ہم چاہتے ہیں کہ کامل آدمی ملے جو بے عیب ہو۔ کیا عود بغیر دھوئیں کے خوشبو دیتی ہے؟ پرانی کہاوت ہے کہ کوئی بھی پورا پورا تمہارا نہیں ہو سکتا۔
ابن الرومی کے ایک شعر کا مفہوم ہے کہ یہ تو عجوبہ روزگار ہے کہ تم دنیا میں کامل کی تلاش کرو اور خود کامل نہ بنو۔“

وقفہ

ایلیا ابوماضی نے کہا:

”اے شکایت کرنے والے جسے کوئی بیماری نہیں، تم بیمار بنو گے تو صبح کیسے کرو گے۔ زمین میں سب سے بڑا گنہگار تو وہ نفس ہے جو موت سے پہلے ہی موت سے بچنے لگتا ہے، تم گلاب کا کاٹنا تو دیکھ رہے ہو یہ نہیں دیکھتے کہ گلاب کی پتیوں پر شبنم کے موتی بھی ہیں، جو آدمی زندگی کو بھاری سمجھتا ہے اُس کے لئے وہ بوجھ ہے۔ جو آدمی جمالیاتی حس نہیں رکھتا اسے زندگی میں کچھ بھی خوبصورت نہیں لگتا۔ جب تک صبح ہے اُس سے لطف اندوز ہو لو اُس کے زائل ہونے کا خوف کیوں ہے، جب تمہاری کھوپڑی میں کوئی غم فلک گرگس جائے تو اس پر زیادہ نہ سوچو اسے طول ندو، ٹیلوں کے پرندوں نے اپنی حقیقت جان لی، تم اس سے زیادہ نادان بنو یہ شرمندگی کی بات ہے۔ دیکھو کہ کھیت کسی اور کا ہے لیکن پرندے اس میں صبح شام کرتے ہیں۔“

فصح و بلیغ کلام کا ٹیکس

خالق کائنات اور اس کی مخلوق، اللہ اور انسان کے تئیں ہمارا جو فرض ہے اسے پورا کرنے میں ہی ہماری سعادت ہے۔ بولنا تو آسان ہے اور کلام کی آرائش بھی آسان ہے۔ مشکل تو اسے صفات حمیدہ، بڑے کاموں اور بلند اقدار میں ڈھالنا ہے۔

”کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو“

کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں۔“ (۲۳:۲)

جو آدمی معروف کا حکم دے خود اس پر عمل پیرا نہ ہو، منکر سے روکے خود باز نہ آئے حدیث صحیح کے مطابق قیامت میں اُسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ آنکھوں کے ساتھ آگ میں ایسے گھوسے گا جیسے کولہو کا نیل۔ دوزخی اس کی ہلاکت کے بارے میں پوچھیں گے تو کہے گا، میں تمہیں معروف کا حکم دیا کرتا تھا خود اس پر عمل نہ کرتا تھا، منکر سے روکتا تھا خود اُس سے باز نہ آتا تھا۔ بقول شاعر :

”ارے او! دوسرے کو تعلیم دینے والے! یہ تعلیم اپنے آپ کو کیوں نہیں دیتا۔“

مشہور واعظ ابو معاذ الرازی نے وعظ کیا۔ خود روئے دوسروں کو کوزلایا پھر بزبان شعر کہا جو غیر متقی لوگوں کو تقویٰ کا حکم دیتا ہے وہ ایسا طبیب ہے جو خود بیمار ہے لوگوں کو دوا دیتا ہے۔ سلف میں بعض لوگ جب دوسروں کو صدقہ کا حکم دیتے تو پہلے خود صدقہ دیتے پھر ان کو حکم دیتے اس لئے لوگ ان کی بات مان لیتے۔

میں نے پڑھا ہے کہ قرون اولیٰ کے ایک واعظ نے لوگوں کو غلام آزاد کرنے کا وعظ کیا۔ خود غلاموں نے اس کی فرمائش کی تھی۔ ایک لمبی مدت میں انہوں نے روپیہ اکٹھا کیا اور اس سے ایک غلام آزاد کروایا اُس کے بعد غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا تو لوگوں نے اس کا کہا مانا اور بہتیرے غلام آزادی پا گئے۔

آرام و سکون تو بس جنت میں ملے گا

”ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے“ (۳:۹۰) احمد بن حنبل سے پوچھا گیا آرام کب ملے گا بولے جب تم اپنا پاؤں جنت میں رکھو گے تب۔ جنت سے پہلے سکون و راحت کہاں، دنیا تو حادثات، المیوں، فتنوں، مصیبتوں اور آفتوں کی جگہ ہے۔ بیماری ہے، مایوسی، حزن و یاس یہاں کے نشان امتیاز ہیں۔ بقول شاعر:

دنیا کی فطرت میں کدورت پڑی ہے پھر تم اسے کدورتوں اور مصیبتوں سے خالی کیوں دیکھنا

چاہتے ہو۔

مجھے ایک ناخجیر یابی ہم سبق نے بتایا کہ اس کی ماں رات کے تیسرے پہر اسے اٹھا دیا کرتی۔ وہ

غم نہ کریں

کہتا کہ میں اور آرام کرنا چاہتا ہوں تو وہ کہتی آرام کے لئے ہی تو میں نے تمہیں جگایا ہے، بیٹے جب جنت میں جاؤ گے تب آرام کرنا۔ علماء سلف میں مسروق سجدہ میں سو جایا کرتے، لوگوں نے کہا آپ پہلے آرام کر لیا کیجئے۔ کہتے اسی آرام کے لئے تو عبادت کرتا ہوں۔

جو لوگ واجب کو چھوڑ کر راحت کی عجلت میں پڑتے ہیں حقیقت میں وہ عذاب کی عجلت میں ہیں۔ راحت تو عمل صالح کرنے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے اور اللہ سے قربت کے لئے وقت لگانے میں ہے۔ کافر ساری راحت اور سارا حصہ دنیا میں ہی وصول کر لینا چاہتا ہے اس کا کہنا ہے:

”یوم الحساب سے پہلے ہی اے رب ہمارا حصہ دے دے۔“ (۱۶:۳۸)

آیت میں لفظ قطننا آیا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ یوم قیامت سے پہلے ہمارے حصے کا رزق اور خیر۔ ان کے بارے میں فرمایا:

”یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں“ (۷۶:۷۷) نہ کل کی پروا ہے نہ مستقبل کی فکر اسی لئے آج اور کل دونوں کے گھائے میں ہیں۔ ان کا کام، نتیجہ! ابتداء اور انتہا سب بے کار ہیں۔

زندگی ایسی ہی بنائی گئی ہے۔ اس کا خاتمہ فنا ہے۔ اس کا پینا کدورت آمیز ہے، وہ تملون مزاج ہے ابھی نعمت ابھی لعنت، ابھی شدت ابھی آسانی، ابھی ثروت مند ابھی فقر۔ ایک شاعر کہتا ہے:

”ہم آوارہ گردی کرتے ہیں پھر ہم میں ہر ایک مالدار ہو یا محتاج ان گڈھوں کی پناہ لیتے ہیں جن کا بیچ کھوکھلا ہے اور اوپری حصے پتھر کی سلیں ہیں۔ یہی انجام ہے:

”پھر ان کو اللہ کی طرف لوٹایا گیا جو ان کا حقیقی مولیٰ ہے اسی کا حکم چلتا ہے اور وہ سب سے تیز حساب لینے والا ہے۔“ (۶۳:۶)

وقفہ

ایلیا ابو ماضی کہتا ہے: تم فقر کے شاک کی ہو جب کہ زمین و آسمان اور ستارے تمہاری ملکیت میں ہیں۔ کھیت کھلیان پھول اور خوشبو، نسیم صبا اور چمکتا بلبل سب تمہارے ہیں، تمہارے ارد گرد چمکتی چاندی کی مانند پانی ہے، تمہارے اوپر سورج بگھلا ہوا سونا جان پڑتا ہے۔ چھت اور چوٹیوں میں روشنی ایک بار

شاندار مکانات بنا دیتی ہے پھر گرا دیتی ہے۔ ساری دنیا تو خوش ہے تو تم کیوں اداس ہو؟ ساری دنیا مسکرا رہی ہے تم کیوں نہیں مسکراتے؟ اگر کسی پرانی عظمت پر جو ختم ہوگئی تمہیں ملال ہے تو یہ حسرت و افسوس اسے لوٹا نہیں سکتے۔ اور کسی مصیبت کے آنے کا خطرہ ہے تو یہ ادا سی اسے آنے سے روک نہیں سکتی۔ یا تمہارا شباب ختم ہو گیا ہے تو یہ تھوڑے ہی کہو گے کہ زمانہ بوڑھا ہو گیا۔ زمانہ بوڑھا نہیں ہوتا دیکھو کہ خاک سے کیا حسین صورتیں جھانکتی ہیں جیسے کہ بول ٹھیں گی :

خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں

نرمی مقصود کے حصول میں مدد دیتی ہے

نرمی کے بارے میں بہترے نصوص و آثار گزر چکے ہیں۔ حاجت طلبی میں رفق کی سفارش رد نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ دود یواروں کے بیچ اگر تنگ راستہ ہو جس میں بس ایک ہی کار گزر سکتی ہو تو یہ کار تہی گزرے گی جب ڈرائیور احتیاط اور دیکھ بھال کے ساتھ چلائے گا اگر وہ تیز رفتاری سے اسے عبور کرے گا تو دائیں بائیں نکلے گا اور گاڑی خراب ہوگی۔ راستہ بھی وہی ہے گاڑی بھی وہی داخل ہونے کا راستہ مختلف ہو گیا۔ آسانی کا نتیجہ اور سختی کا کچھ اور۔ اپنے صحن میں ہم چھوٹا سا پودہ لگاتے ہیں جب اس پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے تو اسے فائدہ ہوگا اگر یکبارگی ڈال دیں گے تو پودہ جڑ سے ہی اکھڑ جائے گا۔ پانی دونوں ایک ہی ہیں لیکن طریقہ عمل الگ الگ ہو گیا۔ جو شخص کپڑے نرمی سے اتارے تو کپڑے ٹھیک رہیں گے اور جو سختی اور تیزی سے کھینچے گا تو اسے شکایت ہوگی کہ کپڑا پھٹ گیا اور مٹن ٹوٹ گئے۔ لطیفہ کی بات ہے کہ جب برادران یوسف جھوٹ موٹ ایک قیص لے کر آئے اور دعویٰ کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ان کا جھوٹ یوں پکڑا گیا کہ انہوں نے کپڑا نرمی سے اتارا تھا اس لئے وہ پھٹا ہوا نہیں تھا۔ اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو وہ آہستگی سے تھوڑی اتارتا وہ تو کپڑے کو بری طرح چھاڑ ڈالتا۔ ہماری زندگی میں نرمی کی بہت ضرورت ہے، اپنے آپ سے نرمی کی کیونکہ

”تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے“

دوستوں میں نرمی کی کہ ”اللہ ہر چیز میں نرمی پسند کرتا ہے“ عورت کے ساتھ نرمی کرو۔ فرمایا:

غم نہ کریں

”ان نازک آنگینوں سے نرمی سے پیش آؤ۔“ ترکوں نے دریاؤں پر لکڑی کے جوہل بنائے تھے ان میں ایک میں لکھا تھا کہ آہستہ آہستہ چلئے کیونکہ آہستہ چلنے والا گرنے سے بچے گا جب کہ جلدی چلانے والا دریا کے بیچ میں جاگرے گا۔ ایک شامی ادیب ”السلیمیہ“ شہر میں رہتا تھا جس کے پاس موٹر سائیکل تھی اس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ ”ایک پل پر میں تیزی سے موٹر سائیکل سے گزرا جب بیچ دریا میں پہنچا تیزی سے جا رہا تھا دائیں بائیں جو دیکھا تو توازن بگڑ گیا۔ مجھے سامنے دکھائی نہ دیا اور موٹر سائیکل سمیت دریا میں گر پڑا..... پھر لمبا قصہ بیان کیا ہے۔

بعض یورپی شہروں میں گلگشت اور گلاب کے باغ کے داخلی گیٹ پر ہی لکھ دیتے ہیں کہ ”آہستہ چلیں“ کیونکہ سبک خرام کو ان نازک پودوں کا خیال نہ رہے گا اور وہ ان کی بربادی کا باعث بن جائے گا، محض اپنی بے پروائی اور اندھا دھند داخلہ کے سبب۔

ایک تربیتی مقولہ ہے کہ چڑیا شہد کی مکھی کی طرح نرمی نہیں برت سکتی، حدیث میں مومن کی صفت بتائی گئی ہے ”مومن شہد کی مکھی کی طرح ہے وہ پاکیزہ کھاتی اور پاکیزہ پیدا کرتی ہے۔ کسی ڈالی پر بیٹھتی ہے تو اُسے توڑتی نہیں“ شہد کی مکھی کے وجود کا احساس بھی پھول کو نہیں ہوتا۔ وہ آہستگی سے اس کا رس چوستی ہے، نرمی سے اپنا مطلب پورا کرتی ہے اور چڑیا کمزور جسم کے باوجود بالیوں پر اپنے اترنے کا ہنگامہ مچا دیتی ہے۔ اترتی ہے تو یکدم اور اڑتی ہے تو بھر سے۔ ایک ہندی مصور کی بات مجھے ابھی تک یاد ہے جس نے ایک شاہکار پینٹنگ بنائی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے: دانوں سے بھری گہیوں کی ایک بالی ہے جس پر ایک چڑیا بیٹھی ہے۔ بادشاہ نے اس پینٹنگ کو اپنے دیوان کی دیوار پر لگایا تھا لوگ بادشاہ کو تہنیت دینے آئے اور مصور کی تعریفیں کیں اسی بھیڑ بھاڑ میں ایک اداس سا غریب آدمی آیا اس نے تصویر پر اعتراض کیا اور اسے غلط بتایا۔ لوگوں نے اس پر برا مانا اور شور مچایا کہ اُس نے سب کے خلاف بات کی ہے۔ بادشاہ نے اسے نرمی سے بلایا اور کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ تصویر غلط ہے اس کی پیش کش بھی ٹھیک نہیں، کہا کیوں؟ بولا کیونکہ مصور نے یہ دکھایا ہے کہ چڑیا بالی پر اترتی لیکن بالی بالکل سیدھی کھڑی ہے اُسے تو فوراً مڑنا چاہئے تھا بالی ثقیل ہوتی ہے لچیلی نہیں۔ بادشاہ نے اور لوگوں نے بھی کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ تب تصویر اتر وادی گئی اور انعام بھی پینٹر سے واپس لے لیا گیا۔ علاج کے لئے

بھی طیب نرمی کی نصیحت کرتے ہیں اسی طرح کام برابر کرنے اور لینے دینے میں بھی۔ کیونکہ جلد بازی میں کوئی اپنے ہی ہاتھ سے ناخن اکھاڑ لیتا ہے کوئی دانت توڑ بیٹھا ہے کسی کا لقمہ اٹک جاتا ہے کیونکہ بڑا لقمہ توڑا چایا اچھی طرح نہیں۔

پانی آہستہ بھی چلتا ہے اچھل کر بھی، ہوا تیز و تند چلتی ہے اور تباہی پھیلاتی ہے۔ سلف میں ایک کا قول میں نے پڑھا کہ انہوں نے کہا یہ بھی آدمی کے تفقہ میں سے ہے کہ آدمی اپنے گھر میں نرمی سے داخل ہو، نرمی سے نکلے، آہستہ آہستہ سے کپڑا پہنے، آہستہ سے جوتا اتارے اور سواری پر بیٹھے، چیزوں کو لینے میں عجلت، طیش اور غضب اس کے لئے کافی ہے کہ فائدہ کھو جائے، ضرر پہنچے کیونکہ خیر رفق پر مبنی ہے۔ فرمایا ”رفق جس چیز میں بھی ہوگا اُسے زینت دے گا اور جس چیز سے بھی نکال لیا جائے گا اس میں عیب ڈال دے گا۔ لوگوں سے معاملہ کرنے میں نرم روی سے دل مسخر ہوتے ہیں روحیں جھکتی ہیں اور نفوس قائل ہو جاتے ہیں۔ انسانوں میں جو صاحب رفق ہو وہ ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ سرکش لوگ اور جملنے والے دل تک بھی اس کی طرف لپک پڑتے ہیں۔

”اللہ کی رحمت سے ہی تم نرمی والے ہو اگر تم سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے ارد گرد سے

چھٹ جاتے۔“ (۱۵۹:۳)

بقول شاعر:

اے روشن چاند رفق اختیار کرو تیز و تند ہانڈے والی ہوا نہ ہو۔ تو نے چمک کر میرا چہرہ چمکا دیا ہماری ظلمتوں میں تیرا چہرہ تابناک ہے۔ ہو واجب تیز چلتی ہے تو مکانات کو ڈھاتی چلی جاتی ہے۔

وقفہ

طہ حسین نے الایام میں اپنے بارے میں غائب کے صیغہ میں لکھا: وہ لڑکا دوسرے انسانوں کی طرح ہی سمجھتا تھا، جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ بھی پیدا ہوا، جیسے وہ جیتے ہیں ایسے ہی وہ جی رہا تھا اس نے اپنا وقت اور نشاط بھی انہیں کی طرح تقسیم کر رکھا تھا۔ لیکن وہ نہ کسی سے مانوس تھا نہ کسی چیز سے مطمئن اور لوگوں و اشیاء کے مابین ایک پردہ سا تھا جس کا ظاہر رضا مندی اور امن تھا لیکن اندر سے جی کھولتا،

غم نہ کریں

اضطراب، خوف اور قلق کا احساس ہوتا۔ وہ تاحدنگاہ ایک وحشت ناک صحراء میں تھا جس میں نشانات بھی گم تھے نہ راستہ دکھائی دے رہا تھا نہ وہ منزل جہاں پہنچے۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے تھے ”دل پر سرور کے ایسے لمحات بھی گزرتے ہیں کہ اگر اہل جنت کو بھی مل جاتے تو بڑی اچھی زندگی میں رہتے“ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں ”ہماری زندگی ایسی ہے کہ اگر اس کی خوشی کا احساس بادشاہوں کو ہو جائے تو تلواروں سے ہم پر چڑھ دوڑیں۔“

قلق کا کوئی فائدہ نہ ہوگا

اس گفتگو سے مقصد اس نتیجہ تک پہنچنا ہے کہ آدمی قلق و اضطراب کا شکار نہ ہو قضا ربی کو مان لے اور ماضی پر ندامت محسوس نہ کرے، میں اپنے امتحان میں ساتھیوں کے مقابلہ میں اول آنا چاہتا تھا۔ مذاکرہ میں اپنے آپ کو تھکا تا۔ جب امتحان دے دیا تو نتیجہ کو لے کر خوف و اضطراب میں پڑا رہا۔ گھر میں امتحان کے پرچے الٹ پلٹ کر اور جوڑ گھٹاؤ سے اپنے جوابوں کو جانچتا اور ان کی تصحیح کرتا حتیٰ کہ اضطراب کے مارے دانتوں سے انگلی کاٹ ڈالتا پھر نتیجہ آتا، کبھی خوش کن اور کبھی ناخوش گوار، لیکن مجھے یاد نہیں کہ کبھی بھی میرے اضطراب نے نمبروں میں اضافہ کر دیا ہو۔ جواب ٹھیک کر دیئے ہوں یا مجھے پہلی پوزیشن دلادی ہو۔ بقول شاعر :

میں آفتوں سے بے پروا ہو کر رہتا ہوں کیوں کہ ان کی پرواہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔

قدر کفاف میں راحت

میں معہد الریاض العلمی (ریاض سائنس انسٹی ٹیوٹ) گیا گھر والوں کو جنوب میں چھوڑ دیا، اپنے بچپاؤں کے ساتھ رہنے لگا، جہاں زندگی سادہ تھی، تعلیم میں محنت اور آنے جانے اور گھر کے کاموں میں مشقت ہوتی تھی، ۱۵ منٹ سے آدھا گھنٹے روز صبح میں بھی پیدل جانا اور نظہر میں واپس آنا ہوتا اور گھر کے لوگوں کے ساتھ صبح، دوپہر اور شام کھانا بنانے میں ساتھ دیتا۔ گھر میں جھاڑو دیتا، سامان ٹھیک

کرتا باورچی خانہ کو ترتیب دیتا۔ اسباق کا مذاکرہ اور انسٹی ٹیوٹ کے کاموں میں شرکت بھی رہتی اور اچھے نمبرات اور پوزیشن لایا کرتا۔ میرے پاس بس ایک ہی کپڑا تھا اسی کو دھو کر پہنتا تھا، گھر میں بھی اسکول میں بھی اور تقریبات میں بھی۔ کیونکہ آمدنی بہت کم تھی۔ کھانے کا خرچہ، گھر کا کرایہ اور دوسری چیزیں سب اسی میں کرنی ہوتی تھیں۔ اس لئے گوشت بھی کبھی کھاتا اور پھل تو بہت کم کھایا کرتا۔ ہمیشہ کام، مذاکرہ اور مطالعہ میں مصروف رہتا، تفریح کے لئے مہینہ میں ایک دو بار ہی کہیں نکلا کرتا، میرے مضامین لگ بھگ سترہ تھے۔ جس میں انگریزی انجینئرنگ، الجبرا اور سائنس کی دوسری شاخیں تھیں دینی اور عربی کے مضمون الگ تھے اولیٰ متوسط سے ہی المعهد العلمی سے ادبی کتابیں میں نکالا کرتا، مطالعہ کا شوق اتنا تھا کہ کتاب لے کر ساتھیوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتا۔

اس دراز نفسی سے کہنا یہ ہے کہ اس مشقت، تنگ سادگی اور کم آمدنی کے باوجود اطمینان تھا۔ دل میں سکون تھا، پوری نیند لیتا تھا ایسے ہی زندگی چلتی رہی پھر بھگت اللہ مجھے اچھا مکان لے کر کھانا بہت سے کپڑے اور آرائش کی زندگی نصیب ہوئی لیکن اب پہلے جیسی نفسیات نہ تھی۔ مشاغل بڑھ گئے کدورتوں میں اضافہ ہوا۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ چیزوں کی کثرت سعادت اور راحت نہیں ہے۔ اس لئے یہ نہ سمجھئے کہ حزن و ملال اور رنج و غم کا سبب کم آمدنی اور زندگی میں آرام کے کم اسباب کا ہونا ہے۔ یہ درست نہیں۔ زیادہ تر وہ لوگ جو بقدر کفاف پر رہتے ہیں ثروت مندوں سے زیادہ خوش رہتے ہیں۔

برے سے برے احتمال کی توقع

میں ”ابہا“ کے انسٹی ٹیوٹ میں سکندری کی پہلی جماعت میں تھا میری پوری تنہائی کہ فرسٹ پوزیشن لاؤں۔ پہلی بچے کے لئے جدوجہد کی تھی دل میں یہ تھا کہ کم از کم دوسری پوزیشن تو ملے گی ہی۔ مجموعی نمبرات سے تو مجھے ڈسٹنکشن مل رہا تھا۔ مذاکرات میں محنت جدوجہد اور شب بیداری کے بعد یہی توقع ہو سکتی تھی؟ جب رزلٹ آیا تو دوسرے مضمونوں میں اچھی کامیابی کے باوجود میں انگریزی میں فیل تھا۔ یہ مضمون میرے لئے بڑا بوجھ تھا، نہ کچھ یاد رہتا نہ سمجھ میں آتا۔ اب مجھ پر حزن و یاس کے بادل چھا

غم نہ کریں

گئے۔ کئی راتیں جاگ جاگ گزریں، ساتھیوں میں کئی حاسد خوش تھے۔ یہ چیز بالکل متوقع نہ تھی کیونکہ یہاں پہلی پوزیشن کے آس لگائے بیٹھے تھے۔ میرے جذبات مشتعل تھے دل تنگ کہ ایک استاد نے اس بارے میں مجھ سے بات کی مجھے دلاسا دیا۔ اس پر مجھے یہ شعر یاد آیا کہ :

ہر چیز کتنی ہی کامل ہو اس میں نقص رہ جاتا ہے، اس لئے اچھی زندگی سے انسان دھوکہ میں نہ پڑے۔

بعد میں جب بھی مجھے اپنا وہ حزن و ملال یاد آتا تو ہنسی آ جاتی کیونکہ یاس و ملال سے رزلت میں تو کوئی فرق پڑتا نہیں۔ بلکہ ایسا ہی حال رہتا تو دوسری مرتبہ میں مذاکرہ اور کامیابی کا حصول ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ ناکامی کی صورت میں آپ مایوس نہ ہوں، نہ منہ سے جھاگ نکالیں اور نہ یہ سمجھیں کہ اس سے کامیابی مل جائے گی۔ ایسا سوچنا غلط ہے۔ اس سے کچھ نہ ہوگا بلکہ آپ کی ناکامی و نامرادی میں ہی اضافہ ہوگا۔ جب حدیث نبوی میں ایم اے کا مقالہ میں نے پیش کر دیا مناقشہ ہوا تو میرا خیال تھا کہ میں نے جوابات صحیح صحیح دیئے ہیں لیکن نتیجہ آیا تو جدید جدا (بہت اچھا) تھا اس سے مجھے رنج ہوا میرے ایک دوست نے مجھ سے بات کی اور کہا بھی، تمہیں امتیازی درجہ نہ ملا تو اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ دونوں کا نتیجہ تو ایک ہے کہ ایم اے کی ڈگری مل گئی؟ فرض کرو کسی سبب سے تمہارا مقالہ رد کر دیا جاتا اور ایم اے نہ کر پاتے تو کیا ہوتا؟ ظاہر ہے کہ وہ درست کہہ رہا تھا، بات میری سمجھ میں آ گئی اور میں پرسکون ہو گیا۔

جب تمہیں کسی ناگوار بات کی توقع ہو تو برے سے برے احتمال کو برداشت کرنے کے لئے ذہن کو تیار کر لو اور پھر حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرو، ہاتھوں کے طوطے اڑ جانا لعنت ملامت اور قلق سے سینہ کی تنگی و کبید و خاطر کی کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ایم اے میں جو سبق ملا تھا وہ ڈاکٹریٹ کے مقالہ کے انٹرویو میں تاخیر کے وقت کام آیا۔ مقالہ علمی و تربیتی اعتبار سے مکمل تھا۔ امید تھا کہ جلد ہی انٹرویو ہو جائے گا لیکن اُس میں دیر ہوتی گئی لیکن اس بار میں نے اسے آسانی سے لیا پہلی کی مانند زیادہ پروا نہیں کی۔

اس سے فائدہ یہ ہوا کہ خطرناک سے خطرناک توقع اور احتمال کے لئے ذہنی طور پر تیار رہا اور

زندگی یونہی چلتی رہی گویا کہ کچھ نہیں ہوا۔

جسے پوری تجارت میں گھائے اور پورے مال کے جانے کی توقع ہوگی وہ تھوڑے خسارہ کو آسانی سے برداشت کر لے گا۔ جسے قتل ہو جانے کا خدشہ ہوگا اور بس قید کر دیا جائے تو وہ اللہ کا شکر ہی ادا کرے گا۔ اور مصیبت کو آسانی سے برداشت کر لے گا۔

عافیت کے ساتھ روزی روٹی ملے تو پھر دنیا کو سلام ہو

۱۴۰۰ھ میں ہم لوگ یمن کی حدود میں ایک دعوتی کیمپ میں تھے جس کا افتتاح عالی جناب شیخ عبدالعزیز بن باڑن نے کیا تھا۔ شریعہ فیصلی میں تفسیر کے استاد کے ساتھ ہم ”ابہا“ گئے جب کیمپ کو واپس آئے تو ابہا، تہامہ والا پہاڑی راستہ اختیار کیا۔ بار بار کے سیلابوں سے راستہ ٹوٹا پڑا تھا، ہمارے استاد تفسیر میں تو طاق تھے لیکن کار چلانی بالکل نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی ڈرائیو کرنے نہیں دیا۔ یا تو میرے ساتھ شفقت کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے۔ چلانا نہ جاننے کے ساتھ اگر وہ آہستہ چلا لیتے تب بھی غنیمت تھا لیکن وہ تو ایسے دوڑا رہے تھے جیسے کسی مقابلہ میں ہوں۔ حتیٰ کہ قریب تھا کہ وہ ہمیں کسی کھڈ میں گرا دیں۔ وہ کار کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کی چرچاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ رات زندگی اور موت کے بیچ ہم نے گزاری۔ کبھی موت کا خیال کر کے دنیا کو خیر باد کہتے کبھی زندہ ہو جاتے۔ میرے دانت پیر اور ہاتھ بھینچے ہوئے تھے۔ کبھی جسم کو ڈھیلا چھوڑتا، اسے نصیحت کرتا، بہلاتا کہ بس یہ کٹھن گھڑی اب ختم ہوئی۔ یہاں تک ہم ایک کشادہ وادی میں پہنچ گئے، پانی زوردار برس رہا تھا۔ سامنے سیلاب تھا۔ ہم نے اس پر کم دھیان دیا۔ جب وادی کے بیچ میں پہنچے تو پانی چڑھنے لگا حتیٰ کہ کار میں داخل ہو گیا۔ ناچار ہم اس سے اتر کر بھاگ بھاگ وادی کے پار نکلے۔ بیچ رات سے لے کر صبح تک اُس کے کنارے بھوکے پیاسے بغیر گدے بستر اور چادر کے پڑے رہے کیونکہ موت کا انتظار تھا اس لئے زندہ بیچ جانے کو بھی غنیمت سمجھا اور سفر کی تکان و مشقت اور رت جگے کے باوجود سلامتی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ صبح کے وقت مددگار پہنچے اور ہم واپس آئے۔

اس سے مجھے اس امر کی کشتی کا قصہ یاد آیا جس کا ملاح دوسری جنگ عظیم میں شریک تھا اس کی

غم نہ کریں

کشتی کو ایک راکٹ آ کر لگا وہ سمندر میں ڈوب گئی ۱۳ دن وہ پانی کے نیچے رہا۔ ٹھنڈے پانی اور سوکھی روٹی کے علاوہ اور کچھ اس کے پاس نہ تھا جب وہ سلامت رہ گیا تو اس سوال کے جواب میں کہ اس واقعہ سے سب سے بڑا تجربہ اُسے کیا ہوا اس نے کہا: ان خوفناک ایام میں میں نے یہ سیکھا کہ جو سلامت ہو اور روٹی پانی رکھتا ہو تو سمجھو کہ اسے دنیا مل گئی۔ جی ہاں! یہ دنیا کیا ہے؟ اس کے جواب میں ہم پائیں گے کہ ہمیں زندگی کے وسائل میں ۸۰ فیصد سے زیادہ حاصل ہے تب اچھی زندگی ہے اور جو امن اطمینان اور راحت ہمیں حاصل نہیں وہ محض ۲۰ فیصد ہے۔ دنیا میں اکثر لوگ ہماری تمہاری طرح ہی ہیں۔ استثنائی حالات میں آفت امن سے بڑی ہوتی ہے۔ پھر بھی ہم اور آپ جو کمی ہے اس پر تورو تے ہیں اور جو حاصل ہے اُس پر خوش نہیں رہتے۔ جو نعمت فوت ہو جائے اس پر رنج کرتے ہیں جو خیر پہنچے اس پر خوش نہیں ہوتے۔ جو تکلیف پہنچے اُس پر کف افسوس ملتے ہیں جو ہمارے پاس ہے اس پر شکر گزار نہیں ہوتے۔

عداوت کی آگ بھڑکنے سے پہلے ہی بجھا دو

اپنی چھوٹی سی عام زندگی میں میں نے یہ پایا کہ جب بھی کسی تنقید یا مخالفت پر اپنا اعتبار بحال کرنا اور حق وصول کرنا چاہا اس سے نقصان ہی ہوا۔ بایں معنی کہ میں سمجھتا تھا کہ اس تنقید یا مخالفت کی جو کسی کی طرف سے پیش آتی ہے، تحقیق کرنے اور اسے غلط ثابت کر دینے سے میرا وقار و اعتبار بحال ہو جائے گا لیکن معاملہ اس کے برعکس ہی نکلا۔ میرے اور اس شخص کے بیچ عداوت چلتی رہی خصوصیت باقی رہی وہ غلطی پر مصر رہا بالآخر میری تمنا بھی یہ ہوئی کہ کاش میں تحقیق و تفتیش میں نہ پڑا ہوتا بلکہ اس کے مقابلہ میں صبر، اعراض، تحمل اور برداشت کی پالیسی اپناتا۔ یہی قرآن کی بھی تعلیم ہے فرمایا ”درگزر کرو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔“ (۱۹۹:۷) ”چاہئے کہ عفو و درگزر سے کام لیں“ (۳۳:۴۲) ”وہ لوگ جو غصہ پی جاتے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے“ (۳۳:۴) ”جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں“ (۳۷:۳۲) ”احسن طریقہ پر جواب دو دیکھو گے کہ جس کے اور تمہارے بیچ عداوت تھی وہ لپکا دوست بن جائے گا۔“ (۳۳:۴۱) ”جب جاہل انہیں مخاطب بناتے ہیں تو یہ سلام کہتے ہیں۔“ (۶۳:۱۵)

لہذا کسی شخص کے منہ سے بری بات سنو تو اسے جواب نہ دو۔ جواب دینے سے وہ دس گنا برائی کرے گا۔ کوئی تمہاری ہجو کرے تو ایسے نال دو گویا تم نے سنا ہی نہیں اگر تم نے بھی جواب میں ہجو لکھی تو لوگ ان چیزوں میں لگ جائیں گے ادیب انہیں محفوظ رکھیں گے۔ کوئی تمہارے خلاف تیز و تند مقالہ لکھے تو تجاہل سے کام لے کر اسے مر جانے دو کوئی حسد سے تم پر نقد کرے تو تغافل برت جاؤ۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ برداشت کر لینے سے مصائب دفن ہو جاتے ہیں۔ بقول شاعر:

لبالب بھرے سمندر میں کوئی نادان پتھر کھینچ کر مارے تو اس کا کیا بگڑے گا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اس کا مردار حلال ہے۔ پانی زیادہ ہوگا حتیٰ کہ دو بڑے مکلوں کے برابر بھی ہوگا تو اس سے اس کا کچھ نہ بگڑے گا۔ ایسے ہی صابر و غبور آدمی ہوتا ہے عیب چینیوں سے وہ محفوظ رہتا ہے

”تمہارا عیب جو ہی جڑ کٹا ہے“ ”جو لوگ فضول بکواس کرتے ہیں اللہ اس کو ان سے بچاتا ہے“ ”تم ہماری نگرانی میں ہو۔“

کسی کا مقام نہ گراؤ

اپنی زندگی میں میرا ایک تجربہ ہے جس میں کبھی ناکامی نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ معتدل اور مؤدبانہ تعریف لوگوں پر اثر کرتی ہے چاہے کوئی کتنا ہی عابد زاہد اور ظاہری چیزوں سے دور بھاگتا ہو لیکن جب اس کی تعریف کریں گے تو وہ خوش ہوگا اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ میں اہل تقویٰ علماء اور متدین لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جب ان کا شکریہ ادا کیا جاتا یا مدح کی جاتی تو وہ نرم پڑ جاتے چہرہ پر خوشی جھلکتی، پیشانی چمکتی۔ مطلب یہ کہ نرم کلمہ اپنا اثر رکھتا ہے اور نبی کریمؐ کی تعلیم بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ان کا قرار واقعی مقام دو۔ قرآن میں فرمایا گیا:

”اللہ کی رحمت سے تم ان کے لئے نرم ہو اگر تم سخت دل ہوتے تو وہ تمہارے پاس سے چھٹ

جاتے۔“ (۱۵۹:۳)

کتاب ”آپ دوست کیسے بنائیں“ کے مؤلف کی رائے ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے عوامل میں یہ ہے کہ ان کی مدح و ثنا زیادہ سے زیادہ کی جائے، میری یہ رائے تو نہیں لیکن اعتدال کے

غم نہ کریں

ساتھ تعریف ہو۔ جیسا کہ فرمایا ”اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے“ نہ زیادہ تعلق نہ جفا بلکہ خوش اخلاقی، بلندی اور سخاوت۔ ہم اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں پر ناک بھوں چڑھائیں ان کے اوپر تیوری چڑھائیں لیکن اس طرح پانے کے بجائے ہم انہیں کھودیں گے کیونکہ ہمارے اور آپ کے علاوہ انہیں دوسرے لوگ مل جائیں گے جو ان سے تواضع سے پیش آئیں گے، مسکرائیں گے اور ان کے لئے بازو پھیلا دیں گے۔

”آپ کے جو ایمان والے پیروکار ہیں ان کے لئے اپنے بازو جھکا دیجئے۔“ (۲۱۵:۲۶)

یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ لوگوں کا پیار پالیں کیونکہ وہ تعریف، رعایت، محبت اور مہربانی کے مستحق ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کے گواہ ہیں ”لوگوں سے بھلی بات کہو۔“ (۸۳:۲) زندگی میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانا جو لوگوں سے ملنے جلنے کا فن اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لئے لوگوں کے دل ان کی طرف اتنی جلدی اور تیزی سے مائل ہو جاتے ہیں جیسے ٹھنڈی اور صاف ہوا کے ساتھ نرم پتے اڑتے ہیں۔ جہاں وہ جائیں اور اتریں نگاہیں ان کا پیچھا کرتی ہیں۔ ان کے چہرے لوگوں کے لئے کھلے ہوئے ہیں۔ دل صاف، زبانی پاکیزہ، وہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اور ان کو پا کر لوگ کتنے خوش رہتے ہیں۔

اللہ کی توفیق کے بعد بندہ کے مقدر میں ہے کہ وہ زمین میں قبولیت پالے، لیکن یہ قبولیت قارون کے خزانے، سلیمان کی بادشاہت، ہارون رشید کی خلافت سے نہیں خریدی جاسکتی بلکہ اس کے لئے ضرورت ہے: اللہ کے لئے اخلاص نیت، صدق، اللہ و رسول کی محبت، لوگوں کی سچی خیر خواہی اور نفس امارہ کی تحقیر و ملامت اور سرزنش کی۔ صفات حمیدہ اور خصائل جمیلہ دشواری سے حاصل ہوتے ہیں کیونکہ وہ بلندی کی جانب ہیں۔ جب کہ برے اخلاق اور شرارت طبع آسانی سے آ جاتی ہیں کہ وہ نیچے کی طرف جاتی ہیں اور چڑھائی مشکل ہے جب کہ نزول آسان ہوا کرتا ہے۔ بقول شاعر:

”جو پست ہوگا ذلت اس کے لئے آسان ہو جائے گی کہ میت کے کسی زخم سے اسے تکلیف نہیں ہوتی۔“

زندگی کا مزہ اور حقیقی لطف وہ ہے جو دوسروں کو بھی خوش کر دے۔ وہ ان کی صلاحیتوں اور

قدرتوں کا اعتراف، ان کی انگلیوں و آرزوں کی حوصلہ افزائی ہے، ان کی محنتوں پر پانی پھیرنا اور کردار کی نفی کرنا نہیں۔ لوگوں کی زندگی جس چیز سے کھٹی اور مکدر ہوتی ہے وہ یہ کہ آدمی بس اپنے کو دیکھے۔ بس وہی تابناک ستارہ، محراب آسمان، نابغہ روزگار اور نادر العصر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ قاصر ہیں ان میں کمیاں پائی جاتی ہیں۔

کئی لوگوں سے میں واقف ہوں کہ وہ خیر کے کام کرتے ہیں، ان کی صلاحیت و معیار ٹھیک ہے، میں سمجھتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو صحیح طور پر جانتے ہوں گے اس لئے اپنے بارے میں مبالغہ آرائی اور غلو سے کام نہ لیں گے۔ لیکن جب عملاً ان سے سابقہ پڑا تو پتہ چلا کہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوششیں لوگوں کے تصور سے کہیں زیادہ بلند ہیں۔ ایک صاحب طالب علم ہیں اور مبتدئین کے لئے چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھتے ہیں۔ میں نے ان کی کوششوں کی تعریف کیا کہ جامہ سے باہر ہو گئے۔ ”ارے صاحب اتنی کتابیں نکل گئیں، لوگ ان پر ٹوٹے پڑتے ہیں اور سب تعریف کرتے ہیں وغیرہ۔“ مجھے حیرت ہوئی کہ انسان اپنی تعریف سے کس قدر خوش ہوتا ہے اور جو اس کی تعریف نہ کرے اس کی شان گھٹا دے اُس کی محنت کا اعتراف نہ کرے وہ اسے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ ایک اور طالب عالم کی ایک کیسٹ میں نے سنی۔ یہ صاحب بہت مشہور نہیں تھے نہ بالکل گم نام۔ میں نے حوصلہ افزائی کی خاطر ان کو فون کیا اور تعریف کی۔ جیسے ہی میں نے ان کی کیسٹ کی تعریف کی بس شروع ہو گئے۔ پہلے تو عاجزی سے بولے کہ بس اللہ کا کرم ہے کہ ان کی کیسٹ عام ہو رہی ہیں، تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اتنے لوگ لیکچر میں شریک ہوئے وغیرہ جیسے ان کی کیسٹیں مشرق و مغرب میں پھیل گئی ہوں۔ اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ نفس انسانی اپنی قدر و قیمت میں بہت مبالغہ پسند ہے۔ اُسے اپنی تنقید بہت ناپسند ہے۔ ایک واعظ کی میں نے تعریف کر دی۔ ان کی تقریر میں خود شریک نہ تھا دوسروں نے بتایا تھا۔ جیسے ہی تعریف کی انہوں نے بتایا کہ کتنے لوگ شریک ہوئے اور متاثر ہوئے، کتنے روئے اور کتنوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی۔ لہذا آپ کبھی بھی کسی کی شان نہ گھٹائیں نہ ان کی تحقیر کریں:

”مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں نہ عورتیں دوسری

عورتوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں۔“ (۱۱:۴۹)

آپ لوگوں کی ہمت افزائی کریں ان پر توجہ کریں ان کے کاموں سے دلچسپی لیں تو لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے یہی قرآن کا بھی طریقہ ہے۔:

”جو دن رات اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کو کھدیڑو نہیں“ (۵۲:۶) جو تمہارے ساتھ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان پر صبر سے کام لو۔“ (۲۸:۱۸) ”تیوری چڑھائی اور پشت پھیری اس بات پر کہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ وہ تڑکیہ اختیار کرے۔“ (۱-۲:۸۰) سیرت میں آتا ہے کہ جبکہ بن الاہم اس بات پر مرتد ہو گیا کہ اس کے ساتھ حسب مرتبہ معاملہ نہیں کیا گیا، جس سلوک کا مستحق وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا وہ نہیں ملا۔ طحسین نے ”الایام“ میں لکھا ہے کہ داخلہ کے وقت ازہر کا ایک شیخ امتحان لینے کے لئے آیا اور اس سے کہا: اواندھے سورہ کہف پڑھ۔ یہ تلخ بات طحسین کے دل میں اتر گئی ہمیشہ اسے کچھ کے لگاتی رہی اسی لئے وہ نہ صرف ازہر سے نکل گیا بلکہ ہمیشہ کے لئے اس کا ناقہ بن گیا۔ اُس سے نفرت کرتا رہا۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی اپنے کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا۔ کوئی بھی اپنے کو ستا اور حقیر نہیں جانتا، ہر آدمی اپنے آپ کو چاہتا ہے ہر آدمی اپنی قدر جانتا ہے پھر کون چاہے گا کہ اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی جائے؟

کسی بھی مجلس میں آپ دیکھیں گے کہ بولنے والا واحد متکلم بہت استعمال کرتا ہے۔ میں نے کہا ”میں نکلا، میں نے ملاقات کی“ مجھ سے کہا گیا وغیرہ۔ تو یہ جو نفسیاتی کمزوریاں ہیں ان کو آپ بے پروائی میں توڑنے کی کوشش کریں گے؟ جب میں معبد الریاض کے ثانیہ متوسطہ میں تھا کہ میں نے شعر کہنا شروع کر دیا۔ معبد کے مجلہ میں میں نے ایک قطعہ لکھا۔ جس پر بعض اساتذہ نے میری تعریف کی تو میں اپنے آپ کو ابوظہام اور متنبی کی مانند سمجھنے لگا۔ ایک بار معبد میں دوسرے ادارے کے طلبہ کا وفد آیا ان کے اعزاز میں ایک جلسہ کیا گیا جس میں مجھ سے ایک قصیدہ پڑھنے کے لئے کہا گیا کیونکہ طلبہ میں اور کوئی شاعر یا شاعری کا دعویٰ کرنے والا نہ تھا۔ اب مجھے قصیدہ کہنا لازم تھا کہ ”پانی نہ ملے تو تیم ہی سہی۔“ قصیدہ تیار کر کے پڑھا گیا اور معبد کے ادب کے ایک استاذ نے قصیدہ کے اسلوب اور حسن بیان کی تعریف کی۔ میں اسے صحیح سمجھا کہ واقعی وہ نادر المثل اور شاہکار ہے۔ جب میں بڑا ہوا، ادب کا مذاق

پیدا ہو گیا۔ شعر کی معرفت ہو گئی تو مجھے اپنے آپ پر اور اپنے قصیدہ پر ہنسی آئی۔ تو یہ انسانی نفسیات ہے۔ میں اور آپ لوگوں کو اس سے موڑ نہیں سکتے۔ تو ان کے جذبات کو ٹھیس کیوں پہنچائیں، ایسا کر کے ہم ان کی بدمزگی مول لیں گے ان کی دشمنی و ناگواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لئے اس چیز کو چھوڑ کر لوگوں کی زندگی میں جو خیر کا پہلو ہے، جو اچھے صفات ہیں، جو فضائل ہیں ان پر نظر رکھیں اور ان کی کوتاہیوں و غلطیوں سے صرف نظر کریں۔

جیسا کرو گے ویسا بھرو گے

بعض حکماء کہتے ہیں: عیب چھیں مکھی کی طرح ہوتا ہے جو زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ بعض لوگوں کو ”اگر مگر“ کی علت ہوتی ہے، کسی آدمی کا ذکر کیجئے تو کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے لیکن..... پھر اس لیکن کے بعد اس کی خوب خوب برائیاں کی جاتی ہیں۔ ان چیزوں سے ہی تو قرآن نے روکا ہے

”اشارے کرنے والا برباد ہے، جو آنکھ سے اشارے کرتا اور چغلیاں کرتا پھرتا ہے۔“

(۱:۱۰۴) ”تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔“ (۱۴:۴۹)

ہماری خوشی اس بات میں ہے کہ ہم دوسروں کو خوش کریں، انہیں آرام پہنچائیں، ان کی صلاحیتوں، کاموں اور فضل کا اعتراف کریں، ہم احترام اور اہتمام پائیں گے، جتنا ان سے اعراض، تجاہل اور بے پروائی برتیں گے اتنا ہی وہ بھی ہم سے تغافل اور اعراض کریں گے ”برابر سراسر کا بدلہ ہے۔“ کون عقل مند ہوگا جو لوگوں سے تو اپنا احترام کرانا چاہے لیکن خود ان کی اہانت کرے۔ یہ چاہے کہ وہ اس کی تکریم کریں اور خود انہیں ذلیل کرنا چاہے؟ یہ غلط تقسیم ہوگی جس کے بارے میں فرمایا

”ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو بربادی ہو۔“

دوسروں کی محنتوں پر پانی نہ پھیریں

سماجی تعلقات سے میں نے یہ استفادہ کیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے دوست کو خوش رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی مناسب عزت کریں، اسے سب سے اچھے نام سے پکاریں جو اس کا عرف ہو یا

غم نہ کریں

کنیت ہو جو آدمی بھائی اور دوست کو ضمیر مجہول سے پکارے اور ”اویئے، اے، اے، اے“ کہہ کر پکارے اس سے زیادہ بے حس اور بد ذوق کون ہوگا۔ سوچئے کہ کیا آپ بھی پسند کریں گے کہ کوئی آپ کا نام غلط لے، کنیت وغیرہ میں غلطی کرے؟ نہیں!

کسی سے تجاہل، اعراض اور نظر اندازی کا رویہ طبیعت کی خساست، احساس کی مردنی اور جذبات کی ٹھنڈک کی دلیل ہے۔ کیا عورت بیچاری کو افسوس نہ ہوگا کہ وہ گھر کو صاف ستھرا رکھے چیزیں قرینے سے لگائے، گھر کو خوشبودار بنا دے پھر شوہر گھر آ کر ان سب سے آنکھیں میچ لے، نہ شکر یہ ادا کرے نہ تعریف کا کوئی لفظ تو کیا اس سے اس کی محنت پر پانی نہ پھر جائے گا۔ لہذا غیر کی جانب بھی توجہ کیجئے جس نے جو کام کیا ہے اس کا شکر یہ ادا کیجئے، خوبصورت منظر، بہترین خوشبو، اچھا کام پاکیزہ موثر و دلکش شعر و مفید کتاب، ان کی تعریف کریں اور اپنا نام اہل مروت، وفاء اور امانت داروں میں درج کرائیں۔

دوسروں کی نقل نہ کیجئے

شاعر عمر ابوریشہ اپنا قصیدہ ”انافی مکة“ پیش کر رہے تھے جس کا مطلع یوں ہے

لم تزالی علی ممر اللیالی موئل الحق یا عروس الرمال
میں مجلس میں تھا اور مجھے ان کا طرز ادا نغسگی اور ترنم بہت اچھا لگا۔ قصیدہ مجھے یاد ہو گیا اور اس کا طرز ادا بھی۔ ایک قصیدہ میں نے بھی نظم کیا اور انسٹی ٹیوٹ کے جلسہ میں اسے عمر ابوریشہ کے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ ان کی نقل کرنی چاہی۔ لیکن ظاہر ہے کہ میں ابوریشہ نہ تھا۔ چنانچہ ان کی نقل بڑی بھونڈی اور شاق گزری، اس کے بعد میں نے نقالی چھوڑ ہی دی۔ اور اپنے طرز پر قصیدہ پیش کیا۔

اسی طرح کا واقعہ جدہ میں گزرا جہاں ایک مسجد میں عشا کی نماز پڑھی۔ امام نے ایک مشہور قاری کی نقل کرنی چاہی لیکن کہاں ممکن تھا۔ نہ آواز یکساں تھی نہ لہجہ، مشقت سے امام صاحب کا سینہ کانپنے لگا، آواز بھرا گئی اور سانس ٹوٹنے لگی۔ پیچھے ان کی تکلیف و مشقت اور بناوٹ سے میں پریشان

ہو رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر الگ فطری استعداد، صلاحیت اور صفات رکھی ہیں جو دوسروں سے بالکل الگ ہیں۔

”تم میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے الگ طریقہ و منہاج بنایا ہے۔“ (۲۸:۵)

لہذا آپ کو نئی چیز پیش کرنی ہے، تو کیا حرج ہے کہ آپ اپنے طریقے، طبیعت و مزاج اور صلاحیت کے مطابق پیش کریں۔

”کہہ دو ہر آدمی اپنے شاکلہ پر عمل کرتا ہے“ (۸۴:۱۷)

لہذا دوسروں کی آواز، گفتگو، بیٹھنے اور چلنے کے طریقوں کی نقل نہ کریں۔ اپنے آپ کو نقل کی زحمت، مشابہت و محاکات کی دشواری سے بچائیں۔ آپ کی جاذبت، چاشنی اور مٹھاس اسی میں منحصر ہے کہ آپ نئے پن اور تاثیر میں اپنا طریقہ ڈھنگ اور پیش کش کا الگ انداز اپنائیں۔

جسے کرنے سکتے ہوں اسے چھوڑ دیں

میں شہر ابہا میں جمعہ کے خطبے دیا کرتا تھا اکثر سیرت کے موضوع پر گفتگو ہوتی، لوگ اسے پسند بھی کرتے تھے۔ لوگوں کو مہروں کی زیادتی کا مسئلہ زیادہ پیش آتا ہے اس لئے مجھ سے اس پر بات کرنے کے لئے کہا گیا۔ اس موضوع پر اظہار خیال کے لئے واقعی مثالوں اور عام زندگی کے واقعات کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح کا کام مجھ سے ہوتا نہیں۔ کیونکہ میری دلچسپی اور صلاحیت سے سیرت کو مناسب ہے۔ اس موضوع پر طبیعت میں روانی آ جاتی تھی۔ پھر بھی میں نے گزارش منظور کر لی اور فی البدیہہ مہر کے مسئلہ پر خطبہ دیا۔ ایک آیت اور حدیث پڑھی پھر مثالیں دینی شروع کیں لیکن مناسب نہ ہونے کے باعث ربط باقی نہ رہا اور آئیں بائیں شائیں کرتا رہ گیا۔ تکلف کے باعث پسینہ پسینہ اور زبان پر جمود طاری ہونے لگا۔ جلدی سے خطبہ ختم کر دینا پڑا۔ خطبہ کیا تھا اُفق پر ایک شعاع تھی۔ موضوع کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اس سے بھی مجھے یقین ہو گیا کہ زیادہ مناسب یہی ہے کہ جس موضوع پر آسانی سے بول سکتا ہوں اسی پر بولوں اور تکلف سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ قرآن میں ہے:

”میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں۔“ (۸۶:۲۸)

غم نہ کریں

حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا اگر ہم آرام و سکون اور بہتر پیش کش چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اسی کو لیں، اسی پر گفتگو کریں جسے بہتر طور پر کر سکتے ہوں جس کا حق ادا ہو سکے۔ حدیث میں آیا ہے ”اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ تم میں کوئی بھی جب کوئی عمل کرے تو بہتر طریقہ پر انجام دے۔“ کیونکہ اچھے انداز میں کرنے سے دل کو ندامت نہیں ہوتی، ضمیر میں خلش نہیں رہتی اور امانت کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے۔

زندگی کا نظام تتر بتر نہ ہو

میں نے ایک دن بارہ تفسیریں جمع کیں: طبری، ابن کثیر، بغوی، زحشری، قرطبی، فی ظلال، الشقیطی، رازی، فتح القدیر، الخازن ابوالسعود اور تفسیر القاسمی، پھر ارادہ کیا کہ روزانہ ایک آیت کی تفسیر تمام تفسیروں میں دیکھوں گا اس طرح دوسری تیسری چوتھی آیت کی۔ ایسا کر کے میں نے ذہن کو ٹوٹا تو اس میں کچھ نہ تھا بلکہ سوالات کی جگہ ملال اور اکتاہٹ تھی۔ معلوم ہوا کہ مطالعہ کا یہ طریقہ مناسب نہ تھا اس میں کوئی ضبط و ترتیب نہ تھی بلکہ جلد بازی اور سرسری گزرتا تھا۔

لہذا اگر صحیح اور اطمینان سے استفادہ کرنا چاہیں تو کثرت مصادر و مراجع سے ذہن کو منتشر نہ کیجئے بلکہ ایک نقشہ بنائیے اور اسی کے مطابق مستقل پڑھئے اگر چہ تھوڑا ہی ہو۔ کیونکہ قلیل کام میں بھی مداومت بہت نفع دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کام کو پسند کرتے تھے جو مداومت کے ساتھ کیا جائے گرچہ قلیل ہی کیوں نہ ہو۔

زیادہ کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا ہے

ایک بار کچھ روپیہ ملا تو بڑا جوش و خروش پیدا ہوا اور اسی عالم میں میں ایک بڑے کتب خانہ پہنچا کہ ہر کتاب کا ایک ایک نسخہ تو خرید ہی لوں۔ ہر موضوع کی کتابیں کھگال ڈالیں چنانچہ نفسیات اصول الفقہ اور ثقافت عامہ پر دسیوں کتابیں میں خرید کر لے آیا۔ جب مطالعہ کے لئے بیٹھا تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے شروع کروں کیا پڑھوں اور کیا چھوڑوں، بہت سی کتابوں میں فضول کی تکرار تھی اور بہت سی ایسی

تھیں جن میں کوئی فائدہ نہ تھا۔ بعض صرف لفاظی کا نمونہ تھیں۔ سالوں یونہی گزرے ان میں سے کئی ایک کو تو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا بلکہ ان کی دیکھ بھال اور ترتیب سے مزید پریشان ہو گیا یہاں تک کہ میں اہل نظر علماء اور فاضل لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا اور ان سے اپنی مشکل بتائی تو انہوں نے مناسب و مفید طریقہ بتایا کہ بنیادی اور اہم کتابیں چھانٹ لو، مصادر و مراجع کی ترتیب رکھو اور انہیں کا ہمیشہ مطالعہ رکھو دوسری کتابوں کو اس وقت دیکھو جب کسی بحث اور تحقیق میں ان کی ضرورت پڑے۔ اس مناسب و بہتر رائے کو اختیار کرنے سے میری روح کو اطمینان ہوا دل کو آرام ملا۔ اگر آپ کے پاس بھی لائبریری ہو اور آپ بھی مطالعہ و استفادہ کرنا چاہیں تو اس کے لئے بنیادی اور افضل ترین کتابیں منتخب کر کے انہیں کا مطالعہ کیجئے تاکہ آپ انتشار فکر، اضطراب قلب اور اخذ و اختیار میں حیرانی و پریشانی سے بچ سکیں۔ بقول شاعر:

”لوگوں نے کہا کہ ہر ایک کی بنیادی مفید چیز لے لو میں نے کہا ہاں یہی اچھا ہے لیکن
نظر تو لپٹاتی ہے“

”تمہیں کثرت کی طلب نے غفلت میں ڈال دیا ہے حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے

ہو۔“ (۲-۱:۱۰۲)

یہیں مجھے یاد آیا کہ بعض طالب علم ادق کتابوں، نادر مخطوطات اور عجیب و غریب تصنیفات کے بارے میں معلوم کرتے ہیں اور کتابیں جمع کرتے جاتے ہیں لیکن پڑھتے بہت کم ہیں، بنیادی کتابوں کی معلومات انہیں بہت کم ہے۔ ان کا مقصد بڑی سے بڑی لائبریری بنا ڈالنا ہے، اور عنقاء مغرب اور الکبریٰ الاحمر کی طرح عجیب و غریب کتابوں کے نام سے حاضرین کو مرعوب کر دینا ہے۔ بعض مقاتل بن سلیمان کی تفسیر نہ ہونے پر افسوس کریں گے جب کہ ابن کثیر بھی پوری نہ پڑھی ہوگی ”فوائد تمام“ نہ ملنے پر افسوس ظاہر کریں گے جب کہ فتح الباری کے مؤلف کا نام اور کور کارنگ ہی دیکھا ہوگا

”اور ان میں امی لوگ ہیں جو کتاب (الہی) کو اپنی خواہشات کا ذریعہ جانتے ہیں حالانکہ یہ

ان کا وہم و گمان ہے۔“ (۷۸:۲)

غم نہ کریں

لہذا سیدھے راستہ کو چھوڑ کر پگ ڈنڈیوں میں مت الجھئے۔ کلیات کو چھوڑ کر جزئیات کے پیچھے نہ بھاگئے۔ حکمت کی بات یہ ہے کہ پہلے اہم کو لیں پھر اس سے کم کو۔ مقصود معلوم نہ ہو تو راستہ لمبا اور سواری تھک جائے گی، محنت رائیگاں ہوگی مقصود حاصل نہ ہوگا۔



خوش رہنے کے قاعدے

- ☆ ایمان سے رنج و غم اور فکریں ختم ہوتی ہیں، وہ اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور عبادت گزاروں کی تسلی۔
- ☆ جو گزرا سو گزرا، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، لہذا جو گزر گیا اس کے بارے میں مت سوچو۔
- ☆ قضائے مبرم پر راضی رہو جو روزی قسمت میں ہے اس پر شکر کرو۔ ہر چیز تقدیر پر مبنی ہے اس لئے ملال نہ کرو۔
- ☆ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، گناہوں کا بوجھ کم ہوتا ہے۔ علام الغیوب خوش ہوتا اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔
- ☆ کسی کے شکر یہ کا انتظار نہ کرو۔ بس اللہ الصمد کا ثواب کافی ہے، منکروں کے انکار اور حاسدوں کے حسد سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔
- ☆ صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ آج کی حدود میں رہو اور آج کی اصلاح کے لئے پوری کوشش کرو۔
- ☆ مستقبل کو آنے دو، کل کی فکر میں نہ پڑو، آج ٹھیک ہو تو کل بھی ٹھیک ہوگا۔
- ☆ اپنے دل کو حسد سے پاک کر لو، اس سے بغض و عداوت نکال پھینکو۔
- ☆ لوگوں سے بس خیر کے لئے ملو، گھر میں زیادہ رہو اپنے کام سے کام رکھو، لوگوں سے کم ملو چلو۔
- ☆ کتاب بہترین دوست ہے، اس کی ہم نشینی اختیار کر لو، علم و معرفت سے ہمیشہ کے لئے دوستی کر لو۔
- ☆ کائنات نظام پر مبنی ہے لہذا گھر آفس لباس اور فریض سب میں نظم و ترتیب ملحوظ رکھو۔
- ☆ کھلی فضا کی طرف نکلو، اچھے باغات کا مشاہدہ کرو، اللہ کی مخلوق اور خالق کی ایجاد میں غور کرو۔
- ☆ پیدل چلو، ورزش کرو، کسلی مندی اور گنتامی، نلکے پن اور بے کاری کو دور کرو۔
- ☆ تاریخ کا مطالعہ کرو، اس کے عجائب و غرائب پر غور کرو، اس کے قصوں اور کہانیوں سے لطف

اندوز ہو۔

- ☆ زندگی میں نیا پین لاتے رہوئے طریقے اپنایا کرو اور روزمرہ کے روٹین میں تبدیلی کر لیا کرو۔
- ☆ بیدار کن چیزیں چائے، قہوہ وغیرہ زیادہ نہ لو، سگریٹ نوشی اور گانگا وغیرہ سے پرہیز کرو۔
- ☆ اپنے کپڑوں کی صفائی پر دھیان دو، خوشبو لگاؤ، مسواک کرو اور اپنے مظہر پر توجہ دو۔
- ☆ حزن و ملال، مایوسی اور حسرت پیدا کرنے والی کتابیں نہ پڑھو۔
- ☆ یاد رکھو کہ رب کریم کا دامنِ غفو دراز ہے، وہ توبہ قبول کرتا بندوں سے درگزر کرتا اور برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔
- ☆ دین، عقل، صحت، سمع و بصر، رزق اور اولاد جیسی نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرو۔
- ☆ کیا نہیں معلوم کہ لوگوں میں فاجر، عقل، مریض، قیدی، مفلوج اور مصیبت زدہ بھی ہیں؟
- ☆ قرآن کے ساتھ زندگی گزارو، اس کے حفظ، سماع و تدبر اور تلاوت میں لگے رہو، حزن و ملال کو دور کرنے والا وہ سب سے بڑا مجرب نسخہ ہے۔
- ☆ اللہ پر توکل کرو، معاملہ اس کے سپرد کر کے اس کے حکم پر راضی رہو، بس اس پر اعتماد ہو کہ وہی تم کو کافی ہے۔
- ☆ جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، جو تم کو کالے اس سے بڑو، جو محروم کرے اس کو دو جو برائی کرے اس سے بردباری برتو، تم کو خوشی و امن ملے گا۔
- ☆ لاحول ولاقوة الا باللہ بار بار پڑھو، اس سے شرح صدر ہوتا ہے، حال کی اصلاح ہوتی ہے، بوجھ ہلکا اور اللہ راضی ہوتا ہے۔
- ☆ استغفار زیادہ سے زیادہ کرو، اس سے روزی میں کشادگی، اولاد، علم نافع اور آسانی ملتی ہے اور گناہ کم ہوتے ہیں۔
- ☆ اپنی صورت، صلاحیت، آمدنی، اور اہل و عیال پر قناعت کرو، تم کو راحت و سعادت ملے گی۔
- ☆ جان لو کہ عمر کے ساتھ یسر ہے اور کرب کے ساتھ کشادگی ہے، ایک حالت ہمیشہ نہیں رہتی، زمانہ الفتا پلٹتا رہتا ہے۔

- ☆ اچھی فال لومایوں نہ ہو جاؤ۔ اپنے رب سے حسن ظن رکھو اور ہر خیر اور اچھے کام کا انتظار کرو۔
- ☆ اللہ نے تمہارے لئے جو چنا ہے اس پر خوش رہو، کیونکہ مصلحت کیا ہے تم نہیں جانتے، کبھی شدت بھی فراخی سے بہتر ہو سکتی ہے۔
- ☆ مصیبت سے اللہ اور بندے کے درمیان قربت ہوتی ہے۔ تم دعا کرتے ہو، مصیبت کبر و غرور اور فخر کو ختم کر دے گی۔
- ☆ تم اپنے دل میں نعمتوں کے خزانے رکھتے ہو جو اللہ نے تمہیں دئے ہیں۔
- ☆ لوگوں سے بھلائی کرو۔ ان کے لئے خیر پیش کرو، مریض کی عیادت، فقیر کو دینے اور یتیم کے ساتھ شفقت کرنے میں تمہیں خوشی ملے گی۔
- ☆ سوئے ظن اور اوہام سے بچو، فاسد خیالات اور فرسودہ افکار سے احتراز کرو۔
- ☆ جان لو کہ تکلیف میں تم اکیلے نہیں ہو، غم و فکر سے کوئی بھی محفوظ نہیں، شدید حالات ہر فرد بشر کو پیش آتے ہیں۔
- ☆ یقین کرو کہ دنیا ابتلا و آزمائش، رنج و غم اور کدورتوں کی جگہ ہے۔ اس لئے اسے اسی طرح قبول کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔
- ☆ جو پہلے گزر چکے، جنہیں قید و بند، عزل و قتل، مصیبت و ابتلا اور ورتقی مضطبی کا سامنا ہوا ان کے بارے میں غور کرو۔
- ☆ جو مصیبت بھی پہنچی اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے یعنی رنج و فکر، بھوک، فقر، مرض، قرض اور آفات سے جو کرب پہنچا اس کا ثواب ملے گا۔
- ☆ جان لو کہ شدائد سے آنکھ کان کھلتے ہیں، دل زندہ ہوتا ہے، نفس خواہش سے رکتا ہے، بندہ ذکر کرتا اور ثواب کماتا ہے۔
- ☆ حادثات کا انتظار نہ کرو، مصیبت کی توقع نہ ہو، انہوں پر یقین نہ کرو اور الزام تراشیوں پر کان نہ دھرو۔
- ☆ جن چیزوں کا زیادہ خوف ہوتا ہے وہ ہوتی نہیں جن کا چرچا زیادہ ہوتا ہے وہ پیش نہیں آتیں

غم نہ کریں

اللہ کافی ہے وہی نگہبان ہے وہی مدد دیتا ہے۔

☆ حاسدوں، سخت دلوں اور چغل خوروں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ کیونکہ وہ روح کا بخار ہیں، کدورت پھیلاتے اور افسردہ کرتے پھرتے ہیں۔

☆ تکبیر تحریمہ ہمیشہ تم کو ملے، مسجد میں زیادہ دیر رکو اور اپنے کو اس کا عادی بناؤ، جلدی سے نماز کو جاؤ اس سے مسرت ملے گی۔

☆ گناہوں سے دور رہو کیونکہ افسردگی اور ملال خاطر کا سبب ہیں، ان کی وجہ سے آفتیں ٹوٹیں اور بحران آتے ہیں۔

☆ ”لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین“ ہمیشہ پڑھا کرو کیونکہ تکلیف دور کرنے اور آزمائش ہٹانے میں اس دعا کی بڑی تاثیر ہے۔

☆ تمہارے بارے میں جو بھی بری بات کہی جائے، کہنے والے کو ہی تکلیف دے گی تمہیں نہیں، اس سے ذرا بھی اثر نہ لینا۔

☆ اگر دشمن تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، حاسد سب و شتم کرتے ہیں تو اس سے تمہارا ہی وزن بڑھتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ تم اہمیت والے ہو گئے تھے تو تمہارا ذکر ہو رہا ہے۔

☆ یہ جان لو کہ جو تمہاری چغلی کرتا ہے اس نے اپنی نیکیاں تم کو دے دیں، تمہاری برائیاں ختم کر دیں، تم کو مشہور کر دیا۔ یہ بھی ایک نعمت ہے۔

☆ عبادت میں اپنے اوپر تشدد نہ برتو، سنت پر عمل کرو اور طاعت و عبادت میں غلو سے اجتناب کر کے میانروی اختیار کرو۔

☆ توحید خالص اپناؤ اس سے شرح صدر حاصل ہوگا، جتنی توحید خالص ہوگی اور اخلاص عمل ہوگا اتنی ہی سعادت ملے گی۔

☆ شجاع، قوی العمل، ثابت النفس، بنو، تمہارے پاس ہمت و عزیمت ہو۔ مشکلات، رکاوٹوں، افواہوں سے تمہاری منزل کھوٹی نہ ہو۔

☆ سخاوت کرو کیونکہ سخی کا سینہ کھلا رہتا ہے۔ اس کا دل چوڑا ہوتا ہے، بخیل تنگ دل، تاریک خیال

اور افسردہ خاطر ہوتا ہے۔

☆ لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملو، ان کی محبت مل جائے گی نرمی سے ان سے بات کرو، تواضع سے پیش آؤ تو وہ تمہارا احترام کریں گے۔

☆ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ لوگوں سے نرمی برتو، عداوتیں ختم کرو، دشمنوں سے صلح کر لو اور دوستوں کی تعداد بڑھاؤ۔

☆ سعادت کے بڑے دروازوں میں سے والدین کی دعا ہے، اُسے غنیمت جانو تا کہ ان کی دعا ہر برائی سے تمہارے لئے ڈھال بن جائے۔

☆ لوگ جس حالت میں ہوں اُسے قبول کرو۔ ان سے جو بھول ہو اس سے درگزر کرو، عفو و درگزر سنت الہی ہے۔

☆ مثالیت میں نہ پڑے رہو بلکہ حقیقت کے ساتھ جیو تم لوگوں سے وہ کیوں چاہتے ہیں جو خود کر نہیں سکتے، اس لئے عدل سے کام لو۔

☆ سادگی کی زندگی گزارو۔ بخل، اسراف اور فضول خرچی سے بچو، جسم جتنا موٹا ہوگا اتنی ہی روح کمزورگی۔

☆ مختلف مواقع پر اذکار کا اہتمام کرو کیونکہ یہ تمہارے لئے حفاظت اور بچاؤ ہے۔ اس میں وہ اصلاح و ارشاد ہے جس سے تمہارے دن ٹھیک رہیں گے، کاموں کی تقسیم کر لو، ایک ہی وقت میں سب کو اکٹھا نہ کرو لیکن وقفہ وقفہ سے کرو اور اس بیچ آرام کرو تا کہ بہتر طریقہ پر کام انجام پائے۔

☆ گھر، مال، اولاد، نوکری اور صورت و شکل میں جو تم سے کم تر ہو اُس پر نظر رکھو تا کہ اندازہ ہو، تم ہزاروں سے اوپر ہو۔

☆ یہ جان لو کہ بھائی بیٹے، بیوی بچے اور دوست و احباب جن سے بھی واسطہ پڑتا ہے وہ عیب سے خالی نہیں اس لئے سب کو جیسے ہیں ویسے قبول کرنے کی عادت ڈالو۔

☆ جو صلاحیت ملی ہے، جو علم حاصل ہوا ہے، جو روزی عطا ہوئی ہے جو کام تمہارے لئے مناسب

غم نہ کریں

ہے ان سب کو لازم پکڑو۔

☆ لوگوں اور جماعتوں پر جارحانہ حملے نہ کرو زبان محفوظ رکھو، اچھی بات کرو، پیٹھے الفاظ بولو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔

☆ برداشت کرنے سے عیوب دفن ہو جاتے ہیں، بردباری سے خطاؤں کی پردہ پوشی ہوتی ہے۔ سخاوت ایک دراز کپڑا ہے جو نقص اور عیوب کو چھپا لیتا ہے۔

☆ ایک ساعت میں تنہائی اختیار کر کے اپنے امور میں غور کرو اپنے نفس کا محاسبہ کرو، آخرت کے بارے میں سوچو اپنی اصلاح کرو۔

☆ تمہاری گھریلو بھری تمہارے لئے گھنا باغ ہے۔ اس میں علماء، ادباء، حکیموں اور شاعروں کے ساتھ تفریح کرو۔

☆ رزق حلال کماؤ حرام سے بچو، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہ کرو، تجارت، ملازمت سے بہتر ہے۔ اپنے مال کا روبرو میں لگاؤ، معیشت میں میانہ روی برتو۔

☆ متوسط درجہ کا لباس پہنو، نہ کہ عیش پسندوں اور نہ محتاجوں کا، لباس سے اپنے آپ کو ممتاز نہ کرو عام لوگوں کی طرح رہو۔

☆ غصہ نہ کرو، غصہ سے مزاج خراب ہوتا ہے، اخلاق بدلتے اور معاشرت میں برائی آتی ہے محبتیں اور رشتے کٹ جاتے ہیں۔

☆ زندگی میں تازگی لانے کے لئے کبھی کبھی سفر کرو، دوسری دنیاؤں کو دیکھو دوسرے ملکوں اور فضاؤں کا مشاہدہ کرو کیونکہ سفر لطف انگیز ہوتا ہے۔

☆ اپنی جیب میں ڈائری رکھو اُس میں اپنے کام ترتیب دو، اپنے اوقات منظم کرو اپنی یادیں اور ملاحظت لکھو۔

☆ لوگوں کو پہلے سلام کرو، مسکرا کر ملو، اور ان سے توجہ سے پیش آؤ، تاکہ ان سے قریب ہو جاؤ اور دلوں میں ان کی محبت ہو جائے۔

☆ اپنے اوپر بھروسہ کرو لوگوں پر انحصار نہ کرو، اور یہ سوچ لو کہ لوگ تمہارے خلاف ہیں تمہارے

- ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ تو بس اللہ ہے، زمانہ عیش کے جو ساتھی ہوں ان سے دھوکہ نہ کھانا۔
- ☆ آج کل کرنے اور نال مثل سے احتراز کرو کیونکہ یہ ناکامی کا سبب ہوتا ہے۔
- ☆ فیصلہ لینے میں تردد تذبذب سے کام نہ لو بلکہ صبر و عزم سے کام لو اور آگے قدم بڑھاؤ۔
- ☆ اپنی عمر مختلف پیشوں، ملازمتوں اور کورسوں کو بدلتے رہنے میں ضائع نہ کرو۔ کیونکہ اس سے تم کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔
- ☆ یہ مفکرات گناہ ہیں ان کا اہتمام کرو۔ جیسے نیک اعمال، مصیبتوں پر صبر، توبہ، مسلمانوں کی دعا، اللہ کی رحمت اور رسول اللہ کی شفاعت۔
- ☆ صدقہ دیا کرو چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس سے گناہ ختم ہوگا۔ دل کو خوشی ملے گی، فکر دور ہوگا، رزق میں اضافہ ہوگا۔
- ☆ اپنا نمونہ اپنے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، وہی سعادت تک پہنچائیں گے وہی نجات دہندہ اور فلاح و کامیابی سے ہمکنار کرنے والے ہیں۔
- ☆ اسپتال جایا کرو، اس سے عافیت کی قدر معلوم ہوگی، جیل خانہ دیکھو اس سے آزادی اور پاگل خانہ دیکھو کہ عقل و ہوش کی قدر آئے گی۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی اہمیت سے تم واقف نہیں۔
- ☆ حقیر اور معمولی باتیں تمہیں توڑ نہ ڈالیں۔ بات جتنی ہے اس سے زیادہ اس کو اہمیت نہ دو۔ حادثات و امور میں مبالغہ اور ہولناکی سے کام نہ لو۔
- ☆ اپنے ذہنی افتق کو وسعت دو جو تم سے برائی کرے اس کے لئے بھی عذر ڈھونڈو تا کہ تم سکون و اطمینان سے زندگی گزارو۔ اور انتقام کی کوشش بالکل نہ کرو۔
- ☆ اپنے دشمنوں کو اپنے غیظ و غضب اور رنج و الم سے خوش نہ کرو، یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کو افسردہ کر دیں۔ ان کی اس دیرینہ خواہش اور آرزو کو پورا نہ کرو۔
- ☆ اپنے دل میں لوگوں سے دشمنی، عداوت اور بغض و حسد کا الاؤ مت دہکاؤ کیونکہ یہ تمہارے کے لئے ایک مستقل عذاب بن جائے گا۔
- ☆ اپنی مجلس میں شائستہ رہو، خیر کی بات کہو، نہ خاموش رہو، چہرہ کھلا رکھو، ہم نشینوں کا احترام کرو

غم نہ کریں

- ☆ ان کی بات سنو اور اثناء کلام میں ان کی بات نہ کاٹو۔
- ☆ مکھی نہ بنو جو بس زخم اور گندگی پر ہی بیٹھتی ہے، لوگوں کی آبرو اور عزت نفس کا احترام کرو، کسی کی عیب جوئی میں نہ پڑو، نہ ان کی لغزشیں اور کیاں دیکھ کر ہنسو۔
- ☆ ایمان والا دنیا کی نعمتوں کے ضائع ہونے پر رنجیدہ نہیں ہوتا، نہ اس پر زیادہ توجہ دیتا، نہ اس کے حادثات سے ڈرتا ہے، کیونکہ دنیا حقیر فانی اور چلی جانے والی ہے۔
- ☆ غیر اللہ کا عشق اور اس کی محبت کو چھوڑ دو، کہ یہ دل کا عذاب ہے، روحانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر و طاعت پر زیادہ دھیان دو۔
- ☆ حرام چیز کو دیکھنے سے رنج و غم اور دل کے زخم پیدا ہوتے ہیں۔ جو غصہ بھر کرے، اپنے رب سے ڈرے، وہ سعادت مند ہے۔
- ☆ کھانے کے اوقات کو ترتیب دو، مفید غذائیں لو، بسیار خوری نہ کرو اور شکم سیر ہو کر نہ کھاؤ۔
- ☆ حادثات کے وقت برے سے برے احتمال کی توقع کرو اور اسے قبول کر لینے پر ذہن کو تیار کر لو، اس طرح تم کو راحت اور آسانی ملے گی۔
- ☆ جب رستی سخت ہوگی تو ٹوٹ جائے گی، رات کا اندھیرا چھننے گا دشواری ختم ہوگی، ایک مشکل دو آسانوں پر بھاری نہ پڑے گی۔
- ☆ رحمان کی رحمت کے بارے میں سوچو کہ اس نے زانیہ عورت کو بخش دیا جس نے کتے کو پانی پلا دیا تھا، اسے بخشش دیا جس نے قتل کئے تھے۔ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے حتیٰ کہ اس نے نصرانیوں کو بھی توبہ کی دعوت دی ہے۔
- ☆ بھوک کے بعد سیری، پیاس کے بعد سیرابی مرض کے بعد صحت، فقر کے بعد مالداری، غم کے بعد خوشی اللہ کی سنت ثابتہ ہے۔
- ☆ سورہ ”الم نشرح“ پر غور کرو، پریشانیوں میں اس کی تلاوت کرو۔ بحرانوں میں یہ سب سے بڑی دوا ہے۔
- ☆ دعاء کرب ”لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ

- ☆ الالہ رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم پڑھا کرو۔
 ناراض نہ ہو، جب غصہ آئے تو چپ ہو جاؤ، شیطان کی شر سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی پناہ لو
 اپنی جگہ بدل لو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔
- ☆ پریشانیوں سے نہ گھبراؤ، اس سے دل مضبوط ہوگا، عافیت کا مزہ ملے گا۔ حوصلہ بڑھے گا
 تمہارا صبر ظاہر ہوگا، شان بلند ہوگی۔
- ☆ ماضی کے بارے میں سوچنا حماقت اور جنون ہے وہ تو ایسا ہی ہے جیسے آئے کو پینا، چرے
 ہوئے کو چیرنا اور قبروں سے مردے اکھاڑنا۔
- ☆ مصیبت کے مثبت پہلو کو دیکھو، اس پر ثواب کی امید رکھو، یہ دوسروں کی مصیبت سے زیادہ سہل
 ہے، مصیبت زدوں سے تسلی پاؤ۔
- ☆ جو مصیبت لاحق ہوئی وہ چھوٹے والی نہ تھی جو نہیں پہنچی وہ لاحق ہونے والی نہ تھی، قلم سوکھ گیا اور
 فیصلہ پر راضی ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔
- ☆ اپنے نقصانات کو فائدوں میں بدل دو، لیموں سے میٹھا شربت بناؤ، مصیبتوں کے پانی میں مٹھی
 بھر شکر ڈال دو، حالات کو اپنے لئے سازگار بنانے کی کوشش کرو۔
- ☆ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی مدد کو نہ بھولو کہ مدد اسی حساب سے ہوتی ہے جس حساب
 سے بوجھ ہوتا ہے۔
- ☆ ناپسندیدہ چیزوں میں پسندیدہ سے زیادہ خیر ہوتا ہے، عواقب کو تم نہیں جانتے، سزا کے لبادہ
 میں کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، شر کے لباس میں کتنا خیر چھپا ہوتا ہے۔
- ☆ خیالات کو بھٹکنے نہ دو تاکہ وہ تفکرات کی وادیوں میں تم کو نہ لیجائیں، کوشش کرو کہ نعمتوں،
 صلاحیتوں اور کامیابیوں کے بارے میں ہی سوچو۔
- ☆ اپنے گھر اور آفس میں شور و شغب سے احتراز کرو، خوش بختی کی ایک علامت سکون و اطمینان
 بھی ہے۔
- ☆ مشکلات عبور کرنے کے لئے نماز بہترین مددگار ہے۔ وہ نفس کو بلند آفاق میں لے جاتی ہے

- ☆ اور روح کو نور و کامیابی کی فضا میں پہنچا دیتی ہے۔
- ☆ سنجیدہ، مفید اور شمر خیز عمل نفس کو شر کے احساسات، برے خیالات اور حرام رجحانات سے بچاتا ہے۔
- ☆ خوش بختی ایسا درخت ہے جس کو ضروری غذا پانی، ہوا اور روشنی، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے ملتی ہے۔
- ☆ جس کے پاس زیادہ ادب، ذوق سلیم، حسن اخلاق ہو وہ اپنے آپ کو اور لوگوں کو خوش کرے گا اسے دلی اطمینان و سکون حاصل ہوگا۔
- ☆ اپنے دل کو سکون پہنچاؤ کیونکہ دل اکتا جاتا اور افسردہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے حکمت کے طریقے اور معرفت کے اسلوب اختیار کرو۔
- ☆ علم سے شرح صدر ہوتا ہے، نظر میں وسعت آتی ہے، نئے آفاق واہوتے ہیں اور غم، تفکر اور حزن سے نفس کو چھٹکارا ملتا ہے۔
- ☆ رکاوٹوں اور مشکلات پر قابو پالینا بھی خوش بختی کا کام ہے کیونکہ کامیابی کی لذت کے برابر کوئی لذت نہیں ہوتی۔
- ☆ جب تم لوگوں کے ساتھ خوش رہنا چاہو تو ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو جیسا وہ تم سے کرتے ہیں، ان کی تعظیم میں کمی نہ کرو ان کی بے عزتی نہ کرو۔
- ☆ انسان اپنے آپ کو جان لے، اپنی صلاحیتوں کو جان لے اور انہیں بہتر طور پر کام میں لائے تو اسے کامیابی و کامرانی کی لذت ملے گی۔
- ☆ علم، معرفت اور تجربہ ڈھیر سارے مال سے زیادہ بہتر ہے۔ اسباب پا کر جانور خوش ہوتا ہے، معرفت سے انسان خوش ہوتا ہے۔
- ☆ زوجین میں ایک ناراض ہو تو دوسرا چپ رہے، دونوں ایک دوسرے کی کمی کو برداشت کریں۔ کیونکہ انسان غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا۔
- ☆ صالح ہم نشین جو اچھی فال لے آپ کی مشکل آسان کر دے گا۔ امید کا دروازہ کھولے گا اور

- ☆ نخواست لینے والا دنیا کو آپ پر تار یک بنا دے گا۔
- ☆ جس کے پاس بیوی، گھر، صحت اور مناسب مال ہو تو اس کے پاس اچھی زندگی کا سامان ہو گیا۔ اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور قناعت اختیار کرنی چاہئے۔
- ☆ جس کے پاس ٹھکانا ہو، صحت ہو ایک دن کی روزی ہو تو گویا اُسے پوری دنیا مل گئی۔
- ☆ جو اللہ کو رب مانے، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنے پر راضی ہو تو اللہ بھی اُس سے ضرور راضی ہوگا۔ یہی رضا کے ارکان ہیں۔
- ☆ کامیابی تب مانی جائے گی جب اللہ بھی تم سے راضی ہو، تمہارے اطراف کے لوگ بھی اور تمہارا نفس بھی اور یہ کہ تمہارا کام نتیجہ خیز ہو۔
- ☆ کھانا ایک دن کی خوش بختی ہے، سفر ایک ہفتہ کی خوش بختی ہے، شادی مہینہ کی خوش بختی ہے مال سال بھر کی خوش بختی ہے اور ایمان پوری عمر کی خوش بختی ہے۔
- ☆ تم محض سونے، کھانے پینے اور شادی سے خوش بخت نہیں بن سکتے بلکہ کام سے خوش بخت ہو گے، کام ہی دنیا میں بڑے لوگوں کو بڑا بناتا ہے۔
- ☆ جسے مطالعہ کا موقع ملے وہ خوش بخت ہے کیونکہ وہ دنیا کے باغات سے خوشہ چینی کرتا اور دنیا کے عجائبات دیکھتا ہے اور زمان و مکان کے ساتھ سفر کرتا ہے۔
- ☆ دوستوں کی گفتگو سے رنج و غم دور ہوتے ہیں۔ اچھے مزاج سے راحت ملتی ہے، شعر کے سننے سے دل کو آرام ملتا ہے۔
- ☆ زندگی کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، زندگی تمہاری فکر کی مرہون منت ہے، اس لئے اپنی آنکھوں پر کالا چشمہ نہ لگاؤ۔
- ☆ ان کے بارے میں سوچو جن سے تم کو محبت ہے اور جو تمہیں ناپسند ہیں انہیں اپنی زندگی کا ایک لمحہ نہ دو، کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے فکر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔
- ☆ جب تم نتیجہ خیز کام میں مصروف ہو گے تو اعصاب ٹھنڈے رہیں گے، نفس کو سکون ملے گا اور راحت کی فضا چھا جائے گی۔

غم نہ کریں

☆ سعادت حسب نسب اور سونے چاندی میں نہیں بلکہ دین، علم، ادب اور ضرورت کی تکمیل میں ہے۔

☆ اللہ کو وہ بندے زیادہ محبوب ہیں جو زیادہ خیر کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادہ بھلائی کرتے اور زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں۔

☆ اگر تم اپنی موجودہ حالت سے خوش نہیں تو اس خوشی کے انتظار میں نہ رہو جو افاق سے اترے گی یا آسمان سے نازل ہوگی۔

☆ اپنی کامیابیوں اور کام کے ثمرات کے بارے میں سوچو، جو بھی خیر کے کام کئے ان پر خوش رہو اللہ کی حمد کرو اس سے شرح صدر ہوتا ہے۔

☆ جو ذات کل تمہارے کام آئی تھی وہ آج بھی کام آتی ہے کل بھی آئے گی اس پر بھروسہ کرو۔ جب وہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر کس کا خوف ہے اور اگر وہ تمہارے خلاف ہو تو کس سے امید کر سکتے ہو؟

☆ تمہیں اور ثروت مندوں کو ایک ہی دن حاصل ہے۔ کل کی لذت انہیں بھی نہیں ملے گی۔ آنے والا کل نہ تمہارا نہ ان کا۔ ایک ہی دن ان کا ہے جو بہت ہی کم ہے۔

☆ مسرت سے نفس میں چستی اور دل میں فرحت آتی ہے، اعضاء میں توازن آتا ہے، قوت ملتی ہے، زندگی قیمتی ہوتی ہے اور عمر کو فائدہ ہوتا ہے۔

☆ غنا، امن، صحت اور دین سعادت کی بنیادیں ہیں، غریب خوف زدہ رہتا ہے، مریض اور کافر کو خوشی نہیں ملتی بلکہ وہ بد نصیبی کا شکار رہتے ہیں۔

☆ جو اعتدال کو اپنائے گا اسے سعادت ملے گی جو میانہ رو ہوگا اسے کامیابی۔ جو آسان پہلو پر توجہ دے گا وہ کامران ہوگا۔

☆ زمانہ کی گھڑی میں ایک ہی کلمہ ہے: خوش بختی کی ڈکٹنری میں ایک ہی لفظ ہے: رضامندی۔

☆ جب کوئی مصیبت لاحق ہو اسے بہت بڑی مصیبت نہ سمجھو مصیبت آسان ہوگی۔ اس کو جلد ازالہ کرنے کی کوشش کرو کیونکہ تنگی کا کرب نہ ہوتا تو راحت کی خوشی و امید بھی نہ ہوتی۔

- ☆ جب کوئی بحران درپیش ہو تو یاد کرو کہ کتنے بحران تم پر گزرے اور اللہ نے تمہیں ان سے نجات دی اس سے پتہ چلے گا کہ جس نے پہلی بار عافیت دی اب کی بار بھی دے گا۔
- ☆ دن کو ضائع کرنے والا وہ ہے جو اسے بغیر حق ادا کئے، بغیر کسی فرض کو نبھائے، بغیر کسی مقام کو پائے، بغیر خوشی حاصل کئے، بغیر علم سیکھے، بغیر کسی صلہ رحمی کے اور بغیر کسی خیر کو انجام دئے گزار دے۔
- ☆ اچھا یہ ہے کہ ہمیشہ ہاتھ میں کتاب رکھو کیونکہ بہت سا وقت ضائع ہوتا ہے۔ وقت کی حفاظت اور فرصت کے استعمال کا بہترین ذریعہ کتاب ہے۔
- ☆ قرآن کا حافظ جو رات میں اور صبح و شام پڑھتا ہو نہ مکان کا شکار ہوگا نہ خلا اور اکتاہٹ کا کیونکہ قرآن زندگی میں مسرت بھر دیتا ہے۔
- ☆ کوئی فیصلہ لینے کے لئے اُس کے ہر پہلو پر غور کر لو پھر استخارہ کرو قابل اعتماد لوگوں سے مشورہ کرو اگر کامیابی ملے گی تو مقصود حاصل ہو گیا، نہ ملے تو نادم نہ ہو گے۔
- ☆ عقل مند دوست زیادہ بناتا ہے دشمن کم کیونکہ دوست سال میں ملتا ہے جب کہ دشمن روزانہ مل سکتے ہیں۔ لہذا خوشخبری ہے اس کے لئے جسے اللہ مخلوق میں محبوب بنا دے۔
- ☆ اپنے دنیوی مقاصد کی ایک حد مقرر کرو جن کی طرف تم رجوع کرو ورنہ دل منتشر، سینہ تنگ، حالت بری اور زندگی افسردہ ہو جائے گی۔
- ☆ مناسب ہے کہ جسے اللہ پاک کی نعمتیں حاصل ہوں وہ شکر بجالائے طاعت اور تواضع کے ساتھ ان کی حفاظت کرے اور دوام بخشنے۔
- ☆ جو تفتویٰ سے آراستہ ہوگا، جس کی فکر ایمانی ہوگی اور اخلاق خیر پسند، اُسے اللہ کی اور لوگوں کی بھی محبت ملے گی۔
- ☆ کسمل مند اور گمنام ہی حقیقت میں رنجیدہ اور تھکا ہوا ہوتا ہے۔ سنجیدہ اور متحرک جینا بھی چاہتا ہے اور خوش رہنا بھی۔
- ☆ زندگی کی لذت اور مزہ مصائب و فکرات سے کئی گنا زیادہ ہے، البتہ اس لذت کا حصول

غم نہ کریں

- ☆ ذکاوت و ذہانت سے ہی کیا جاسکتا ہے۔
- ☆ اگر عورت دنیا کی ملکہ ہو پورے عالم کی ڈگریاں اُسے ملیں ہر طرح کا تمغہ دیا جائے لیکن شوہر نہ ہو تو وہ مسکین ہے۔
- ☆ کمال کی زندگی یہ ہے کہ آپ کی جوانی بلند مقصد، رجولیت مزاحمت اور بڑھا پانغور و فکر میں گزرے۔
- ☆ کمی ہو جائے تو دوسرے کے بجائے اپنے کو ہی ملامت کرو، دوسروں کو چھوڑ دو کیونکہ تمہارے اپنے عیوب اور کمیاں بھی اتنی ہیں کہ ان کی اصلاح میں وقت لگے گا۔
- ☆ محلوں اور کوشیوں سے زیادہ خوبصورت تو وہ کتاب ہے جس سے فہم کو جلا، دلوں کو مسرت، نفس کو انس حاصل ہو جو شرح صدر کرے اور فکر بڑھائے۔
- ☆ اللہ سے غنودور گزر طلب کرو اگر یہ دونوں مل جائیں تو گویا ہر چیز تم کو مل گئی، ہر برائی سے تم بچ گئے، ہر مسرت سے ہم کنار ہو گئے۔
- ☆ ایک روٹی، سات کھجوریں، پانی کا ایک پیالہ کمرہ میں ایک چٹائی اور قرآن پاک ہوں تو دنیا کو سات سلام کہہ دو۔
- ☆ خوش بختی کارا از قربانی، انکار ذات، سخاوت، کسی کو اذیت نہ دینے اور انسانیت و خود پسندی سے دور رہنے میں ہے۔
- ☆ اعتدال کے ساتھ ہنسی سے شرح صدر ہوتا ہے، دل کو تقویت ملتی اور ملال ختم ہوتا ہے، عمل میں چستی آتی اور دل میں صفائی پیدا ہوتی ہے۔
- ☆ عبادت ہی سعادت ہے، صالحیت ہی کامیابی ہے، جواز کار پڑھے گا۔ ہمیشہ استغفار کرے گا اور محتاجی کا جتنا اظہار اللہ سے کرے گا وہ نیکو کار ہوگا۔
- ☆ بہترین دوست وہ ہے جس پر تم کو بھروسہ ہو اور جس سے راحت ملے، جس سے تم دل کی بات کہہ سکو، جو تمہارے غم میں شریک ہو تو تمہارا راز افشاء نہ کرے۔
- ☆ جو خوشی ملی ہے اُس سے بڑی خوشی کی توقع نہ کرو کہیں وہ بھی نہ چلی جائے۔ نئے مصائب کا

- ☆ انتظار نہ کرو کہ اس سے جلد ہی غم و فکر طاری ہو جائیں گے۔
- ☆ یہ نہ سمجھو کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو، تم بہت سا اچھا کام کر سکتے ہو، لیکن ہر صلاحیت رکھنا اور ہر کام کرنا ممکن نہیں۔
- ☆ ایک خوبصورت صالح بیوی، وسیع اور کشادہ گھر، بقدر کفاف روزی اچھا پڑوسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔
- ☆ بری چیز کو بھول جانا، نعمت کو یاد رکھنا اور لوگوں کے عیوب سے چشم پوشی کرنا ایک اچھائی کی بات ہے۔
- ☆ درگزر انتقام سے لذیذ تر، کام بے کاری سے مزے دار، قناعت مال سے زیادہ بڑی اور صحت ثروت سے کہیں بہتر ہے۔
- ☆ تجہائی برے دوست سے اور اچھا دوست تجہائی سے بہتر ہے، عزت عبادت ہے تفکر طاعت ہے۔
- ☆ عزت غزالان افکار کا مرغزار ہے، کثرت سے ملنا جلنا حماقت ہے، لوگوں پر اعتبار بے وقوفی ہے، ان سے دشمنی مول لینا نحوست ہے۔
- ☆ بد اخلاقی ایک عذاب ہے، کینہ زہر ہے، غیبت رذالت اور دوسروں کی عیب چینی رسوائی کی بات ہے۔
- ☆ نعمتوں پر شکر گزاری سے برائی دور ہوتی ہے، ترک ذنوب سے دلوں کو زندگی ملتی ہے اور نفس پر فتح پانا بڑے لوگوں کا کام ہے۔
- ☆ امن کے ساتھ سوکھی روٹی خوف کے شہر سے بہتر ہے، خیمہ جس میں پردہ ہو وہ فتنہ والے محل سے اچھا ہے۔
- ☆ علم کی فرحت، اس کی بزرگی ہمیشہ رہتی ہے، اس کا ذکر باقی رہتا ہے، مال کی فرحت، اس کی بڑائی عارضی اور اس کا ذکر تھوڑی دیر کا ہوتا ہے۔
- ☆ دنیا پر خوش ہونا بچکانہ خوشی ہے، ایمان پر خوش ہونا نیکوں کی خوشی، مال کی خدمت ذلت ہے اور

غم نہ کریں

- ☆ اللہ کی رضا کے لئے کام شرف کی بات ہے۔
- ☆ ہمت کی جزا بیٹھی، کامیابی کی تکان راحت ہے، کام کا پسینہ مشک ہے اور اچھی تعریف بہترین خوش بو ہے۔
- ☆ سعادت اس میں ہے کہ تمہارا مونس قرآن پاک ہو، کام تمہاری ہانی ہو، گھر تمہاری خانقاہ اور قناعت تمہاری دولت ہو۔
- ☆ کھانے اور مال پر خوش ہونا بچکانہ پن ہے اچھی مدح پر خوشی بڑے لوگوں کی نشانی ہے، نیکی کا کام لازوال شرف ہے۔
- ☆ رات کی نماز دن کی رونق ہے، لوگوں کے لئے خیر پسندی ضمیر کی پاکی ہے اور شر سے خلاصی کا انتظار عبادت ہے۔
- ☆ مصیبت میں چار چیزیں ہیں: اجر کی اُمید، صبر کی زندگی، حسن ذکر اور لطف و کرم کی توقع۔
- ☆ نماز باجماعت، ضرورت مندوں کی حاجت روائی، مسلمانوں کی محبت، ترک ذنوب اور اکل حلال دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔
- ☆ سرداری کی ہوس نہ کرو سرداری میں بڑی تکلیفیں ہیں، شہرت کی حرص نہ رکھو کہ اس کا جرمانہ دینا ہوتا ہے، گمنامی کے ساتھ بقدر کفاف مسرت کی بات ہے۔
- ☆ حماقت کی علامت: وقت کا زیاں، توبہ میں تاخیر، لوگوں کو دشمن بنانا، والدین کی نافرمانی اور رازوں کا افشاء کرنا ہے۔
- ☆ اگر تمہیں کوئی گالی دیتا ہے تو رنجیدہ مت ہو، لوگوں نے تو رب تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، جس نے انہیں وجود بخشا اس کے وجود میں انہوں نے شک کیا، بھوکے ہوتے ہیں کھلاتا وہ ہے شکر کسی اور کا کرتے ہیں انہیں خوف سے نجات دیتا ہے یہ اس سے جنگ کرتے ہیں۔
- ☆ کرۂ ارض کو اپنے سر پر مت اٹھاؤ، کس کو پڑی ہے کہ ہمیں یاد رکھے۔ کسی کو زکام ہو جائے تو وہ میری اور تمہاری موت کو بھلا دیں گے۔

- ☆ سرور کفایت شعاری اچھا ٹھکانہ اور سلامتی و سکون میں ہے، فتنوں سے امان، رنج و محن سے نجات، شکر و عبادت میں ہے۔
- ☆ دنیا میں اجنبی مسافر کی طرح رہو، نماز ایسی پڑھو جیسے آخری ہو، ایسی بات نہ کہو جس پر معذرت کرنی پڑے، جو لوگوں کو حاصل ہے اس کا لالچ نہ رکھو۔“
- ☆ دنیا سے بے رغبتی بر تو اللہ کی محبت ملے گی، لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے رغبتی رکھو تو لوگ محبت کریں گے۔ قلیل پر قناعت کرو، قرآن پر عمل کرو، کوچ کے لئے تیار رہو، اللہ سے ڈرو۔
- ☆ جس سے نفرت کی جائے اُس کی کیا زندگی، جو اٹھایا جانے والا ہے اسے کیا راحت۔ خطا کار کو امن نہیں، فاجر کو کوئی چاہنے والا نہیں، جھوٹے کی تعریف نہیں ہوتی اور خدا پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔
- ☆ ”مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا تمام کام خیر ہے، اور یہ بس اس کی ہی خصوصیت ہے کہ اگر تکلیف پہنچے اور صبر کرے تو اس کے لئے خیر، راحت ملے اس پر شکر کرے، جب اس کے لئے خیر۔“
- ☆ مسکراہٹ خیر کی کنجی ہے، محبت اس کا دروازہ، سرور اس کا باغ، ایمان اس کا نور اور امن اس کی دیوار۔
- ☆ دل کشی: خوب رو چہرہ، سر سبز کیاری، ٹھنڈا پانی، مفید کتاب، نعمت کی قدر کرنے والا دل جو برائی سے دور ہے اور خیر پسند ہو۔
- ☆ صحت مند پتھر پر بھی ایسے سو جاتا ہے جیسے ریشم کے بستر پر سو رہا ہو، جو کی روٹی بھی یوں کھا لیتا ہے جیسے شید کھا رہا ہو۔ چھوٹیڑے میں ایسے رہتا ہے گویا کہ کسری کے ایوان میں رہتا ہو۔
- ☆ بخیل محتاجی میں زندگی گزارتا، مال داری میں مرتا، اپنی ذریت کی خدمت کرتا اور مال سینت سینت کر رکھتا ہے جب کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ سے دور ہوتا ہے اور دنیا میں بری شہرت ملتی ہے۔
- ☆ اولاد ثروت سے افضل، صحت غنا سے اچھی اور امن مسکن سے اچھا اور تجربہ مال سے قیمتی ہے۔

غم نہ کریں

- ☆ ترک طاعت سے دل کی موت ہو جاتی ہے، گناہوں پر اصرار بدنامی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے بے پروائی، اس کی گرفت سے بے خوفی اور صالحین کی حقارت بدبختی کے اسباب ہیں۔
- ☆ جو اپنے گھر میں خوش نہیں وہ دوسری جگہ بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ جسے گھر والے محبت نہ دیں دوسرے بھی اسے محبت نہیں دے سکتے جو آج کو ضائع کرتا ہے۔ وہ کل کو بھی ضائع کرے گا۔
- ☆ چار چیزیں سعادت لاتی ہیں۔ نفع بخش کتاب، صالح اولاد، پیار کرنے والی بیوی، نیک دوست۔ ان سب کا اجر اللہ کے ہاں ہے۔
- ☆ ایمان، صحت، غنا، آزادی، امن، شباب اور علم، بس انہیں کے لئے عقل مند کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی ایک میں وہ سب کم ہی جمع ہوتی ہیں۔
- ☆ آج کی خوشی پر خوش ہو لو اس کی گارنٹی نہیں کہ وہ کل بھی باقی رہے گی؛ زمانہ کی آفت سے کوئی امان نہیں ہے، اس لئے ایسا نہ کرو کہ رنج و نفرت اور خوشی اُدھار کر دو۔
- ☆ دنیا میں سب سے افضل چیزیں ہیں؛ ایمان صادق، اچھے اخلاق، عقل سلیم، صحت مند جسم اور خوش گو اور روزی۔ اس کے بعد جو ہے وہ فالتو ہے۔
- ☆ دو نعمتیں خفی ہیں؛ جسم کی صحت اور وطن میں سکون۔ دو نعمتیں ظاہری ہیں؛ لوگوں میں ذکر خیر اور صالح اولاد۔
- ☆ خوش رہنے والا دل، بغض کے کیڑوں کو مار دیتا ہے اور راضی رہنے والا نفس نفرت کے حشرات ختم کر دیتا ہے۔
- ☆ امن سب سے نرم قالین ہے۔ عافیت، بہترین پردہ، علم لذیذ تر غذا اور محبت سب سے زیادہ مفید دواء اور حجاب سب سے اچھا لباس ہے۔
- ☆ فاسق، مریض، مقروض، غریب، غمگین، قیدی اور مجبور، خوش نہیں رہ سکتا۔
- ☆ خوش بختی پریشانیوں کے خاتمہ، عداوتوں کے ازالہ، نیک اعمال اور شہوتوں پر غلبہ کا نام ہے۔
- ☆ جس راستہ میں سب سے کم خطرہ ہے وہ تمہارے گھر کا راستہ ہے، سب سے مبارک ایام وہ ہیں

- ☆ جب تم عمل صالح کرو۔ سب سے برا وقت وہ ہے جس میں تم کسی کے ساتھ برائی کرو۔
- ☆ خوشی کو شکر، حزن کو صبر، خوشی کو تنکڑ، نظر کو عبرت، قول کو ذکر، زندگی کو اطاعت کا ذریعہ بنا لو۔
- ☆ اس پرندے کی مثل ہو جاؤ جسے صبح و شام روزی ملتی ہے اسے کل کی پروا نہیں ہوتی، کسی پر انحصار نہیں کرتا نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، جس کا سایہ ہلکا اور حرکت کم ہوتی ہے۔
- ☆ جو لوگوں سے زیادہ میل جول رکھے گا تو لوگ اس کی توہین کریں گے، جو ان سے بچل کریں گے اس نے نفرت کریں گے، جو ان سے بردباری برتے گا اس کا احترام کریں گے۔ جو ان کے ساتھ سخاوت کرے گا اس سے محبت کریں گے جو ان کا محتاج رہے گا اس سے کدورت رکھیں گے۔
- ☆ فلک گردش میں ہے، راتیں حاملہ ہیں، ایام الٹتے پلٹتے ہیں، یکساں حال رہنا محال ہے اللہ کی ہر روز نئی شان نئی آن ہوتی ہے لہذا غمگین کیوں ہو؟
- ☆ سلاطین کے دروازے پر تم کیوں کھڑے ہو جب کہ ان کی پیشانیاں اللہ کے قبضہ میں ہیں، تم تو گویا فقیر سے مانگتے ہو، بخیل سے گزارش کرتے اور زحمت سے شکایت کرتے ہو۔
- ☆ سحر کے وقت ایسے پیغام بھیجو جن کی روشنائی آنسو ہوں، جن کے کاغذ رخسار ہوں، جن کی ڈاک قبولیت ہو جن کا رخ عرش الہی کی طرف ہو۔ پھر جواب کے منتظر رہو۔
- ☆ جب سجدہ میں جاؤ تو اسے چپکے چپکے اپنے راز بتاؤ۔ وہ ظاہر اور چھپے سب کو جانتا ہے اپنے پڑوسی کو نہ بتانا کیونکہ محبت کے اسرار فاش نہیں کئے جاتے، لوگوں میں حاسد اور خیر خواہ سبھی ہوتے ہیں۔
- ☆ پاک ہے وہ جس نے ذلت کو عزت، بختا بگی کو غنا، سوال کو شرف، خضوع کو رفعت اور توکل کو کفایت بنا دیا۔
- ☆ جب تمہارے دل میں کوئی خیال آئے اور غم کے مارے تمہارا حال تاریک ہو جائے تمہیں گھر والوں اور مال میں نقصان ہو تو مایوس نہ ہو کہ اللہ کوئی راہ پیدا کرے گا۔
- ☆ "حسبنا الله ونعم الوكيل" کو نہ بھولو کہ اس سے لگی آگ بجھ جاتی ہے، ڈوبتا ہوا بچ

غم نہ کریں

- ☆ جاتا ہے، کھوئے ہوئے کو راست مل جاتا ہے اور اللہ سے عہد مضبوط ہو جاتا ہے۔
- ☆ اے پرندے خوش ہو جاؤ۔ تم نہر پر آتے ہو، پیٹر پر رہتے ہو، پھل کھاتے ہو، خطرہ کی بات نہیں ہوتی۔ تمہیں کسی دوزخ سے گزرنا نہیں ہوتا لہذا تم انسان سے زیادہ خوش بخت ہو۔
- ☆ خوشی لحظہ مستعار ہے، حزن کفارہ ہے، غضب ایک شعلہ ہے، بیکاری خسارہ ہے اور عبادت نفع بخش تجارت ہے۔
- ☆ گزشتہ کل ختم، آج چل رہا ہے، آئندہ کل آنے والا ہے۔ تمہارے پاس آج ہی تو ہے اس لئے اسے اطاعت میں لگا دو، بہت زیادہ نفع ملے گا۔
- ☆ قلم تمہارا ساتھی ہے، کتاب تمہارا دوست ہے تمہاری مملکت گھر ہے، تمہارا خزانہ تمہاری روزی ہے اس لئے جو گزرا اس پر افسوس نہ کرو۔
- ☆ ہو سکتا ہے کہ شروع میں تمہیں تکلیف ہو، آخر میں خوشی، جیسے بادل کہ شروع میں کڑکتا ہے اور آخر میں برکھارت لاتا ہے۔
- ☆ استغفار سے دلوں کے قفل کھل جاتے ہیں، شرح صدر ہوتا اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ وہ روزی کی کھڑکی اور توفیق کا دروازہ ہے۔
- ☆ چھ چیزیں اچھی اور کافی ہیں: دین، علم، غنا، مروت، عفو اور عافیت۔
- ☆ کون ہے جو مضطر کی پکار سنے، ڈوبتے فریادی کو بچائے، اور ہمیں تکلیفوں سے نجات دے؟ وہ اللہ ہے اللہ۔
- ☆ بے فائدہ بحث سے، لغو گفتگو سے، نادان دوست سے دور رہو کیونکہ وہ نقصان پہنچاتا ہے، اس کی طبیعت چورا آ نکھ سرتہ کرنے والی ہے۔
- ☆ بات کو ڈھنگ سے سننا، قطع کلامی نہ کرنا، آہستہ سے گفتگو کرنا، اخلاق سے پیش آنا یہ مردانِ حر کے تمغے ہیں۔
- ☆ تمہارے پاس دو آنکھیں، دو کان، دو ہاتھ، دو ٹانگیں اور ایک زبان ہے، ایمان، قرآن اور امان ہے، پھر اے انسان شکر کیوں نہیں کرتے، اپنے رب کی نعمتیں تو کب تک جھٹلائے گا۔

- ☆ تم پیروں پر چل رہے ہو، جب کہ کتنے ہی پیر کئے ہوئے ہیں، ٹانگوں پر کھڑے ہوتے ہو کتنی ٹانگیں ٹوٹی ہیں، تم سوتے ہو تمہارے علاوہ کتنے ہیں جنہیں نیند نہیں آتی، تم حکم سیر ہو، کتنے ہیں جو بھوکے ہیں۔
- ☆ تم بہرے پن، گونگے پن اور نابینائی سے محفوظ ہو، برص، جنون اور جذام سے بری ہو، سل اور کینسر سے عافیت میں ہو۔ تو کیا رحمن کا شکر ادا کرتے ہو؟
- ☆ ہماری مشکل یہ ہے کہ حاضر سے عاجز ہیں، ماضی میں جیتے ہیں آج کے دن کام نہیں کرتے، کل کی فکر میں لگے ہیں یہ عقل و حکمت تو نہیں؟
- ☆ لوگ تم پر تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم ذکر کے لائق ہو، تم علم، بصیرت، مال یا منصب یا عہدہ میں ان سے بڑھ گئے ہو۔
- ☆ دوسرے کی شخصیت اختیار کرنا، اپنے آپ کو لوگوں کی نقل میں زائل کر دینا خود کشی ہے اور اپنی شخصیت کے پہچان کو مٹا ڈالنا ہے۔
- ☆ ”سب اپنا مشرب جانتے ہیں“ ہر ایک کا ایک طریقہ ہے، ”کان کے کچے نہ بنو“ ”دو قسم کے پودے ہیں جنہیں ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے۔“
- ☆ آنسو کے ساتھ مسکراہٹ ہے، تکلیف کے ساتھ خوشی بھی ہے، بلاء کے ساتھ عطیہ ہے، آزمائش میں انعام بھی ہے، یہ اللہ کی سنت اور اس کا قاعدہ ہے۔
- ☆ دیکھو ہر طرف بتلائے مصیبت و آفت زدہ ہی نظر آئیں گے، ہر گھر میں آہ و بکا ہے، ہر رخصت پر آنسو ہے، ہر وادی میں، خوشحالاتم کتناں ہیں۔
- ☆ تمہارے احسان کے شکر یہ کی آواز چڑیوں کے چہچہانے سے زیادہ بھلی، نسیم سحر سے زیادہ اچھی، اور درختوں کی سرسراہٹ اور موسیقی کے سروں سے زیادہ دل کش ہے۔
- ☆ گرم پانی پی کر کلفت سے الحمد للہ کہتے ہو، ٹھنڈا پانی پی کر تمہارا ہر بن مو الحمد للہ پکارا ٹھے گا۔
- ☆ ترک لایعنی عاقلوں کے نزدیک سب سے سستا سودا ہے، دنیا میں سب سے قیمتی سودا یہ ہے کہ لوگ تم سے مانوس ہوں تم لوگوں سے مانوس ہو۔

- ☆ غم نہ کریں
- ☆ رنج و فکر سے اجتناب کرو کیونکہ اس میں زہر ہے، عجز موت ہے کسل ناکامی ہے۔ اضطراب رائے سوائے تدبیر ہے۔
- ☆ برے ہم نشین سے اچھا ہے اکیلا رہنا، نیکی کا کام کرنا بلند و بالا مخلوقوں سے بہتر ہے نیک نامی کے ساتھ تعارف ہی بڑا رتبہ ہے۔
- ☆ جس کا رہنما دین ہو، عقل راہ بر ہو، حسب محافظ ہو، حیاء زینت دیتی ہو تو اُس کے پاس تمام فضائل جمع ہیں۔
- ☆ جو اختلاف کو ترک کر دے، تقاخر سے بچے، جھوٹ سے محفوظ رہے، تقدیر پر راضی ہو، حسد کو چھوڑ دے، اللہ اس کے لئے اپنی مخلوق کے دل میں جگہ بنا دیتا ہے۔
- ☆ جو سلطان کا استخفاف کرے گا اس کی دنیا چلی جائے گی، جو دوست کا استخفاف کرے گا اس کی مردت ختم اور جو اللہ کا استخفاف کرے گا اُس کی دنیا و آخرت سب برباد ہو جائے گی۔
- ☆ لوگ تم سے سوال کرتے ہیں تو یہ ایک نعمت ہے اس سے اکتاؤ و مت کہ نعمت آفت بن جائے گی، سب سے اچھے ایام تو تمہارے لئے وہی ہوں گے جب تم کعبہ مقصود بناؤ اور خود لوگوں کا قصد نہ کرو۔
- ☆ سونے سے پہلے لوگوں کو معاف کر دو، اپنے دل کو غصو سے سات بار دھولو، آٹھویں بار میں درگزر سے اسے صاف کر دو تو ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔
- ☆ علم تنہائی کا رفیق، اجنبیت کا ساتھی، خلوت کا نگرماں، رشد کا راہ بر، شدت میں مددگار اور موت کے بعد کا ذخیرہ ہے۔
- ☆ کسی کا کپڑا پھٹا، جو تے ٹوٹے لیکن دل خشوع والا ہو آنکھ روتی ہو اور نفس سیر ہو جاتا ہو تو اسے کوئی نقصان نہیں۔
- ☆ رنج و غم اور فکروں کا سبب اللہ سے اعراض اور دنیا کی لالک ہے۔ جسے عمر قید ہو جائے وہ نہ زندوں میں نہ مردوں میں۔
- ☆ اچھا مال اس اچھلتے نوارہ کی مانند ہے جو نشیب میں ہو، وہ ایسی آنکھ ہے جو تمہارے سونے کے

- ☆ وقت بیدار رہے، تمہارے غائبانہ میں حاضر ہو اور تمہارے موت کے بعد بھی فائدہ پہنچائے۔
- ☆ خاموشی سے اپنا حصہ لو، جو خاموش رہتا ہے اُس کا رعب ہوتا ہے اور سکون سے سنتا ہے اس سے پیار کیا جاتا ہے، اور زیادہ بولنے سے مصیبت ہی آتی ہے۔
- ☆ زندگی آخرت کے لئے زاوِراہ لینا، معاش کی تدبیر کرنا، حلال میں لذت لینا، عقل کو آراستہ کرنا اور ضمیر کو روشن کرنا ہے۔
- ☆ عزت تمہیں حاسد دشمن، بد اخلاق، متکبر، غیبت کرنے والے اور خود پسند سے محفوظ رکھتی ہے اور فائدہ کے لحاظ سے یہ کافی ہے۔
- ☆ ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ لیکن فکریں ساتھ ہوں تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ایک شعور سے دوسرے شعور کی طرف جاؤ تا کہ مسرت ملے۔
- ☆ جب دل خوبصورت ہو تو وہ فجر کو چشمہ، رات کو دوست اور چھوٹی بڑے کو بھی محل سمجھے گا۔
- ☆ اللہ کی اپنے بندوں پر رحمت ہے کہ جو اطاعت گزار ہوتا ہے غنا اس کے دل میں ڈال دیتا ہے لہذا اس کے پاس چند لقمے بھی ہوں تو وہ اپنے کو بادشاہ سمجھتا ہے۔
- ☆ دنیا عافیت، شباب، صحت، مروّت، صبر، کرم، تقویٰ، حسب اور مال کا نام ہے۔
- ☆ سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جو دوسرے جیسا بننا چاہے، قضا پر راضی نہ ہو اپنی روزی سے تنگ ہو اور اس کے اخلاق برے ہو جائیں۔
- ☆ جو مسجد سے چٹ جائے گا وہ آیت محکمہ، سچے دوست، بہتر علم، نعمت، اچھی بات اور توبہ الصّوح کے فوائد حاصل کرے گا۔
- ☆ روزہ دار کا کھانا طیب اور قیام اللیل پاکیزہ ہوتا ہے، سخاوت کرنے والے کے مداح بہت ہوتے ہیں اسی طرح سردار کے حاسد بھی بہت ہوتے ہیں۔
- ☆ حقیقی سعادت یہ ہے کہ آپ جسم، عقل، وجدان اور خیال ہر چیز میں آزادی کی زندگی گزاریں تاکہ صرف اللہ وحدہ کے بندے بنیں۔
- ☆ سعادت مند وہ ہے جو اس چیز کو بھول جائے جس کی اصلاح نہ ہو سکتی ہو۔ لوگوں کے احسان کو

غم نہ کریں

نہ بھولے لیکن ان کی برائی کو بھول جائے۔

☆ تمہاری روزی تمہیں زیادہ جانتی ہے تم سے زیادہ نہیں جانتے۔ وہ سایہ کی طرح ادھر ادھر تمہارے ساتھ ساتھ دوڑتی ہے، تم ہرگز نہیں مرو گے جب تک قسمت میں لکھی روزی نہ پالو۔

☆ محروم وہ ہے جسے کمینہ کے آگے جھکنا پڑے، فقیر وہ ہے جو ہاتھ پھیلاتا پھرے اور اندھا وہ ہے جو اپنے عیبوں کو نہ دیکھے۔

☆ جسے اپنی پسند مل جائے اسے ناپسندیدہ کی توقع بھی رکھنی چاہئے۔ سوائے عبادت الہی کہ اس کی انتہا تو اللہ کی خوشنودی اور جنت میں داخلہ ہے۔

☆ لوگوں میں نعمتوں کا زیادہ حقدار وہ ہے جو زیادہ شکر گزار ہو، زیادہ محبت کا حق دار وہ ہے جو سخاوت کرتا ہو، لوگوں کو تکلیف نہ دیتا ہو، اور جس کا چہرہ کھلا رہتا ہو۔

☆ مسرت امن کی محتاج ہے، مال صدقہ کا محتاج ہے، منصب سفارش چاہتا ہے، سرداری تواضع کا مطالبہ کرتی ہے۔

☆ راحت تھکان سے، سکون محنت و مشقت سے اور محبوبیت ادب سے ملتی ہے۔

☆ اولاد ثروت سے زیادہ اہم، اخلاق منصب سے زیادہ اونچا، ہمت تجربہ سے بڑی اور تقویٰ بڑائی سے اہم ہے۔

☆ ہر چیز جو سنو اس کا لالچ نہ کرو، ہر ایک کی طرف نہ جھک جاؤ کسی عورت کو اپنا راز نہ دو، ہر آرزو کے پیچھے نہ دوڑو،

☆ راحت خلوت میں ہے امن اطاعت میں اور محبت وفا میں۔ ثقہ وہی سمجھا جاتا ہے جو سچا ہو۔

☆ بسا اوقات ایک کھانا بہت سے کھانوں سے روک دیتا ہے، ایک لفظ سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں ایک برائی سے اچھائیاں رُک جاتی ہیں ایک نظر حسرتیں پیدا کر دیتی ہے۔

☆ تمہاری محبت کلفت میں، بغض زیادتی میں، زندگی تعیش میں اور یاد افسوس میں نہ بدل جائے۔

☆ ہر آدمی اپنے گھر میں امیر ہوتا ہے۔ کوئی اُس کی توہین نہیں کر سکتا، کوئی انسان اسے روک نہیں

- ☆ سب سے اچھے ایام وہ ہیں جو تمہاری بردباری اور تمہارے علم میں اضافہ کریں، تمہیں کسی گناہ سے روکیں، تمہیں سمجھ دیں اور حوصلہ دیں۔
- ☆ زندگی ایسی فرصت ہے جسے کھونے کے بعد ہی ہم پہچان پاتے ہیں، عافیت صحت مندوں کے سر پر ایک تاج ہے جسے مریض ہی دیکھ سکتے ہیں۔
- ☆ جس کا بیٹا نافرمان، بیوی جھگڑالو، پڑوسی موذی، دوست بدخلق، نفس امارہ ہو اور جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہو وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے۔
- ☆ تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا حق ہے، تمہاری آنکھوں کا حق ہے تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے مہمان کا حق ہے لہذا ہر حق دار کو اس کا حق دو۔
- ☆ طلوع صبح کے وقت کے جمال، جلال اور اشراق سے لطف اندوز ہوا کرو اس سے امید اور فال نیک کا دروازہ وا ہوگا۔
- ☆ صبح سویرے اٹھا کرو اس سے برکت ہوگی، اس میں اپنا کام کرو، ذکر، تلاوت حفظ، مطالعہ تصنیف اور سفر وغیرہ کرو۔
- ☆ معتدل بنو ایک کنارے چلا کرو اللہ کو خوش کرو مخلوق پر رحم کرو فرض ادا کرو نفل کا زاد راہ لو بھلائی ملے گی۔
- ☆ توفیق الہی حسن خاتمہ، قول کی مضبوطی، نیک عملی، ظلم اور رشیت کو کاٹنے سے بچنے کا نام ہے۔
- ☆ بسا اوقات ایک ہی لفظ سے نعمت چھن جاتی ہے ایک ہی لغزش ذلت لادیتی ہے، خلوت میٹھی ہوتی ہے، عزت والاعزت پاتا ہے۔
- ☆ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں اہل ایمان وہ ہے کہ اس سے لوگ اپنے جان و مال کے لئے مامون رہیں، مہاجر صحیح معنی میں وہ ہے جو اللہ کے منہیات کو چھوڑ دے۔
- ☆ تمہارا بہتر مال وہ ہے جو تم کو نفع پہنچائے۔ اور اچھا علم وہ ہے جو تمہارا مقام بلند کرے، بہترین

غم نہ کریں

- ☆ مکان وہ ہے جو تمہارے لئے وسیع ہو، اچھا دوست وہ ہے جو تم کو نصیحت کرے۔
- ☆ تم سے کوئی حسد نہ کرے اس کے معنی یہ ہے کہ تم میں خیر نہیں تمہارا کوئی دوست نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اخلاق اچھے نہیں۔
- ☆ اپنی نیکیاں یاد کر کے خوش رہو، گناہوں سے توبہ کر کے دل کو راحت دو، گردنوں کو اپنے احسانات کا اسیر بنا لو۔
- ☆ موٹا پا غفلت ہے، توند سے ذہن چلا جاتا ہے، زیادہ نیندنا کامی کی علامت ہے، کثرت سے ہنسنا دل کو مار دیتا ہے اور وسوسہ عذاب ہے۔
- ☆ امارت دودھ چھڑانے کے وقت دودھ کی مٹھاس ہے، منصب کی خوشی عزل کے غم میں بدل جاتی ہے۔ کرسی چکر دار ہے۔
- ☆ دنیا کے لذائذ میں محبوب کے ساتھ سفر، مبعوض سے دوری، موذی سے حفاظت اور کامیابی کی یاد ہے۔
- ☆ نیکی سے آدمی غلام بن جاتا ہے، احسان سے انسان بندہ بے دام ہو جاتا ہے، بردباری سے دشمن مغلوب ہو جاتا ہے اور صبر شعلوں کو بجھا دیتا ہے۔
- ☆ جب تمہاری ذلت نہ ہو تو دنیا بہت عزیز لگتی ہے۔ جب دنیا سے بے نیازی برتو تو بہت سستی لگتی ہے۔
- ☆ تمہیں کل کی روزی کی فکر ہے لیکن کل آ ہی جائے گا اس کی ضمانت کیا ہے۔ گزشتہ کل جو گزرا اُس سے رنج کیوں ہے۔ اب وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔
- ☆ تھوڑی توفیق مال کثیر سے بہتر ہے، عزت سے معزول ہو جانا ذلت کے عہدہ سے اچھا ہے گناہی میں طاعت گزاری اس شدت سے بہتر ہے جو شہرت میں ہو۔
- ☆ قناعت گزار بادشاہ ہے، اسراف کرنے والا اندھا ہے، غضبناک جنون کا شکار ہے، جلد باز نقصان کر بیٹھتا ہے اور حاسد ظلم کرتا ہے۔
- ☆ ذکر سے رحمان راضی ہوتا ہے، انسان سعادت مند اور شیطان خوار، غم دور ہوتے اور نیکیوں کا

پلڑا بھاری ہوتا ہے۔

☆ سعادت مند وہ ہے جس کی عمر بھی طویل ہو عمل بھی اچھا ہو۔ توفیق ملتی ہے اسے جس کا مال زیادہ ہو تو نیکی بھی زیادہ ہو۔ مہاک ہے وہ جس کا علم بھی زیادہ ہو تقویٰ بھی۔

☆ جو لوگوں کے مسائل پر توجہ دے گا وہ اپنی فکریں بھول جائے گا، جو اپنے مالک کی اطاعت کرے گا اس کا بدلہ یہ ہے کہ لوگ اُس کی خدمت کریں۔ جو ترک دنیا کرے گا اس کا انعام یہ ہے کہ اسے خوشگوار روزی ملے۔

☆ عافیت کے ساتھ جو نعمت ملے اسے کم نہ سمجھو۔ آدمی توبہ نہ کرے تو تھوڑے گناہ کو بڑا سمجھنا چاہئے۔ اخلاص نہ ہو تو طاعت کو زیادہ کیسے سمجھا جائے۔

☆ دنیا پر خوش ہونا بچکانی بات ہے، اپنی تعریف پر خوش ہونا عام لوگوں کا کام ہے۔ اللہ کی خوشنودی پر اولیاء و صالحین خوش ہوتے ہیں۔

☆ صدق طمانیت ہے، جھوٹ شک ہے، حیاء حفاظت کا ذریعہ ہے، علم حجت ہے، بیان جمال ہے اور خموشی حکمت ہے۔

☆ کامیابی کی حلاوت صبر کے کھٹے پن کو مٹا دیتی ہے، فتح یابی کی لذت مشقتوں کی ٹکان کو دور کر دیتی ہے، کام بحسن و خوبی کرنے سے اس کی مشقت کا ازالہ ہو جاتا ہے۔

☆ دنیا کی سب سے بہتر چیز اللہ کی محبت ہے، جنت کی سب سے بہتر نعمت اللہ کی رویت ہے، سب سے نفع بخش کتاب اللہ کی کتاب ہے۔

☆ مخلوق میں سب سے زیادہ نیک اور صالح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

☆ خوش نصیب وہ ہے جو ماضی سے عبرت لے، اپنے آپ کو دیکھے، قبر کی تیاری کرے اور اپنے خفیہ و علانیہ کاموں میں اللہ کا خوف کرے۔

☆ حرص ذلت ہے، لالچ میں رسوائی ہے، بخل خسرت کی بات ہے، خوف سے ناکامی ہوتی ہے، غفلت حجاب ہے۔

☆ اللہ سے حفاظت کی فریاد کرو وہ حفاظت کرے گا، اُسے یاد رکھو اسے اپنے سامنے پاؤ گے اللہ کو

غم نہ کریں

فرانخی میں یاد کرو وہ شدت میں یاد رکھے گا۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، مدد لینی ہے تو اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔

☆ فرانخی کے دنوں میں مصیبت کے دنوں کا سامان کر لو، مال کو صدقہ دے کر تحفظ کا ذریعہ بناؤ، اپنی عمر کو اطاعت ربی میں صرف کرو۔

☆ بہت سی لذتیں حسرت کا، بہت سی لغزشیں ذلت کا، بہت سی معصیتیں نعمتوں کے چھن جانے کا اور بہت سے قہقہے رونے کا سبب بن جاتے ہیں۔

☆ نعمتوں کا شکر یہ ادا کیا جائے گا تو آنکھ ٹھنڈی ہوگی، کفران نعمت کیا جائے گا تو بھاگ جائیں گی، دنیا خوش ہوگی تو جلدی سے گزر جائے گی، احسان کرے گی تو دھوکہ دے گی۔

☆ سلامتی دو غنیموں میں ہے، صحت جسم قلت طعام میں، صحت روح قلت گناہ میں ہے اور وقت کی صحت یہ ہے کہ ناراضگی سے دور رہو۔

☆ تکلیف کی ایک گھڑی دن کے برابر، لذت کا ایک دن لمحہ کے برابر ہے، مسرت کی رات بہت تھوڑی، فکر کا دن بہت طویل ہوتا ہے۔

☆ محتاجگی سے تمہیں نعمت کی یاد آتی ہے، بھوک سے کھانا اچھا لگتا ہے، قید سے آزادی کی قیمت سمجھ میں آتی ہے اور بیماری سے صحت کی قیمت۔

☆ تین ڈاکٹروں کو لازم پکڑ لو، خوشی، راحت اور حمیت، تین دشمنوں سے بچو، نحوست، وہم اور قنوطیت۔

☆ خوش بنتی یہ ہے کہ روح درجہ کمال تک پہنچے، کامیابی یہ ہے کہ اپنے اعمال کا ثمرہ مل جائے قسمت یہ ہے کہ دنیا سارے اقبال سے آدمی کی طرف متوجہ ہو۔

☆ سحر کے وقت بیٹھو، اپنے ہاتھ پھیلاؤ، آنکھوں کو چھوڑ دو اور کہو، رب جلیل تھوڑی سی پونجی لے کر حاضر ہوں پوری تول دے دے۔

☆ الم، بیماری اور بڑھاپے سے حفاظت بھی نعمتوں میں سے ہے۔ جب تک پیاس نہ لگے پانی نہ پیو بھوک نہ لگے تو کھاؤ نہیں، تھک نہ جاؤ سوؤ نہیں۔

- ☆ جو صبر سے کام لے گا آرزو پالے گا، جو خیر کے لئے تکلیف اٹھائے گا تو کامیابی سے سرخ رو ہوگا۔ جلدی ناکامی کا سبب اور آرزوئیں افلاس کی وجہ ہیں۔
- ☆ اللہ نے جو بھی کیا ہے اُس پر راضی رہو اور جس حال میں اس نے تمہیں رکھا ہے اس کے زوال کی تمنا نہ کرو۔ کیونکہ اللہ تمہیں تم سے بہتر چاہتا ہے اور تمہاری ماں سے بھی زیادہ تم پر مہربان ہے۔
- ☆ اللہ کا ہر فیصلہ خیر ہے، حتیٰ کہ معصیت بھی خیر ہے اگر اُس کے ساتھ ندامت، توبہ، انکسار، اور استغفار بھی ہو، اور تکبر اور خود پسندی نہ پائی جائے۔
- ☆ ہمیشہ استغفار کرو کیونکہ رات میں اور دن میں اللہ کی رحمت کے جھونکے چلتے ہیں ممکن ہے ان میں سے کوئی جھونکا تمہیں بھی پہنچ جائے اور قیامت کے دن تمہاری بگڑی بن جائے۔
- ☆ خوشخبری ہو اس کے لئے جس پر انعام ہو تو شکر کرے، بتلائے مصیبت ہو تو صبر کرے، گناہ کرے تو استغفار کرے، غصہ آئے تو بردباری برتے اور جب فیصلہ کرے تو عدل کرے۔
- ☆ قرأت کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ زبان کھل جاتی ہے، عقل کی نمو ہوتی، دل صاف ہوتا، فکر دور ہوتی، تجربات سے استفادہ اور فضائل کا اکتساب ہوتا ہے۔
- ☆ اخلاص سے ”یا ذوالجلال والاکرام“ اور ”یا حی یا قیوم برحمتک استغیث“ کا ورد رکھو سکون، فراخی اور خوشی حاصل ہوگی۔
- ☆ کوئی تمہیں اذیت دے تو تقدیر کو یاد کرو، درگزر کو ترجیح دو، بردباری اپناؤ۔ یہ یاد کرو کہ صبر کا ثواب ملے گا اور یہ کہ وہ ظالم ہے تم مظلوم ہو اور مظلوم کی دعاسنی جاتی ہے لہذا تم اس سے زیادہ خوش قسمت ہوئے۔
- ☆ جو تقدیر میں لکھا ہے ہو کر رہے گا، موت کا آنا لازمی ہے، روزی لکھی ہوئی ہے لہذا حزن و ملال کیوں، مرض ہو یا فقر یا مصیبت سب کا اجر ملے گا تو پھر فکر کی کیا بات؟
- ☆ دنیا میں ہی ایک جنت ہے جو اسے نہ پائے تو وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہ ہوگا وہ جنت اللہ سبحانہ کا ذکر، اس کی اطاعت اُس کی محبت، اس سے انس اور اس کے شوق کا نام ہے۔

- ☆ غم نہ کریں
- ☆ جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں اس کی منہیات سے اجتناب کرتے ہیں ان سے اللہ راضی وہ اللہ سے راضی، کیونکہ اس نے ان کی امیدیں پوری کر دیں ان کے خوف کو دور کر دیا۔
- ☆ جس کا رب بگڑی بناتا، مغفرت کرتا، عیب کی پردہ پوشی کرتا، روزی دیتا، دیکھتا اور سنتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں معاملات ہیں وہ کیسے غمگین ہو سکتا ہے۔
- ☆ رحمت وسیع ہے، اس کا دروازہ کھلا ہے، درگزر عام ہے، اللہ کی عطا صبح و شام جاری ہے، توبہ مقبول ہے اور اس کا علم بڑا ہے۔
- ☆ غمگین نہ ہوں کیونکہ تقدیر اٹل ہے، جو لکھا گیا وہ ہونا ہے، قلم سوکھ چکا ہے صحیفے لپیٹے جا چکے، اجر ملے گا، گناہ معاف ہوں گے۔
- ☆ حسن عمل اختیار کرو؛ امید کم کرو؛ موت کا انتظار ہو، آج کا دن گزارو؛ اپنے کام سے کام رکھو، زمانہ کو جانو؛ زبان کی حفاظت کرو۔
- ☆ کتاب سے زیادہ کوئی فائدہ مند نہیں، قبر سے بڑا واعظ نہیں، معصیت سے زیادہ اکتا دینے والا نہیں، زہد سے زیادہ شرف والی کوئی چیز نہیں قناعت سے بڑھ کر ثروت نہیں۔
- ☆ جتنا تمہارا حوصلہ، صبر و ہمت ہوگی ویسے تاریخ بنے گی، بڑا تہہ یونہی نہیں مل جاتا، استحقاق پر ملتا ہے؛ قربانی سے حاصل کیا جاتا ہے۔
- ☆ معاملہ کو آسان سمجھو گے تو آسان ہوگا، بس آخرت کی فکر کرو۔ اللہ کی ملاقات کی تیاری کرو، ہر فضول چیز کو چھوڑ دو۔
- ☆ فضول مباحات پریشان کن ہیں جیسے فضول کلام، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ میل جول اور زیادہ ہنسنا، یہ سب غم کا سبب ہیں۔
- ☆ ”تا کہ تم گزرے ہوئے پر افسوس نہ کرو۔“ لہذا حسرت و ندامت میں مت ڈوبو، رورو کر بری حالت نہ بناؤ، چیخو پکارو نہیں۔
- ☆ ”تمہیں اللہ اور تمہارے اہل ایمان ساتھی کافی ہیں“ اللہ تمہارے رہنمائی کرے گا، تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں بچائے گا لہذا خوف نہ کرو۔

- ☆ ”بلاشبہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، دشمنوں کو ان سے دور کرتا ہے، بلاؤں سے بچاتا ہے، بیماری سے شفا دیتا ہے، تنگی بد حالی میں ان کی حفاظت کرتا ہے۔“
- ☆ ”حزن نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری سنتا ہے۔ دشمن پر ہماری مدد کرتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے، غمناک چیزیں دور کرتا ہے۔
- ☆ ”کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا۔“ کیا ہم نے تمہارے سینہ کو وسیع، کشادہ، خوش، مسرور، پرسکون، آباد و مطمئن نہیں کر دیا؟
- ☆ ”ان کی چالوں سے تم حرج میں نہ پڑو۔“ ہم ان کا مکر روک لیں گے ان کی تکلیف تم سے روک دیں گے اس لئے تنگدل نہ ہو۔
- ☆ ”نہ کمزور پڑو نہ غمگین ہو،“ کیونکہ شریعت و عقیدہ میں تم بلند ہو، منج اور طریقہ میں بلند ہو۔ بنیاد اور اصول اور اخلاق و سلوک ہر چیز میں بلند ہو۔
- ☆ ”آپ کا رب بڑی مغفرت والا ہے،“ گنہگار کو معاف کرتا ہے، غلطی کو درگزر کرتا ہے، بغرض کو مٹاتا ہے، برائی کو ڈھانپتا اور توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔
- ☆ ”اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو،“ کہ اس کی کشادگی قریب ہے۔ اس کا لطف جلد ہی آئے گا، اس کی آسانی ملنے والی ہے، اس کا کرم وسیع اور فضل عام ہے۔
- ☆ ”وہ ارحم الراحمین ہے“ شفا دیتا ہے، معافی دیتا ہے، منتخب کرتا ہے۔ حفاظت کرتا، پردہ پوشی کرتا، مغفرت فرماتا اور حلیم و کریم ہے۔
- ☆ ”اللہ بہترین محافظ ہے“ غائب کی حفاظت کرتا، بے وطن کو وطن واپس کرتا، گم کردہ راہ کو ہدایت دیتا، بتلائے مصیبت کو عافیت دیتا، مریض کو شفا دیتا، اور تکلیف دور فرماتا ہے۔
- ☆ ”اللہ ہی پر توکل کرو“ معاملات اس کے حوالہ کر دو، اپنا حال اُسی سے بیان کرو، اُس کی کفایت اور اُس کی رعایت پر مطمئن ہو جاؤ۔
- ☆ ”قریب ہے کہ اللہ فتح لائے“ تو بندتا لے کھول دے، بھاری بوجھ ہٹا دے، لمبی افسردہ راتیں ختم کر دے، شرح صدر کر دے، حالات کی اصلاح کر دے۔

غم نہ کریں

☆ ”تم نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کے بعد کوئی راہ نکالے“ تو غم ختم ہو جائے، فکر مٹ جائے، حزن کا ازالہ ہو جائے، معاملہ آسان کر دے، دور کو نزدیک کر دے۔

☆ ”ہر روز اس کی نئی شان ہوتی ہے“ وہ تکلیف دور کرتا، گناہ کی مغفرت کرتا، روزی دیتا، مریض کو شفا دیتا، مبتلا کو معافی دیتا ہے، قیدی کو چھڑاتا اور ٹوٹے کو جوڑتا ہے۔

☆ ”پس عمر کے ساتھ یسر ہے“ فقر کے ساتھ غنا ہے، مرض کے بعد عافیت ہے، حزن کے بعد سرور ہے، تنگی کے بعد آزادی ہے، بھوک کے بعد شکم سیری ہے۔

☆ ”اللہ عمر کے بعد یسر لاتا ہے“ بیٹری کھل جائے گی، رسی ٹوٹ جائے گی، دروازہ کھلے گا، بارش برسے گی، غائب آجائے گا اور حالات درست ہو جائیں گے۔

☆ ”پس صبر جمیل ہے“ کہ حالات تبدیل ہوں گے نفس کو سکون ملے گا، شرح صدر حاصل ہوگا، معاملہ آسان ہوگا گرہیں کھلیں گی، بحر ان ختم ہو جائے گا۔

☆ ”اس زندہ پر توکل کرو جو کبھی مرتا نہیں۔“ تاکہ تمہارا حال درست ہو، دل خوش ہو، مال کی حفاظت ہو، عیال کی خیر گیری ہو، انجام اچھا اور امیدیں برآئیں۔

☆ ”ہمیں اللہ کافی ہے وہ بڑا اچھا کارساز ہے“ ہماری تکلیفیں دور کرتا ہے، مصیبتیں ختم کرتا، گناہ معاف کرتا، دلوں کی اصلاح کرتا اور عیوب کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔

☆ ”ہم نے تمہیں فتح میں عطا کی ہے“ تمہیں ہدایت دی، منتخب کیا، تمہاری حفاظت کی غلبہ عطا کیا، مدد کی، اکرام کیا اور ہر آزمائش میں سرخ رو کیا۔

☆ ”اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا“ لہذا کوئی دشمن نقصان نہ پہنچائے گا، کوئی سرکش تم تک نہ پہنچے گا، کوئی حاسد تم پر غالب نہ ہوگا، کوئی دشمن مسلط نہ ہوگا اور کوئی جاہل تم پر ظلم نہ کر سکے گا۔

☆ ”اللہ کا فضل تم پر عظیم تھا“ اس نے پیدا کیا، روزی دی، سکھایا، سمجھ دی، ہدایت دی، راستہ دکھایا، ادب دیا، حفاظت کی، سرپرستی کی، اور تمہاری خیر گیری کی۔

☆ ”جو بھی نعمت ہے وہ اللہ سے ملتی ہے، شکل و صورت، روزی، سمع و بصر، ہدایت و عافیت، پانی، ہوا، غذا، دوا، مکان اور کپڑا سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔

- ☆ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو تمہیں مدد، کفایت، رشد و ہدایت، لطف و کشادگی اور مدد و تائید ملے گی۔
- ☆ ہم نے اللہ پر توکل کیا ہے، اس کے دین پر ایمان لائے، اس کے رسول کی اتباع کی، اس کی بات سنی، اس کی دعوت قبول کی، لہذا وہ ہمارے ساتھ ہے، غم کی ضرورت نہیں۔
- ☆ اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا جو اس کی مدد کرتے ہیں، لہذا اس کا مرتبہ بلند کرے گا، اس کی شان بڑھائے گا، اس کا نگرنا ہوگا، اس کے دشمن کو چھوڑ دے گا، اس کے حریف کو شکست دے گا، اس کے خلاف سازش کو ناکام بنا دے گا۔
- ☆ ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کوئی طاقت، کوئی قوت و تائید، مدد اور کشادگی، حمایت اللہ کے سوا نہیں ہے۔ مدد اور طاقت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
- ☆ ”کیا ہم نے اسے دوا نکھیں نہیں دیں“ جن سے کتاب کائنات کو پڑھے، دفتر جمال کو دیکھے، حسین و دل فریب مناظر کا مشاہدہ کرے اور اپنی نگاہوں کو زندگی کی رنگینیوں سے لطف اندوز کرے۔
- ☆ ”ایک زبان اور دو ہونٹ دیئے“ انسان فصاحت سے بولتا ہے، میٹھی باتیں کرتا ہے ساحرانہ لہجہ میں گفتگو کرتا ہے اپنے دل اور مافی الضمیر کی ادائیگی کرتا ہے۔
- ☆ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تمہارا علم بڑھے گا، فہم بڑھے گا، تمہاری روزی میں برکت ہوگی، تمہاری مدد ہوگی اور خیر بڑھے گا۔
- ☆ ”اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے“ عام و خاص، دین و دنیا، اہل و عیال، مال، صلاحیتیں، اعضاء، جوارح اور روح سب نعمتیں دی ہیں۔
- ☆ ”میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں“ میں اپنی شکایت اس سے کرتا ہوں اپنا حال اس سے کہتا ہوں، اس سے حسن ظن رکھتا ہوں، اس پر توکل ہے، اُس کے حکم پر راضی ہوں اس کو اپنے لئے کافی سمجھتا ہوں۔
- ☆ ”اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے“ جب وہ محتاج ہوتے ہیں تو روزی دیتا ہے، قحط میں ان کی مدد کرتا ہے، استغفار کرتے ہیں تو مغفرت کرتا ہے، بیمار ہوتے ہیں تو شفا دیتا ہے، مبتلائے

مصیبت ہوتے ہیں تو عافیت دیتا ہے۔

☆ ”اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو“ اس کا دروازہ بند نہیں، اس پر پردہ نہیں پڑا، اس کے خزانے ختم نہیں ہوئے۔ اس کا فضل ختم نہیں ہوا، اس کی رسی کٹی نہیں۔

☆ ”کیا اللہ اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں“ وہ اس کے غم اور الم میں کافی ہے، اس کو حملہ آور سے بچاتا ہے، مکار کے مکر سے محفوظ رکھتا ہے، جو اس کے خلاف سازش کرتا ہے اس سے حفاظت کرتا ہے۔

☆ ”اللہ کے ہاں روزی تلاش کرو“ خزانے اسی کے پاس ہیں، خیر اُسی کے ہاتھ میں ہے، وہی سخی و اتا، الفتاح اور العلیم ہے۔

☆ ”جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے“ اس کی تکلیف دور کرتا، گناہ معاف کرتا، غصہ ختم کرتا، راستہ روشن کرتا اور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔

☆ ”اللہ نے جو نعمت تم پر کی ہے اُسے یاد کرو“ تم مردہ تھے زندہ کر دیا، بے راہ تھے ہدایت دی، فقیر تھے غنی کر دیا، جاہل تھے علم دیا، کمزور تھے تمہاری مدد کی۔

☆ کتنی بار تم نے مانگا اس نے دیا، کتنی بار تم لڑکھڑائے اُس نے سہارا دیا، کتنی بار عمر میں پڑے اُس نے آسانی دی، کتنی بار تم نے اسے پکارا اس نے سنا۔

☆ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے رنج و فکر دور ہوتے ہیں، زخمی دل شفا پاتے، علوم کے دروازے وا ہوتے اور مقدر کھلتے ہیں۔

☆ ”مجھے پکارو میں تمہاری فریاد سنوں گا“ اپنے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھاؤ، اپنی ضرورتیں اُسے پیش کرو، اس سے مراد مانگو، اس سے روزی چاہو، اپنی حالت اس کے سامنے رکھو۔

☆ ”کیا اس کے علاوہ کوئی اللہ ہے جو پریشان حال کی دعا سنتا ہے؟“ وہی مضطر کی تکلیف اور اذیت دور کرتا ہے، اس کی تمنا پوری کرتا اس کی مراد بر لاتا ہے۔

☆ جو اخلاق کے لحاظ سے مفلس ہیں ان کو سامان صدقہ میں سے دو، اگر وہ تمہیں سب و شتم کریں یا اذیت دیں تو اس کا عوض اللہ کے ہاں ملے گا۔

☆ جب کشتی کا کھویا ڈرتا ہے تو یا اللہ پکارتا ہے۔ مسافر بھٹک جاتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، قیدی اپنے غم میں اللہ کو یاد کرتا ہے، مریض دل تنگ ہوتا ہے تو اُس کی زبان سے یا اللہ کی فریاد نکلتی ہے۔

☆ اللہ احد، الصمد ہے، کائنات اس کی طرف متوجہ ہے، مخلوقات اسے چاہتی ہیں، ساری انسانیت مختلف زبانوں، لہجوں میں اور ساری ضرورتوں میں اسے پکارتی ہے۔

☆ ”یہ اس لئے کہ اللہ اہل ایمان کا آقا و مولیٰ ہے“ ان کا راستہ روشن کرتا ہے۔ دلیل بیان کرتا، ہدایت دیتا، ضلالت و جہالت سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔

☆ عورتوں کے ساتھ نرمی برتو، دل شکنی سے بچو اور لطف سے پیش آؤ۔ لوگوں پر رحم کرو، جذبات کا خیال کرو، غیر پر احسان کرو اور دنیا والوں سے حسن سلوک اختیار کرو۔

☆ غیظ و غضب کو چھپاؤ، لوگوں کی لغزش سے غفلت برتو، برائی سے صرف نظر کرو، غلطی کو معاف کرو، معائب ذمہ نہ کرو، لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے۔

☆ دروازہ ہو، کنجی ہو، کمرہ ہو، جس سے ہو داخل ہو اور تقویٰ و صلاح والا مطمئن دل، بس سمجھو کہ کامیابی مل گئی۔

☆ فضول کی زندگی بے کاری ہے، ضرورت سے زیادہ چیز بوجھ ہے، قدر کفاف میں گزارا کر لینا اسراف و تبذیر سے بہتر ہے۔

☆ سازش کے چکر میں نہ پڑو، دوسروں کے پیچھے نہ پڑو، یہ نہ سمجھو کہ لوگ تمہارے بارے میں سوچ رہے ہیں کیونکہ سب اپنے مسائل میں گرفتار ہیں۔

☆ ”دشمنوں کے مسئلہ میں تو اللہ خود کافی ہے“ وہ ان سے نمٹ لے گا، ان کی چال اکارت کر دے گا، ان کی فوج کو پسپا کرے گا، ان کی دھار کند کر دے گا، ان کی قوت مٹا دے گا، ان کی جمعیت منتشر کر دے گا۔

☆ ”پس اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی“ ان کی پیاس بجھا دی، ان کے سینوں کی آگ ٹھنڈی کر دی، ان کے ضمیر و روح کو پاک کر دیا اور آرام پہنچایا۔

- ☆ ”کلمہ طیبہ سچائی ہے“ کہ اس سے نفس فتح ہوتے، دل شاد کام ہوتے، زخم مندمل ہوتے، غصہ چلا جاتا اور امن و سلامتی پھیلتی ہے۔
- ☆ ”اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے“ کہ چہرہ کتاب کا عنوان، دل کا آئینہ، ضمیر کا رہنما اور ہماری پہلی پہچان ہے۔
- ☆ ”اچھے انداز میں جواب دو“ بایں طور کہ انتقام ترک کر دو، نرم بولو، تعامل میں نرمی برتو، برائی کو بھول جاؤ۔
- ☆ ”ہم نے تم پر قرآن اس لئے نہیں اتارا کہ تم تنگی میں پڑ جاؤ“ بلکہ اس لئے کہ تم خوش رہو، روح مطمئن ہو، نفس کو سکون ملے اور فلاح کی جنت اور سعادت کی فردوس میں تمہارا داخلہ ہو۔“
- ☆ ”اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی“ بلکہ یسر و سہولت ہے، مشقت کی رعایت ہے، تکلف، تنگی اور سختی سے بچایا گیا ہے۔
- ☆ ”وہ نبی ان سے دباؤ اور ان پر پڑے بوجھ ہٹا دیتا ہے۔“ تو انہیں شقاوت کے بعد سعادت، تکلیف کے بعد راحت، خوف کے بعد امن اور حزن کے بعد مسرت نصیب ہوتی ہے۔
- ☆ ”انہوں نے کہا اے رب میرا سینہ کھول دے میرا معاملہ آسان فرما“ کہ اپنے سامنے نور دکھائی دے، دل میں ہدایت کا راستہ بیٹھے، اپنے ہاتھ میں تیری رسی پکڑ لوں اور دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی پا جاؤں۔
- ☆ ہم تمہارے لئے سیدھے راستے پر جانا آسان کر دیں گے“ تم رب تعالیٰ کی عبادت و اطاعت اور مجاہدہ صدق دلی اور محبت سے کرو گے تو تمہیں اس راہ کی تلخی بھی میٹھی اور نیم بھی شہد لگے گا۔
- ☆ ”اللہ کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا“ طاقت سے زیادہ کا کوئی مکلف نہیں، صلاحیت اور جدوجہد اور قوت کے مطابق ہی تکلیف دی جاتی ہے۔
- ☆ ”اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا“ کیونکہ بسا اوقات ہمیں وہم ہوتا ہے، کبھی غفلت طاری ہو جاتی ہے، کبھی تکان اور مشقت اور بھول لہذا اے رب درگزر فرمانا۔

☆ ”یا ہم غلطی کر جائیں تب بھی معاف فرماتا“ کہ ہم معصوم نہیں، گناہ سے محفوظ نہیں، لیکن تیرے فضل اور رحمت کے طلب گار ہیں۔

☆ ”ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال“ کہ ہم کمزور بندے ہیں، مسکین انسان ہیں تو نے ہی ہمیں دعا کرنا سکھایا ہے، لہذا ہماری دعا قبول کر۔

☆ ”ہمارے رب! جس کی ہمیں طاقت نہ ہو وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال“ کہ ہم اسے اٹھانے سے عاجز رہ جائیں، بلکہ ہمارے لئے معاملات آسان فرمادے۔

☆ ”ہم سے غفوکا معاملہ کر“ کہ ہم خطا کار ہیں، کوتاہیوں اور تقصیرات کے پتلے ہیں، تو سخی داتا اور رحمان و رحیم ہے۔

☆ ”ہمارے گناہ بخش دے“ کہ صرف تو ہی گناہ بخشتا ہے، صرف تو ہی عیوب کو چھپاتا ہے خطا کرنے والے سے درگزر نہیں تو ہی کرتا ہے، گنہگار پر نظر کرم تو ہی کرتا ہے۔

☆ ”ہم پر رحم فرما“ کہ تیری رحمت سے ہمیں سعادت ملتی ہے، تیری رحمت سے امیدوں کے چراغ روشن ہیں تیری رحمت سے ہی ہمارے اعمال مقبول اور احوال درست ہوتے ہیں۔

☆ ”میں آسان حنیفیت لے کر آیا ہوں“ جس میں نہ مشقت ہے نہ تکلیف نہ غلوا اور نہ بال کی کھال نکالنا بلکہ فطرت، سنت، سہولت و اعتدال ہے۔

☆ ”ہرگز ہرگز بھی غلو کے پاس نہ جاؤ“ سنت کو لازم پکڑو، اتباع ہو بدعت نہ ہو، سہولت ہو تشدد نہ ہو، توسط ہو غلو نہ ہو اور افراط و تفریط نہ ہو۔

☆ ”میری امت وہ امت ہے جس پر رحم کیا گیا ہے“ اس کا رب اس کا محافظ ہے، اس کا رسول سید الرسل ہے، اس کا دین سب سے برتر ہے وہ قوموں میں سب سے افضل ہے اس کی شریعت سب سے خوبصورت اور اچھی ہے۔

☆ جو اللہ کو اپنا رب مانے اسلام کو دین اور محمدؐ کو نبی و رسول اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، یہ تینوں رضا مندی کے ارکان اور فلاح کے اصول ہیں۔

☆ ناراضگی سے بچیں کیونکہ رنج و فکر اور غم کا باب ہے، اس سے دل منتشر اور پریشان رہتا ہے،

غم نہ کریں

حالات خراب ہوتے ہیں، عمر ضائع ہوتی ہے۔

☆ رضامندی سے دل میں سکینت و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس میں راحت، امن و طمانیت، خوشگوار، سرور و فرح ہے۔

☆ رضا سے دل تنگی، فریب و ناراضگی، اعتراض و بیزاری، یاس و ملال اور افسردگی سے محفوظ رہتا ہے۔

☆ جو اللہ سے راضی ہوگا اس کا دل نور ایمانی، محبت و یقین، قناعت و رضا، غنا و امن، انابت اور رجوع الی اللہ سے بھر جائے گا۔

☆ اے فقیر! صبر جمیل اختیار کرو کہ تم مال کی ذمہ داریوں، ثروت کی خدمت، گن گن کر رکھنے کی مشقت، حراست مال اور اللہ کے ہاں اس کی پوچھنا چھ سے بچ گئے۔

☆ اے نابینا! تمہاری آنکھیں چلی گئیں تو کیا ہوا ان کے بدلہ جنت ملے گی، ان کے بدلہ دل میں بصیرت کا نور پیدا ہوگا۔ تم منکرات، اہول و لعب اور پریشان چیزیں دیکھنے سے بچ گئے۔

☆ اے مریض! ان شاء اللہ شفا ملے گی، تمہاری خطائیں معاف ہو گئیں، گناہوں سے تم پاک ہو گئے، دل صیقل ہو گیا، نفس میں انکساری آگئی، تمہارا تکبر ختم ہو گیا۔

☆ مفقود کے بارے میں کیوں سوچتے ہو، موجود پر شکر کیوں نہیں کرتے، موجودہ نعمت کو بھول جاتے ہو غیر موجود نعمت پر حسرت کرتے ہو، لوگوں سے حسد ہے جو تمہارے پاس ہے اس سے غفلت برتتے ہو۔

☆ ”دنیا میں مسافر کی طرح رہو“ روٹی کا ایک ٹکڑا، پانی کا ایک گھونٹ، ایک چادر چند دن اور راتیں یہی زندگی ہے، اس کے بعد قبر ہے جو مالدار ہو یا غریب سب کے لئے برابر ہی ہوتی ہے۔

☆ بادشاہ خادم کے پاس، سردار باڈی گاڑ کے پاس، مشہور شاعر گناہ فقیر کے ساتھ، مالدار غریب مسکین کے ساتھ دفن ہوں گے، لیکن عالم برزخ میں، ایمان و عمل صالح کے مطابق پھر سب کے الگ درجے ہیں، سب سے الگ سلوک ہوگا۔

- ☆ نیادن آئے تو اسے خوش آمدید کہو اس کی اچھی ضیافت کرو، اس طرح کہ فریضہ ادا ہو، واجب پر عمل کیا جائے، تجدید توبہ ہو اور خطاؤں و فکروں سے اسے میلانہ کرو کیونکہ وہ پھر لوٹ کر نہیں آئے گا۔
- ☆ ماضی کی یاد آئے تو اپنی شاندار تاریخ یاد کرو تا کہ تمہیں خوشی ہو، آج کے دن اپنی کامیابی پر نظر رکھو اس سے بھی خوشی ملے گی، کل یاد آئے تو اپنے خوبصورت خواب یاد کرو اور اچھی فال لو۔
- ☆ طول عمر، تجربات کا ڈھیر اور معلومات و معارف کا ذخیرہ ہے، ہر نئے دن سے فن زندگی کا ایک سبق لو۔ عقل مندوں کے لئے طول عمر برکت ہے۔
- ☆ تھوڑا سا خوف ہوگا، تو امن یاد آئے گا، دعا پر ابھارے گا اور آپ کو معصیت سے روکے گا، بڑے خطرات سے ڈرائے گا۔
- ☆ تھوڑا سا مرض بھی ضروری ہے کہ عافیت کی قدر معلوم ہوگی، تکبر کی جڑ کٹے گی اور غفلت کی نیند سے دل بیدار ہوگا۔
- ☆ زندگی تھوڑی سی ہے، برائی سے اسے اور کم نہ کرو دوست بھی تھوڑے ہیں انہیں ملامت سے نہ کھوؤ، دشمن بہت ہیں بد اخلاقی سے ان میں اضافہ نہ کرو۔
- ☆ صبر و استقلال میں چیونٹی کی مثال ہو کہ سو بار درخت پر چڑھتی ہے اور گرتی ہے پھر چڑھتی ہے حتیٰ کہ منزل تک پہنچ جاتی ہے، اکتاتی نہیں۔
- ☆ اور شہد کی مکھی کی مانند جو پاکیزہ چیز کھاتی اور پاکیزہ چیز ہی پیدا کرتی ہے۔ کسی پھول پر بیٹھتی ہے تو اسے نوچتی نہیں کسی کلی کو نقصان نہیں دیتی۔
- ☆ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو پھر سکینت اس دل میں کیسے داخل ہوگی جس میں شہوتوں اور شہات کے کتے جگہ بناتے ہوں۔
- ☆ جھگڑوں کی جگہوں سے اجتناب کرو وہاں دین کو سستی قیمت پر بیچ ڈالا جاتا ہے۔ مردوت کی ناقدری ہوتی ہے اور آبرو کو ذلیل لوگ پیروں تلے روند ڈالتے ہیں۔
- ☆ ”اور آگے قدم بڑھاؤ“ پیش قدمی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، زمانہ گزر رہا ہے، سورج چل رہا

غم نہ کریں

ہے، چاند محو سفر ہے، ہوا چل رہی ہے لہذا تم بھی نہ ٹھہرو، زندگی کا قافلہ رُک کر تمہارا انتظار نہیں کرے گا۔

☆ ”اور تیز چلو“ بلندی کی طرف چھلانگ لگاؤ، نصرت و کامیابی کوئی سونے کے طبق میں پیش نہیں کی جائے گی بلکہ اس کے لئے آنسو، خون، رت، جگا، تکان، بھوک اور مشقت سبھی کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔

☆ کام کرنے والے کا پسینہ بیٹھے ہوئے کی مشک سے زیادہ پاک ہے، محنت کش کی صدائیں بے کار لوگوں کے نغموں سے خوبصورت ہیں، بھوکے کی روٹی مالدار کے مرغن کھانوں سے زیادہ لذیذ ہے۔

☆ کامیاب ہونے والوں کو حاسد جو طعن و تشنیع کرتے ہیں وہ کامیابی کا اعلان ہے، وہ تمہارے تفوق کا مفت اشتہار ہے، وہ کامیابی پر توپوں کی سلامی ہے۔

☆ تفوق اور انفرادیت کا اعتراف انساب و القاب، آمدنی اور تعلیم کے معیار سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے ہمت، حوصلہ، بلند خیالی، بلند نصب العین اور صبر جمیل کی ضرورت ہوتی ہے، تجھی بڑا مقام ملتا ہے۔

☆ مشکلات سے خوف نہ کھاؤ کیونکہ ایک شیر اونٹوں کے بہت بڑے ریوڑ کے سامنے بغیر ڈرے اکیلا جاتا ہے، کاموں کی زیادتی سے تنگ نہ آؤ کہ ایک معمولی بیل کتنا سامان ڈھوتا ہے پھر بھی آہ و زاری نہیں کرتا، اپنے نشانہ سے بیزار نہ ہو کہ چیتا آگ کے اندر بھی اپنے شکار پر چھٹ پڑتا ہے۔

☆ معاملات میں خود رائی نہ برتو، مشورہ لو کہ دو کا مشورہ ایک کی رائے سے بہتر ہوتا ہے جیسے کہ رستی سے دوسری رستی ملا کر باندھی جائے تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔

☆ تم پر جو تنقید بھی کی جائے اُسے اپنے خلاف نہ سمجھو بلکہ ناقد کے مقصد سے قطع نظر تم اس سے فائدہ اٹھاؤ کیونکہ مدح سے زیادہ تم کو اصلاح کی ضرورت ہے۔

☆ جو لوگوں کو جان جائے گا اسے راحت ملے گی، اس لئے ان کی مدح پر خوش نہ ہو، ان کی مذمت

سے اکتاؤ نہیں کہ لوگ جلدی ناراض ہوتے اور جلد ہی خوش بھی ہو جاتے ہیں اصل محرک ان کی خواہش ہوتی ہے۔

☆ یہ نہ سمجھو کہ بیماریاں تم کو مقصد تک پہنچنے سے روک دیں گی کتنے فاضل ہیں جنہوں نے بلند مقام پایا حالانکہ بعض اندھے، بعض بہرے، بعض لنگڑے یا فالج زدہ تھے۔ معاملہ ہمت کا ہے جسم کا نہیں۔

☆ بہت ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو نہ دے اور وہی عطا بن جائے، تمہاری خواہش پوری نہ ہو اس میں تاخیر ہو یہی اس کا لطف اور اسکی عنایت بن جائے کیونکہ تم سے زیادہ بصیرت والا اور تم کو جاننے والا وہ ہے تم نہیں۔

☆ جب کوئی شدت لاحق ہو تو جان لو کہ وہ بارش سے پہلے کی گرمی ہے۔ پھر بادل برسے گا زندگی میں نیا پن آئے گا اور افسردگی دور ہوگی۔

☆ جو گھر میں خوش نہ رہے وہ کہیں بھی خوش نہیں رہ سکتا راحت نفس، دل کی خوشی اور تکلیف سے دوری تمہیں گھر میں ہی زیادہ ملے گی۔

☆ تعلیم و ثقافت کی بڑائی باقی رہتی ہے خاص پر معلم و مصنف کی۔ شہرت اور منصب کی بڑائی تو ایک سایہ اور خواب و خیال ہے جو جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔

☆ فکر کو آزاد چھوڑ دی جائے تو رنج و غم کو سوچے لگتی ہے، اس لئے آلام و احزان کے بجائے اسے نفع بخش چیزوں میں لگاؤ۔

☆ دل کو تکلیف دینے اور سخت کرنے والی چیز لوگوں سے زیادہ میل جول اور ان کی فضول باتیں سننا ہے زیادہ دیر تک ان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ عبادت اور علم کے ساتھ عزالت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔

☆ سب سے اچھا راستہ، مسجد کا راستہ ہے، اور سب سے محفوظ راستہ، گھر کا راستہ، سب سے اچھی خواہش اللہ کو سجدہ کرنے کی خواہش ہے۔

☆ قرآن کو اچھی آواز سے سننا، قلب حاضر کے ساتھ ذکر کرنا، حلال مال سے خرچ کرنا، فصیح

غم نہ کریں

- ☆ زبان سے وعظ کرنا، روح کی غذا اور دل آباد رکھنے کا ذریعہ ہے۔
- ☆ عمدہ اخلاق، خوش خصالی، چہرہ کی رونق آنکھوں کی سیاہی، رخسار کی تازگی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری حسن سے معنوی حسن برتر ہوتا ہے۔
- ☆ معروف کے کام برے انجام سے بچاتے ہیں، عقل کی دیوار خواہشات کی لغزشوں سے بچاتی ہے، تجربات کے کوڑے ہزار واعظوں سے اچھے ہیں۔
- ☆ ہزاروں لوگوں کو دیکھو جنہوں نے زندگیوں، ناچ گانے، لہو ولعب اور فالتو چیزوں میں ضائع کر دی ہیں، اس کے بعد تمہارے پاس جو خیر ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ بتلا کو دیکھ کر اچھا آدمی عبرت حاصل کرتا ہے۔
- ☆ کافر کو دیکھو تو نعمت اسلام پر اللہ کی حمد کرو۔ فاجر کو دیکھ کر تقویٰ پر اللہ کی حمد کرو، جاہل کو دیکھ کر علم پر اور بتلا کو دیکھ کر عافیت پر اللہ کی حمد کرو۔
- ☆ سورج تمہارے لئے بنا ہے اس کی روشنی میں نہاد ہوائیں تمہارے لئے چلتی ہیں ان سے لطف اندوز ہو، نہریں تمہارے لئے پیدا ہوئی ہیں ان کے پانی سے لذت حاصل کرو۔ پھل تمہارے لئے پیدا ہوئے ہیں انہیں خوشی سے کھاؤ اور اللہ کی تمام عطیات پر اس کی حمد کرو۔
- ☆ اندھا بے چارہ دنیا کو دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی، گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور تم دیکھتے، سنتے، چلتے اور بولتے ہو۔
- ☆ یہ نہ سمجھو کہ زندگی کسی کے لئے کامل ہوگئی ہے۔ کسی کے پاس گھر ہے، کار نہیں، کسی کے پاس بیوی ہے کام نہیں، کسی کو کھانے کی خواہش ہے تو کھانا نہیں، کسی کے پاس کھانے کی افراط ہے لیکن کھانے سے منع کر دیا گیا ہے۔
- ☆ مسجد آخرت کا بازار ہے، کتاب عمر بھر کی دوست ہے، عمل صالح قبر کا مونس ہوگا، خلق حسن شرف کا تاج ہے، کرم سب سے خوبصورت کپڑا ہے۔
- ☆ ملحدین کی کتابیں نہ پڑھو، ان میں وہ گندگی ہے جو دل کو میلا کر دیتی ہے وہ زہر ہے جو روح کو مار ڈالتا ہے وہ داغ ہے جو ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے۔ ان سب کا علاج علم وحی ہے، جس سے روح

شفاف اور بیماری ختم ہوتی ہے۔

☆ غصہ کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو کہ ندامت ہوگی، غضبناک آدمی صواب سے دور جا پڑتا ہے، وہ غور و فکر سے کام نہیں لے پاتا۔

☆ حزن سے کھوئی چیز واپس نہیں آتی خوف سے مستقبل نہیں بنتا، قلق سے کامیابی نہیں ملتی، بلکہ اچھا دل اور مطمئن قلب ہی سعادت کے بازو ہیں۔

☆ لوگوں سے اپنے احترام کا مطالبہ نہ کرو جب تک تم ان کا احترام نہ کرو، اپنی ناکامی پر ان کو دوش نہ دو اپنے آپ کو دو۔ ان سے اکرام کرانا ہو تو خود اپنا اکرام کرو۔

☆ جھوپڑے والے کو اپنے جھوپڑے پر خوش رہنا چاہئے، اُسے معلوم ہی ہوگا کہ محلات ٹوٹ جائیں گے، پرانے کپڑے پہننے والے کو اپنے کپڑوں پر قناعت کرنی چاہئے جب انہیں پتہ چلے کہ دیباہ و حریر بھی بھٹ جائیں گے۔

☆ جو نفیس کے پیچھے چلے گا تو چونکہ اس کی خواہشات کی کوئی حد نہیں وہ دھوکے باز نفسانیت پر ابھارے گا، اس لئے ایسا آدمی رنج کا شکار ہوگا۔ معاملات ضائع ہوں گے اور ذہن منتشر رہے گا۔

☆ اے وہ شخص جس نے بیٹا کھو دیا ہے، تمہیں جنت میں قصر حمد ملے گا، جس سے دنیا کا حصہ کھو جائے اُس کا حصہ عدن کے باغات میں منتظر ہے۔

☆ پرندے کو روزی گھونسلے میں نہیں مل جاتی، شیر کی خوراک کچھار میں نہیں پہنچتی، چیونٹی کا کھانا گھر میں نہیں آتا یہ سب غذا کی طلب میں نکلتے اور محنت کرتے ہیں۔ ان ہی کی طرح طلب کرو اور محنت کرو تبھی پاؤ گے۔

☆ ”وہ ہر آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھتے ہیں“ موت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، ہر مصیبت اور حادثہ سے اندیشہ ناک رہتے ہیں ہر آواز اور حرکت پر خوف کرتے ہیں کیونکہ ان کے دل خالی اور نفوس پراگندہ ہوتے ہیں۔

☆ اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرو کیونکہ وہی تمہارے بارے میں جانتا ہے۔ اگر بیمار

غم نہ کریں

- ☆ ہو جاؤ تو یہ نہ ہو کاش میں بیمار نہ ہوتا۔ غریب ہو جاؤ تو یہ نہ ہو کاش میں ثروت مند ہوتا۔
- ☆ ہو سکتا ہے کہ سفر سے تمہاری تاخیر میں خیر ہو اور بیوی سے محرومی میں برکت ہو، اور کسی نوکری کے چھن جانے میں بھی برکت ہو وہی جانتا ہے تم نہیں جانتے۔
- ☆ پتھر درخت سے زیادہ قوی ہے، لوہا پتھر سے زیادہ، آگ لوہے سے زیادہ، ہوا آگ سے زیادہ اور ایمان تیز ہوا سے بھی زیادہ قوی ہے۔
- ☆ تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ نہ بھلایا جانے والا سبق ہے۔ جو ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ حافظہ میں ثبت ہو جانے والی نص ہے۔
- ☆ کامیابی آزمائش، زخم، رکاوٹ، آفت وغیرہ کے قظروں کا نام ہے، اور ناکامی گمنامی، کسل مندی، عاجزی، ذلت و خواری کے چند قطرات ہیں۔
- ☆ جو عارضی شہرت چاہتا ہو اور اچھی تعریف کے ساتھ دائمی ذکر نہ چاہتا ہو جو علم نافع اور عمل صالح سے ہی ہو سکتا ہے تو وہ سیدھا سا بے حوصلہ آدمی ہے۔
- ☆ ”اے بلال نماز کا اعلان کرو اور ہمیں راحت پہنچاؤ“ کیونکہ سکینت کا دریا امن کی شہر اور دل پر چلنے والی ٹھنڈی و پرسکون ہوا ہے جو خوف اور حزن کی آگ بجھا دیتی ہے۔
- ☆ اگر رب کی معصیت نہیں کی، نہ کسی پر ظلم کیا ہو تو پھر سکون سے سو جاؤ تمہاری محنت کامیاب اور نصیبہ کھلا ہے۔ تمہارا کوئی دشمن نہیں۔
- ☆ مبارکباد ایسے آدمی کے لئے جو سوئے تو لوگ اسی کے دعا گو ہوں، اور بربادی ہے ان کے لئے جو سوئیں تو لوگ ان کو بدعا دیں۔ خوش خبری اس کے لئے جس سے دل پیار کریں، اور خسارہ میں ہے وہ جس پر لوگ لعنت بھیجیں۔
- ☆ اگر دنیا کی عدالت میں عدل نہ ملے تو اپنا مقدمہ آخرت کی کورٹ میں دائر کرو کہ وہاں کے گواہ فرشتے ہوں گے، دعویٰ محفوظ رہے گا اور جسٹس خود احکم الحاکمین ہوگا۔
- ☆ ”تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا“ اگر ذکر کا صرف اتنا ہی فائدہ ہوتا تب بھی کافی تھا اور اگر اس کا صرف اتنا ہی نفع ہوتا کہ رب تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا تب بھی کیا ہی نفع ہے اور کتنے

شرف کی بات ہے۔

- ☆ تمہیں خوشخبری ہو کہ پاکی ایمان کا حصہ ہے، اُس سے گناہ ختم ہوتے ہیں برائیاں دھل جاتی ہیں اور تمہاری تطہیر کرتی ہے تاکہ مولیٰ تعالیٰ سے پاک صاف ہو کر ملو۔
- ☆ تمہیں خوشخبری ہو کہ نماز ماقبل کے گناہوں کا کفارہ ہے، موجودہ کو منادیتی ہے بعد کی زندگی کی اصلاح کرتی ہے، نمازی کو قید و بند سے چھڑا دیتی ہے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
- ☆ جو آدمی یہ چاہے کہ بغیر تنقید جھیلے وہ سب کا احترام پا جائے تو وہ اکثر محروم محتاج ہی رہتا ہے، شہرت کے پیچھے بھاگنے والا سعادت کا دشمن ہے۔
- ☆ خوشی کے فن میں صرف اسباق و نظریات کافی نہیں بلکہ ان کے مطابق حرکت و عمل اور تصرف بھی ضروری ہے جیسے کہ روز ایک گھنٹہ پیدل چلنا، سفر کرنا، پارک جانا۔
- ☆ چھرا اکثر شیر کے پیچھے پڑتے ہیں اور اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لیکن وہ ان کو اہمیت نہیں دیتا نہ ان کی طرف توجہ کرتا کیونکہ اس کے مقاصد اور ہیں انہیں پر توجہ دیتا ہے۔
- ☆ نحوست ماننے والے سے بچو کیونکہ تم اسے گلاب کا پھول پیش کرو گے وہ اس میں کانٹا دیکھے گا، تم اسے پانی دو گے وہ اس میں سے تنکا نکالے گا تم اس سے سورج کی تعریف کرو گے وہ دھوپ کی تیزی کی شکایت کرے گا۔
- ☆ کیا تم واقعی خوش بنتی چاہتے ہو؟ اُسے دور مت ڈھونڈو وہ تمہارے اندر ہی ہے، تمہاری نئی سوچ میں، خوبصورت خیال میں، پختہ ارادہ میں اور خیر سے بھرے دل میں ہے۔
- ☆ نیک بنتی ایسا عطر ہے جسے تم اپنے ارد گرد چھڑکو گے تو اُس کے کچھ قطرات تم کو بھی ضرور ملیں گے۔
- ☆ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم غیر اللہ سے دن میں سو بار ڈرتے ہیں، تاخیر کا ڈر، غلطی کرنے کا ڈر، جلدی مچانے کا ڈر، فلاں کے غصہ اور فلاں کے شک و شبہ کا ڈر۔ سو طرح کے ڈر ہیں جو ہمارے دل میں بے ہیں۔
- ☆ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسرت زائل ہو جاتی ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر تکلیف

- ☆ دائی ہے، یعنی وہ سرور کی موت کے قائل ہیں لیکن غم کی موت کے قائل نہیں
ہم میں سے بعض اندھی مچھلی کی طرح ہیں جو چھوٹے سے برتن میں ہوتی ہے لیکن سمجھتی ہے کہ
سمندر کے اندر ہے، چنانچہ ہم پیدا ہوئے ایمان کی دنیا میں لیکن اپنے آپ کو خوف اندیشہ
عداوت اور حزن کے پہاڑوں کی کھائی میں گرا دیا۔
- ☆ زندگی کی حقیقی خوشی قیمتی ہے لیکن وہ مستحق کو ہی ملتی ہے، لہذا جو ہستی کھلیتی زندگی میں روتے ہیں
اس کی مسکراہٹوں کے بیچ دانت پیستے ہیں وہ خوشی کے مستحق کہاں۔
- ☆ ایک شکاری نے فاختہ کو بجرہ میں قید کر دیا تو وہ گانے لگی شکاری بولا کیا یہ تیرے گانے کا وقت ہے
کہ رونے کا؟ بولی ہر ساعت آزادی کی منتظر ہوں اس لئے گارہی ہوں۔
- ☆ ایک حکیم سے کہا گیا تم سلطان کے پاس کیوں نہیں جاتے وہ تمہیں سونے کی تھیلیاں دے گا؟
کہا مجھے ڈر ہے کہ جب ناراض ہوگا تو میرا سر کاٹ دے گا۔ اور انہیں تھیلیوں میں کسی میں رکھ
کر میری بیوی کو ہدیہ دے گا۔
- ☆ کتے کا بھونکنا تو سنتے ہو کہ بوتر کا نغمہ کیوں نہیں سنتے؟ رات کا کالا پن دیکھتے ہو چاند ستاروں کے
حسن پر نظر نہیں جاتی؟ شہد کی مکھی کے کانٹے کی شکایت کرتے ہو شہد کی مٹھاس بھول جاتے
ہو؟
- ☆ تمہارے باپ آدم نے گناہ سے توبہ کی تو اللہ نے انہیں منتخب کیا ہدایت دی ان کی صلب سے
انبیاء، شہداء، علماء اور اولیاء نکالے چنانچہ گناہ سے پہلے کے مقابلہ میں بعد میں زیادہ اعلیٰ
ہو گئے۔
- ☆ نوحؑ نے فریاد کی طوفان لاوے کی طرح پھوٹ رہا تھا انہوں نے یارحمان یا منان کی ندادی
لحہ بھر میں اللہ کی مدد و نصرت آئی وہ کامیاب ہو گئے، جو کفر کرنے والے تھے وہ دھوکہ اور خسارہ
میں پڑے رہے۔
- ☆ حضرت یونسؑ سمندر کے اندر تین تین اندھیروں میں تھے انہوں نے فوری طور پر رحم کی اپیل
بھیجی، جس میں کوتاہی کا اعتراف و اعتذار تھا چونکہ ان کا تار درست تھا اس لئے مدد بھی بجلی کی

طرح آگئی۔

- ☆ حضرت داؤد نے اپنی خطاؤں کو آنسوؤں سے دھویا ان کی توبہ کا کپڑا سفید ہو گیا وہ کپڑا محراب عبادت میں بنا گیا۔ بننے والا امین تھا اور سحر خیزی کے آنسوؤں سے دھویا گیا تھا۔
- ☆ جب معاملہ سخت ہو جائے، تکلیف بڑھ جائے، مایوسی ہو جائے تو کشادگی کا انتظار کرو۔
- ☆ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری تکلیف دور کر دے تو ہر مخلوق سے چھوٹی ہو یا بڑی اُمید کاٹ لو صرف اللہ سے امید رکھو اور اسی سے فریاد کرو۔
- ☆ تمہارا نفس اُس سیال کی طرح ہے جو برتنوں کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ نفس راضی و مطمئن ہے تو سعادت خیر اور جمال دیکھو گے اگر تنگ دل اور نحوست پسند ہے تو شقاوت، شر اور برائی کا سامنا ہوگا۔
- ☆ جب معبود کی اطاعت کرو موجود پر راضی رہو۔ مفقود پر صبر کرو تو مقصود کو پالو گے اور ہر مطلوب پورا ہو جائے گا۔
- ☆ جس شخص کے سینہ میں ایمان و ذکر کا باغ لگا ہے، علم و تجربات کی کیاری ہے تو وہ دنیا کے مافات پر افسوس نہ کرے گا۔
- ☆ جو اس وقت تک خوش نہ ہو جب تک گم شدہ واپس نہ آئے۔ گھر نہ بنے، مناسب نوکری نہ مل جائے، تو وہ سراب کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ وہ بیداری میں خواب دیکھتا ہے۔
- ☆ سعادت یہ ہے کہ زود حسی نہ ہو، توقعات نہ باندھی جائیں، خوف کی چیزیں اٹھا کر پھینک دی جائیں۔
- ☆ مسکراہٹ کیا ہے، سحر افسوں طراز، مودت و اخوت کا اعلان، محبت و سلامتی کا پیام، مقبول صدقہ، جس سے لگے کہ صدقہ کرنے والا راضی مطمئن اور ثابت قدم ہے۔
- ☆ اضطراب و بد نظمی اور تشویش سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے کاموں کا ایک چارٹ بنائے ترتیب و توازن اور واقفیت کے ساتھ جدول اعمال بنائے۔
- ☆ جب کوئی مصیبت و آفت آ پڑے تو وقت گزرنے کے ساتھ اس میں کمی ہوتی جائے گی کیونکہ

غم نہ کریں

جیسے انسان کی عمر ہوتی ہے ایسے ہی شدت کی بھی۔

☆ مناسب ہے کہ آپ کے مطالب دنیوی کی بھی ایک حد ہو۔ مثلاً نوکری رہنے کے لئے گھر، سواری کے لئے گاڑی، اتنا تو ٹھیک ہے، اس کے بعد طمع کا دروازہ چوٹ کھول دینا بدبختی ہے۔

☆ ”ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے“ یہ انسان کے لئے سنت ثابتہ ہے۔ اس میں تبدیلی نہیں ہوگی کہ اسے مجاہدہ محنت و مشقت میں رہنا ہے۔ لہذا واقعہ کو تسلیم کر کے زندگی کو اُس کے مطابق ڈھالنا چاہئے۔

☆ جو آدمی پورا دن مستی اور لہو و لعب میں گزار دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مزہ لے رہا ہے جب کہ وہ ضروری اور غیر ضروری چیزوں کو برابر کئے دے رہا ہے جس کی قیمت اسے مسلسل غم و فکر اور کدورت کی شکل میں ادا کرنی پڑے گی۔

☆ زندگی میں فضولیات سے نجات پالو حتیٰ کہ تمہاری جیب اور آفس میں زائد از ضرورت کاغذات بھی بار ہیں اور نقصان دہ ہیں۔

☆ صحابہ کرامؓ سب سے زیادہ سعید اس لئے تھے کہ وہ دوسروں کے دلوں کے اندر نہیں جھانکتے تھے۔ انہوں نے نفس کے دوسوں اور باریکیوں کو نہیں ٹٹولا بلکہ اصول کا اہتمام کیا اور مقاصد پر زیادہ توجہ دی۔

☆ مناسب ہے کہ تذکیر اور عبادات میں حضور قلب پر دھیان دو کہ ایسے علم میں خیر نہیں جس میں تفقہ نہ ہو۔ ایسے ہی بغیر خشوع کی نماز اور بغیر تدبر کی قرأت بھی کچھ زیادہ مفید نہیں۔

☆ ”طلیبات طیبین کے لئے ہیں“ یعنی پاکیزہ اقوال، اعمال، آداب، اخلاق اور پاکیزہ بیویاں ابرار و اخیار کو ملتی ہیں تاکہ اس ملاپ سے سعادت اور انس و محبت کا مل درجہ میں حاصل ہو جائے۔

☆ ”غصہ پی جانے والے محسن ہیں“ جو سینہ میں ہی غصہ دبا کر رہ جاتے ہیں سب و شتم، اذیت و عداوت وغیرہ کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ پر جبر کر کے انتقام کا خیال چھوڑ دیتے ہیں۔

☆ ”اور لوگوں سے درگزر کرنے والے“ جو معافی و درگزر کا اظہار کرتے، رواداری کا اعلان کر دیتے ہیں، اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں لیتے یعنی صرف اپنا غصہ ہی نہیں دباتے بلکہ بردباری اور درگزر کا رویہ اپناتے ہیں۔

☆ ”اور اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔“ جو دشمن کے ساتھ بھی احسان کرتے، مال و مرتبہ اور جو دستاویز اس کی مدد ہی کرتے ہیں، وہ ان پر ظلم کرتا ہے، یہ احسان کرتے ہیں۔ یہ بھی بلند درجہ اور اولوالعزمی کا کام ہے۔

☆ بالضرط خوش کن کام کی تحدید کریں اور اچھے حالات کی ایک فہرست بنائیں کہ کسی شخص معین سے ملاقات کے بعد کسی خاص جگہ جا کر یا کوئی متعین کام کر کے خوشی ہو؟ کوئی اچھا روٹین اختیار کر رکھا ہے تو اُسے لسٹ میں رکھئے ایک ہفتہ بعد آپ پائیں گے کہ آپ کی لسٹ خوش کن کاموں اور خیالات کی ایک واضح تصویر دے گی۔

☆ خوش کن کاموں کی فہرست بنانے کے بعد ان کو کرنے کی عادت بنائیے، اس کے خلاف امور کو چھوڑ دیجئے، یہ کام اپنے آپ میں ایک اچھا عمل ہوگا۔

☆ اپنے آپ سے خوش رہئے: یہ بہت اہم ہے کہ ایک فیصلہ کرنے کے بعد اپنے آپ اس سے خوش رہیں! اپنے تصرفات پر مطمئن ہوں اور جو عقیدہ اُس پر کی جائے اُس پر توجہ نہ دیں۔ جب تک آپ صراطِ مستقیم پر ہیں۔ کیونکہ جہاں بھی شک نے راہ پالی یا گناہ کا احساس ہو وہاں خوشی ختم ہو جاتی ہے۔

☆ نیک عمل کرو دوسروں کی خدمت کرو تنہا نہ رہو کیونکہ تنہائی رنج و فکر اور ملال کا سبب ہے جس کی وجہ سے اپنے کنبہ اور دوسرے لوگوں سے خلا ملا سے کم ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی خدمت کرو کہ افسردگی کا علاج یہ بتایا گیا ہے کہ دوسروں کی خدمت کے لئے وقت نکالا جائے۔

☆ اپنے آپ کو ہمیشہ مصروف رکھو اور شعور وارادہ کے ساتھ اپنے امکانات کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرو نئے نئے کام کرنے سے تم کو زیادہ خوشی ملے گی کہ سستی ملال بڑھاتی ہے۔

☆ نحوست اور افسردگی کو دور بھگانے کی کوشش کرو۔ کوئی پریشان کن بات پیش آئے تو کوئی

غم نہ کریں

جسمانی کام شروع کر دو نفسیاتی اور ذہنی حالت ضرور بدلے گی مثلاً ورزش شروع کر دو، دوستوں کے ساتھ پکنک پر چلے جاؤ۔ وغیرہ۔

☆ جو کام پورا نہ ہو سکا ہو اس پر مایوس نہ ہو تم کو جانتا چاہئے کہ بڑے لوگوں کے کام پورے نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے کام پورے نہ کر لیں، اپنے آپ سے مطمئن اور خوش نہیں ہو سکتے حالانکہ اپنے ذمہ کام مستعدی سے جتنا ممکن ہوا تاکرنا چاہئے اور اس پر مطمئن ہونا چاہئے اگر اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔

☆ مقابلہ اور چیلنج دینے میں مبالغہ نہ کرو، اپنے اوپر سختی نہ کرو بطور خاص جب کسی مقابلہ میں شعوری طور پر کامیابی و خوشی کا احساس نہ ہو۔

☆ کشیدگی کے سبب اپنے احساسات کو دباؤ مت اس سے خوشی مر جاتی ہے بلکہ اپنے احساسات کا اظہار مناسب انداز میں کر دو جس سے نفس پران کا دباؤ ختم ہو جائے۔

☆ دوسروں کا بوجھ اپنے اوپر نہ لو۔ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کی تکلیف کے باعث آدمی خود بھی پریشان ہو جاتا ہے حالانکہ اسے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں جواب دہ ہے۔ ”کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا“ دوسروں کے ساتھ تعاون اور مہربانی کے حدود و ترجیمات میں اپنے آپ پر توجہ پہلے ہے۔

☆ اپنے فیصلے فوراً لو، جو آدمی فیصلہ کرنے میں تاخیر کرتا ہے تو وہ اپنی خوشی کی بہت سی ساعتیں گنوا دیتا ہے بلکہ بہت سے دن اور مہینے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ابھی فیصلہ لینے سے اس سے واپسی یا اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

☆ جب کوئی کام کر دو اپنی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ کر لو اور حکمت کا وہ قول یاد کر لو کہ ”اللہ اس شخص پر رحم کرے جو اپنی قدر جانتا ہے۔“ جب آپ ۵۰ سال کے ہو جائیں اور ورزش کرنا چاہیں تو پیدل چلیں۔ تیراکی کریں یا مثلاً ٹینس کھیلیں لیکن فٹ بال نہ کھیلیں اور اپنی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ کریں۔

☆ اپنے آپ کا صحیح اندازہ کریں زندگی کی دوڑ میں یونہی کودنے کی کوشش نہ کریں اپنے

- حالات، ذمہ داریوں وغیرہ کو نظر میں رکھیں جو ایسا نہیں کرتے وہ بڑی حماقت کرتے ہیں جو اپنے کو نہیں سمجھتے وہ اپنے امکانات بھی نہیں جان سکتے۔
- ☆ اپنی عملی زندگی میں اعتدال رکھیں، کوئی ایک حصہ خالی رکھیں قدیم زمانہ میں یونانی یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ آدمی انسانیت محفوظ نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اسے خالی وقت نہ ملے۔
- ☆ خطرات سے کھیلنے کی عادت ڈالنے، زندگی سے لطف اندوز ہونے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اس کے خطرات سے نمٹنے کی تیاری کریں مثلاً غرقابی سے بچنے کے لئے تیراکی سیکھیں۔
- ☆ کوئی قفل ایسا نہیں جو کھولا نہ جاسکے، کوئی قید نہیں جسے توڑا نہ جاسکے جو دور ہے وہ قریب ہو سکتا ہے جو کم ہو گیا ہے وہ واپس آ سکتا ہے لیکن سب کا وقت متعین ہے۔
- ☆ ”صبر و صلوة کے ذریعہ استعانت طلب کرو“ یہ دونوں زندگی کی قوتیں ہیں زاد سفر ہیں باب امید ہیں کشاہدگی کی کنجی ہیں، جس نے صبر کیا، نماز کی پابندی کی تو اسے صبح صادق، فتح یومین اور قریبی مدد کی خوشخبری دے دو۔
- ☆ حضرت بلالؓ کو کوڑے لگائے گئے، مارے پیٹے گئے، انہیں زمین پر گھسیٹا گیا، بھگایا گیا، قتل ہو اللہ احد یاد تھی اس لئے احد احد پکارتے تھے جب جنت میں داخل ہوئے تو جو کچھ جھیلا تھا اسے کم سمجھا کیونکہ جتنی قیمت دی تھی سامان اُس سے کہیں زیادہ قیمتی مل گیا۔
- ☆ دنیا کیا ہے؟ ایک کپڑا اگر بہت اہتمام کرو گے تو وہ تمہاری خدمت نہیں کرے گا، المٹا خدمت لے گا، ایک بیوی اگر خوب ہو تو تمہارا دل اس کی محبت میں جلے گا یا مال زیادہ ہو تو تم اس کی نگرانی میں لگ جاؤ گے، بس یہی اس کا سرور ہے تو اس کا غم پھر کیا ہوگا؟
- ☆ تمام حاملین علم، مال اور جاہ و منصب سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان سے زیادہ خوش قسمت صاحب ایمان ہے کیونکہ اُس کی سعادت دائمی ہے اور اللہ سے ملاقات تک رہے گی۔
- ☆ خوش نصیبی میں سے یہ ہے کہ دل نفسیاتی امراض سے محفوظ رہے۔ جیسے شک، ناراضگی، اعتراض شک و شبہ اور شہوت سے۔
- ☆ لوگوں میں زیادہ عقل مند وہ ہے جو ان کے لئے عذر ڈھونڈ سکے ان کے تصرفات اور اقوال کو

غم نہ کریں

اچھا مفہوم دے سکے۔ ایسا شخص خود بھی راحت سے رہے گا دوسروں کو بھی راحت سے رکھے گا۔

☆ ”جو میں نے تمہیں دیا ہے اُسے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ“ اپنی چیز پر قناعت کرو اپنی قسمت پر راضی رہو اپنی صلاحیت کو آگے بڑھاؤ، اپنی طاقت کو نفع بخش کام میں لگاؤ، اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد کرو۔

☆ پورا دن صرف پڑھنے، تفکر، تصنیف و تالیف یا حفظ میں نہ لگاؤ، بلکہ ہر کام تھوڑا تھوڑا کرو، اپنے اعمال کو بانٹ دو اس سے روح میں نشاط رہے گا۔

☆ نمازیں اوقات کو منظم کرتی ہیں اس لئے ہر نماز کے بعد اعمال نافعہ میں کوئی ایک کام متعین کر لو۔

☆ بندہ کے لئے بھلائی اُسی میں ہے جو اللہ نے اُس کے لئے چنا ہے کیونکہ اسے اس سے بھی زیادہ جانتا ہے اور اس کی ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ اُسے بس اپنے رب کے حکم پر راضی رہنا ہے، معاملہ اسی پر چھوڑ دینا ہے۔ اللہ خالق و مالک کو اپنے معاملے میں کافی سمجھتا ہے۔

☆ بندہ اپنی کمزوری و عاجزی کے باعث ماوراء غیب نہیں جان سکتا وہ بس ظاہری چیزوں کو جانتا ہے۔ مخفی امور سب اللہ کے علم میں ہیں کتنی ہی آفتیں انعام اور بلائیں عطیہ بن جاتی ہیں اور شر میں خیر پنہاں ہوتا ہے۔

☆ بابا آدمؑ نے ممنوعہ درخت سے کھالیا اللہ کی نافرمانی کی تو زمین پر اُتار دیئے گئے۔ اس کا ظاہری پہلو یہ ہے کہ آدمؑ نے احسن و اولیٰ کو چھوڑ دیا مکروہ چیز انہیں ملی، لیکن اس کا دوسرا پہلو خیر عظیم اور بہت بڑے فضل کا ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کی، ہدایت دی ان کا انتخاب کر لیا انہیں رسول بنایا۔ ان کی صلب سے رسول و نبی اور علماء، شہداء، اولیاء و مجاہدین، عابد زاهد اور سخی پیدا کئے۔ اللہ کی عظمت کے کیا ٹھکانے اس نے ایک طرف فرمایا ”تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور خوشی سے کھاؤ پیو۔“ ایک جگہ فرمایا ”پھر ہم نے ان کا انتخاب کیا ان کی توبہ قبول کی اور راہ دکھائی۔“ پہلی حالت رہنا اور کھانا پینا ہے۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے، جن کی زندگی میں

کوئی مقصد نہیں ہوتا کوئی بڑا ہدف نہیں ہوتا۔ دوسری حالت اجتباء و اصطفاء، نبوت اور ہدایت کی ہے، جو ایک شرف، مرتبہ اور بلند مقامی کی حالت ہے۔

☆ دیکھئے کہ حضرت داؤد سے غلطی ہوگئی انہیں ندامت ہوئی اور روئے تو یہ ان کے حق میں بہت بڑی نعمت بن گئی کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو کما حقہ جان لیا تھا اور اس کے سامنے عاجزی و فروتنی برتی تھی یہی عبودیت کا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے انکساری و عاجزی عبودیت کے ضروری ارکان میں ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول: ”مومن کا معاملہ کیا خوب ہے کہ اللہ اُس کے لئے جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے۔“ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ مومن سے معصیت و گناہ کے جو کام ہو جاتے ہیں کیا اس میں وہ بھی داخل ہوں گے۔ کہا: ”ہاں!“ بشرطیکہ اس گناہ کے ساتھ ندامت، توبہ و استغفار ہو جائے، یعنی ظاہراً معصیت مومن کے لئے ناپسندیدہ ہے لیکن معنوی طور پر وہ بھی خیر ہی ہو جاتی ہے اگر شرائط پوری ہوں۔

☆ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی پیش آیا وہ ظاہر و باطن، بہر طور خیر ہی ہوا۔ مثلاً قوم نے آپ کی تکذیب کی آپ سے جنگ کی تو یہ سب بن گیا جہاد کا اللہ کی نصرت کا اور اس کے راستہ میں قربانی دینے کا۔ غزوات آپ کے لئے فتح کا ذریعہ بن گئے۔ ان میں جو مومنین شہید ہوئے وہ جنت کے مستحق ہو گئے، اگر کفار سے مقابلہ نہ ہوتا تو بڑی کامیابی اور خیر کبیر نہ ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالے گئے بظاہر یہ ناپسندیدہ بات تھی لیکن باطناً اس میں خیر و فلاح پنہاں تھی کیونکہ ہجرت کے بعد ہی آپ نے اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی، انصار دامن اسلام میں آئے اہل ایمان اہل کفر سے ممتاز ہوئے اور ایمان و ہجرت و جہاد کے باعث ہی سچے ایمان والوں اور جھوٹوں میں فرق و امتیاز ہوا۔ جب احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گونگست ہوئی تو بظاہر یہ ناپسندیدہ امر تھا لیکن اس میں اتنا خیر ظاہر ہوا کہ بیان نہیں کیا جاسکتا کہ بدر کی فتح سے بعض لوگوں میں جو خود پسندی سی پیدا ہوگئی تھی وہ ختم ہوگئی، اپنے نفس پر اعتماد پیدا ہوا۔ بہت سے مومنین کو شہادت کا شرف ملا۔ مثلاً سید الشہداء حمزہ کو اسلام کے سفیر

غم نہ کریں

مصعب بن عمیرؓ اور جابرؓ کے والد عبد اللہ بن عمرو کو جنہیں خدا نے ہم کلامی سے نوازا تھا۔ غزوہ احد میں منافقین الگ ہو گئے، ان کی رسوائی ہوئی، اللہ نے ان کے راز کھول کر رکھ دئے۔ اس پر آپؐ کے مزید احوال و مقامات کو قیاس کر لیں جن کا ظاہر ناپسندیدہ تھا لیکن باطن آپؐ کے اور مسلمانوں کے لئے خیر ثابت ہوا۔

☆ جو اس بات کو جان لے کہ اللہ نے بندہ کے لئے جو پسند کیا بہتر ہی کیا اس کے مصائب و مشکلات ختم اور دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں، اُسے اللہ کے لطف کی توقع ہوتی ہے اور وہ اللہ کے لطف و کرم پر بھروسہ کرتا ہے۔ لہذا اس کی بیزاری، تنگ دلی اور رنج و غم سب ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ سب اللہ کے حوالہ کر دیتا ہے، ناراضگی، بیزاری اور اعتراض سب چھوڑ کر صبر و شکر کا رویہ اپناتا ہے۔ حتیٰ کہ انجام بہتر ہوتا ہے اور مصائب کی بدلیاں چھٹ جاتی ہیں۔

☆ نوح علیہ السلام کو ساڑھے نو سو سال تک دعوت کے راستہ میں ایذا پہنچائی گئی لیکن آپ صبر و استقلال سے دعوت تو حید دیتے رہے اس میں خفیہ علانیہ رات دن ایک کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو نجات دی اور دشمنوں کو طوفان کے ذریعہ غارت کر دیا۔

☆ موسیٰ علیہ السلام ہیں، فرعون آپ کے خلاف سازشیں کرتا چالیس چلتا اور طرح طرح سے ایذا دیتا ہے، دیس نکالا دیتا ہے اللہ کی نصرت آتی ہے آپ کو عصا عطا ہوتا ہے جو ان کی ساری چالوں کو اکارت کر دیتا ہے۔ اس سے سمندر میں راستہ ملتا ہے جس سے موسیٰ اور بنی اسرائیل پار ہو جاتے ہیں جب کہ دشمن کو ہلاک و رسوا کر دیا جاتا ہے۔

☆ عیسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل جنگ کرتے ہیں ایذا پہنچاتے ہیں، ان کی ماں، کردار اور مشن سب کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو اٹھالیتا ہے آپ کی نصرت فرماتا ہے اور دشمن ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔

☆ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین، یہود اور نصراہیوں نے شدید تکلیفیں پہنچائیں۔ طرح طرح سے ایذا دی، تکذیب کی، مقابلہ کیا، دعوت ٹھکرائی، استہزاء و تمسخر اور سب و شتم کیا، جنون و کہانت شاعری و ساحری اور جھوٹ کس چیز کا الزام نہیں لگایا۔ وطن سے نکالا آپ

سے جنگ کی، ساتھیوں کو قتل کیا گیا، سزائیں دی گئیں، زوجہ محترمہ پر الزام لگایا گیا، حملے ہوئے بحر انوں کا سامنا ہوا، بھوک پیاس برداشت کی زخمی ہوئے، سامنے کے دانت ٹوٹے، سر میں زخم آیا، مددگاروں پرست چچا ابوطالب چھوٹ گئے، زوجہ محترمہ خدیجہ گزر گئیں، جو آپ کے لئے بڑا سہارا تھیں، شعب ابی طالب میں محصور ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے اور ساتھیوں نے درخت کے پتے کھائے، آپ کی بیٹیاں آپ کی زندگی میں انتقال کر گئیں، آپ کے سامنے صاحبزادے ابراہیم کی روح پرواز کر گئی، اُحد میں شکست ہوئی، پیارے چچا حمزہ کے ناک کان کاٹے گئے، کئی بار قتل کی کوششیں ہوئیں، بھوک کے مارے پیٹ پر پتھر باندھے۔ بسا اوقات جو کی روٹی اور ردی کھجور بھی نہ ہوتی، شدید مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ جن سے ساتھیوں کے کلیجے منہ کو آ گئے، جاہروں کے غرور، متکبرین کی سرکشی، اعرابیوں کی بے ادبی، یہودیوں کی مکاری اور منافقین کے مکر کا مقابلہ کرنا پڑا۔ لوگوں نے دیر سے دعوت قبول کی۔ پھر انجام آپ کے حق میں ہوا۔ آپ کو نصرت سے نوازا گیا، کامیابی نے قدم چومے، غلبہ دین ہوا، اللہ نے آپ کی مدد کی اور تمام گروہوں کو شکست ہوئی، تمام دشمنوں کو ذلیل و رسوا اور خوار ہونا پڑا، اللہ ہی غالب ہونے والا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔

☆ دیکھئے کہ ابوبکر شہداء جھیلنے ہیں دین کے راستے میں مشکلات برداشت کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اثر و رسوخ اور منصب کا استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے لئے ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں حتیٰ کہ صدیق کا لقب ملتا ہے۔

☆ عمرؓ بن خطاب کو محراب عبادت میں خون میں نہلا دیا جاتا ہے، جب کہ پوری زندگی جہاد، سخاوت، قربانی، زہد اور لوگوں کے بیچ اقامت عدل میں گزار دی تھی۔

☆ عثمانؓ بن عفان کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے ذبح کر دیا جاتا ہے اپنے اصولوں اور پیغام کی خاطر وہ جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔

☆ علی بن ابی طالبؓ زندگی بھر زبردست اقدامات کرتے رہے ان کو صدق، نفاکاری، نصرت اور قربانی کے مقامات بلند حاصل ہوئے اور اس کے بعد آپ کو مسجد میں دھوکہ سے شہید

کر دیا گیا۔

- ☆ حسینؑ بن علیؑ کو شہادت ملتی ہے، انہیں ظلم و جور سے مار ڈالا جاتا ہے۔
- ☆ سعید بن جبیر جیسے عالم فاضل اور عابد زاہد شخص کو حجاج قتل کر دیتا ہے اور گناہ کماتا ہے۔
- ☆ ابن الزبیرؑ کو اللہ تعالیٰ حجاج بن یوسف جیسے ظالم کے ہاتھوں حرم میں شہادت سے سرفراز کر داتا ہے۔
- ☆ امام احمد بن حنبلؑ کو حق کے سلسلہ میں قید کیا جاتا ہے، انہیں بے پناہ کوڑے لگائے جاتے ہیں، تب وہ اہل سنت والجماعت کے امام ہوتے ہیں۔
- ☆ واثق باللہ امام احمد بن نصر الخزامی کو قتل کر ڈالتا ہے جو داعی سنت تھے۔
- ☆ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اپنے گھر والوں ساتھیوں اور کتابوں سے انہیں الگ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ دنیا میں ان کا غلغلہ بلند کر دیتا ہے۔
- ☆ امام ابو حنیفہؒ کو خلیفہ ابو جعفر المنصور کوڑے لگواتا ہے۔
- ☆ عالم ربانی سعید بن المسیب کو گورنر مدینہ نے کوڑے لگوائے۔
- ☆ امام دارالہجرت مالک بن انسؒ کو بھی والی مدینہ نے کوڑے لگوائے۔
- ☆ امام عبداللہ بن عون جیسے عالم و محدث کو بلال بن ابی بردہ نے مارا۔
- ☆ جن کو تکلیف دی گئی مارا گیا کوڑے لگائے گئے قتل کیا گیا، معزول کیا گیا اگر ان سب کا شمار کرانے لگوں تو بات بڑھ جائے گی جتنا میں ذکر کر چکا ہوں وہی بہت کافی ہے۔

آخر میں پڑھنے والوں کو میرا سلام اور دعائیں پہنچیں

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا اله الا أنت استغفرك وأتوب اليك.

منتخب اشعار کا ترجمہ

- ☆ جو گزرا سو گزرا جس کی امید ہے وہ غیب میں ہے، تم تو بس اسی وقت کے مالک ہو جس میں تم ہو۔
- ☆ اللہ کی مہربانیوں کے ایام اگر چہ کتنی ہی مدت ہو جائے ایک لمحہ کے مانند ہیں۔
- ☆ کیا تم کشادگی کے آنے سے مایوس ہو گئے پھر اللہ اور تقدیر پر ایمان کہاں گیا؟
- ☆ جس چیز سے تم خوش ہو رہے ہو اس کی خوشی دائم نہیں رہ سکتی، غم سے تمہاری کھوئی چیز واپس نہ ہوگی۔
- ☆ دنیاوی چیزوں میں سب سے بہتر گھوڑے کی زین ہے اور زمانہ میں سب سے بہتر ہم نشین کتاب ہے۔
- ☆ مالدار جو اپنا دروازہ بند کر کے رکھتا ہے اور لوگ اسے بخیل سمجھتے ہیں اس کے پاس مت جاؤ اگر ایک روٹی بھی تمہارے پاس ہے۔
- ☆ میں اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا حتیٰ کہ انہوں نے مجھے غلام بنا لیا اگر میں قناعت اختیار کرتا تو آزاد ہوتا۔
- ☆ اے زمانے تیری اور آفتیں بھی ہوں جن سے شرفاء کو ستایا جاتا ہے تو انہیں بھی لے آ۔
- ☆ شاید کہ زمانہ دوریوں کی کک کے بعد ہمیں اپنے پیاروں سے ملا دے۔
- ☆ اُس سے کہو جو گردش زمانہ سے ہمیں عار دلاتا ہے کہ زمانہ سے وہی تو لڑتا ہے جو کچھ اہمیت رکھتا ہے۔
- ☆ جو چیز مجھے نہیں ملتی میں لالچ سے گردن اٹھا کر اسے نہیں دیکھتا جو چیز فوت ہو جائے اُس پر رات بھر افسوس نہیں کرتا۔
- ☆ تقدیر کو اپنا کام کرنے دو اور بالکل خالی الذہن ہو کر سوؤ۔
- ☆ پلک جھپکنے کے جتنی دیر ہی میں اللہ حالات کو تبدیل کر دیا کرتا ہے۔

غم نہ کریں

- ☆ جب آدمی مایوس ہونے لگتا ہے تبھی اچانک کشادگی پیدا ہو جاتی ہے۔
- ☆ بیماری کے بعد صحت ملتی ہے، اور معاملات میں وہی معاملے اچھے ہوتے ہیں جن کا انجام اچھا ہو۔
- ☆ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ناگوار چیزیں تمہیں گھیر لیتی ہیں اللہ ان میں خیر رکھ دیتا ہے حالانکہ تمہیں ناگوار لگتی ہیں۔
- ☆ جو محض سوچتا رہ جائے گا وہ سوچ سوچ کر مر جائے گا اور جو اقدام کر ڈالے گا اسی کو کامیابی ملے گی۔
- ☆ دوست اللہ کو بناؤ اور تمام لوگوں کو کنارے کر دو۔
- ☆ میں تو تمہاری داد و دہش سے مایوس ہو گیا ہوں، مایوسی کی مانند شریف آدمی کو دور کر دینے والی چیز کوئی نہیں۔
- ☆ یوں تو آسمان میں بے شمار ستارے ہیں لیکن گرہن صرف سورج چاند کو ہی لگتا ہے۔
- ☆ سوکھی روٹی جو عافیت سے کھا لو، ٹھنڈے صاف پانی کا پیالہ، چھوٹا سا ایک کمرہ جس میں تم آرام سے رہ لو اور قرآن پاک کا ایک نسخہ جسے ٹیک لگا کر پڑھ سکو یہ بڑے بڑے محلوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ جن کے بعد دوزخ میں جانا پڑے۔
- ☆ صابر آدمی کی ضرورت لازماً پوری ہوگی جو برابر دروازہ کھٹکھٹائے گا اُسے اندر آنے کی اجازت مل ہی جائے گی۔
- ☆ لوگ آپس میں تدبیریں کرتے، منصوبے بناتے ہیں جب کہ اللہ ہر روز ایک نئی حالت پیدا کرتا رہتا ہے۔
- ☆ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہاں تک کہ صبر کا پھل پالیتا ہوں اور امید برآتی ہے۔
- ☆ جب اللہ کسی اچھی بات کو پھیلانا چاہتا ہے۔ تو اُس کے لئے حاسدوں کی زبانیں دراز کر دیتا ہے۔
- ☆ اگر آگ نہ بھڑکتی اور اڑوس پڑوس میں نہ پھیلا کرتی تو عود کی خوشبو کیسے جانی جاتی۔

- ☆ میں اگرچہ اپنے حاسدوں کو ملامت کرتا ہوں لیکن میرا تو وجود ہی ان کے لئے سزا ہے۔
- ☆ کل جس تکلیف کے اندر میں تھا قریب ہے کہ جلد ہی اس سے خلاصی مل جائے۔
- ☆ جب دلوں پر مایوسی چھا جاتی ہے، اور کشادہ سینے بھی تنگ ہو جاتے ہیں، اور مصیبتیں و آفتیں اپنی جگہ جم کر رہ جاتی ہیں، نہ مضرت کے دور ہونے سے نفع کی اُمید ہوتی اور نہ عقلمند کی تدبیر کارگر ہوتی۔ تو ایسی مایوسی کے عالم میں رحمان و رحیم کی مدد آتی ہے، حادثات جتنے بڑے بھی ہوں کشادگی ان سے متصل ہی ہوتی ہے۔
- ☆ بہت سے معاملات سے تم ڈرتے ہو حالانکہ ان سے تمہاری مرضی کی بات سامنے آ جاتی ہے۔ اُس سے خوش گوار چیز چھپ جاتی ہے اور ناگوار بات ظاہر ہو جاتی ہے۔
- ☆ کتنی ہی نعمتیں ناگوار یوں میں چھپی رہتی ہیں اس لئے ان پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے۔
- ☆ اے ہم نشیں! آرزوئیں جھوٹی ہیں اور مایوسی کے ساتھ اکثر کامیابی کے اسباب بھی ہیں۔
- ☆ کبھی اللہ کسی کو بڑی بڑی مصیبتوں سے آزما تا ہے اور کبھی بعض لوگوں کو نعمتوں سے۔
- ☆ حادثات دہرے تو لگتے ہیں لیکن ان کے ذریعہ ہی تو نعمتوں کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔
- ☆ ہر آدمی کے ساتھ تقدیر لگی ہوئی ہے، زمانہ اور اس کی گردش میں تعجب کی کیا بات ہے۔
- ☆ بسا اوقات زمانہ کی سختیاں تمہارے لئے بہتر ہوتی ہیں اور زمانہ میں مستقل تو کوئی چیز رہتی نہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ آدمی کی بے چارگی ہمیشہ رہے گی اگر کوئی چیز دائمی ہوتی تو لوگ اسے عجائب میں شمار کرتے۔
- ☆ ثروت مندوں پر رشک نہ کرو کہ جتنا زمانہ انہیں دیتا ہے ویسے ہی چھین بھی لیتا ہے۔
- ☆ ارے حاسد نادان، گردش زمانہ کا طعنہ دیتے ہو یہ بتاؤ کہ تم ٹھیک ٹھاک اور ثروت مند رہو گے اس کی کیا گارنٹی ہے؟
- ☆ کیا نہیں دیکھا کہ جب رات کے اندھیارے عروج کو پہنچے تو صبح کا نور نمودار ہونے لگا۔
- ☆ جلد ہی اللہ فراخی پیدا کرے گا کیونکہ ہر روز مخلوق میں اس کی نئی شان کا ظہور ہوتا ہے۔

غم نہ کریں

- ☆ درد کے مارے کو اللہ جلد ہی شفا دے گا کہ مخلوق میں اس کی نئی شان کا ظہور ہوتا ہے۔
- ☆ بھیڑیے نے آواز نکالی مجھے اُس کی آواز مانوس لگی انسان نے پکارا تو خوف کے مارے میں اڑنے کے قریب ہو گیا۔
- ☆ ہماری ثروت جتنی بڑھتی ہے اتنی ہی فکریں بڑھتی ہیں زیادہ مال ستم بالائے ستم ہے۔
- ☆ قناعت کی دولت پر نہ تو خوف ہوتا ہے نہ پہرے داروں اور حکومتوں کی ضرورت پڑتی۔
- ☆ نفس کو آدمی جیسا چاہے عادی بنا دے کھلاؤ گے تو اور مانگے گا ورنہ صبر کر لے گا۔
- ☆ بھوک تو سوکھی روٹی بھی دور کر دیتی ہے پھر زیادہ دوسو سے اور حسرت کیوں؟
- ☆ دنیا ایسی جگہ ہے کہ ایک دن ہنسو گے تو دوسرے دن روؤ گے کیا ہی خراب جگہ ہے۔
- ☆ قریب ہے کہ کشادگی آئے قریب ہے کہ..... اسی لفظ قریب سے ہم دل کو بہلاتے رہتے ہیں۔
- ☆ اے مصیبت اب تو ختم ہونے والی ہے صبح کو اذن نمود مل گیا ہے۔
- ☆ لوگ خیر کو یوں نہیں سمجھتے کہ اس کے بعد شرنہیں ہوگا نہ شر کو مستقل اور لازمی خیال کرتے۔
- ☆ زمانہ کیا ہے مصیبت اور اس کا اختتام، تنگی اور کشادگی۔
- ☆ میں نے دل سے کہا اگر تجھے رنج و غم کا احساس ستا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ زیادہ تر غم بے کار ہی ہوتے ہیں۔
- ☆ نفس کو لالچ دو گے تو لالچ میں آئے گا اگر قلیل کا عادی بناؤ گے تو قناعت کرے گا۔
- ☆ ہر حالت بدلتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نا خوشگوار سے خوش گوار امر ظاہر ہوتا ہے۔
- ☆ سسلی مجھے زمانہ کی گردشوں سے ڈراتی ہے بہت سے لوگ موہوم چیزوں سے ڈرتے ہیں۔
- ☆ کوئی بات ہونے سے پہلے میں اندیشہ میں نہیں پڑتا اور ہو جاتی ہے تو اس سے گھبراتا نہیں۔
- ☆ زیادہ فکریں نہ کرو کوئی چیز برابر نہیں رہتی تمہارے تفکرات بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔
- ☆ جو زندہ رہے گا اپنی بہت سی خواہش پوری کر لے گا۔ جہاں تنگی پیش آتی ہے وہاں کشادگی کی راہیں بھی ہوتی ہیں۔

- ☆ بسا اوقات انسان کسی چیز سے پریشان ہوتا ہے۔ جس میں کشادگی کی راہ ہوتی ہے جیسے عقاب کھول دی جاتی ہے۔
- ☆ نعمت میں رہو، مزے اڑاؤ کہ معاملات کی جیسی ابتدا ہوتی ہے انتہا بھی ہوتی ہے۔
- ☆ حادثات کتنے ہی بڑے ہوں ان سے خلاصی کا راستہ بھی انہیں میں چھپا ہوتا ہے۔
- ☆ جو رب تمہارے کل کام آیا تھا وہ آئندہ جو ہوگا اُس میں بھی کام آئے گا۔
- ☆ نفس کو مختلف امیدوں سے میں بہلایا کرتا ہوں اگر امید نہ ہوتی تو زندگی کتنی دشوار ہو جاتی۔
- ☆ آرزوئیں اگر برائیں تو بہت اچھی ہیں ورنہ ہم نے آرزوئیں بہت زمانہ گزارا ہے۔
- ☆ بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کی ابتدا بری ہوتی ہے اور آخر خوش انجام۔
- ☆ کوئی فکر ایسی نہیں جس کا قفل نہ کھل سکے کوئی حال ایسا نہیں کہ جس میں تبدیلی نہ ہوتی ہو۔
- ☆ میں دل کو جھوٹوں ہی تسلی دے لیا کرتا ہوں اس سے سچی بات کی جائے تو امید ہی ختم ہو جائے۔
- ☆ مال جمع کر کے رکھنے میں کوئی سعادت نہیں خوش بخت تو حقیقت میں تقوے والا ہے۔

خاتمہ

آئیے آپ اور میں، اس بزرگ و برتر ذات کا رخ کریں جو اکیلا ہے، بے ہمتا ہے، جی و قیوم ہے، عزت و جلال والا ہے۔ آئیے اس کی چوکھٹ پر کھڑے ہوں اس کے در پر گز گزائیں، اسی سے مانگیں اُسی سے سوال کریں، وہ مغفرت کرتا ہے، شفا دیتا ہے اور کفایت کرتا ہے۔ وہی خالق ہے وہی رازق اور وہی مارنے اور جلانے والا ہے۔

”اے ہمارے رب ہمیں دنیا و آخرت میں خیر عطا فرما، جہنم کی آگ سے بچالے۔“

اے اللہ! ہم تجھ سے درگزر، عافیت اور دنیا و آخرت میں معافی کے سوالی ہیں، اے اللہ! ہم تجھ سے اُسی کا سوال کرتے ہیں جس کا تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی ہے۔

اے اللہ! ہم غم و فکر عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور کمزوری سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور قرض کے غلبہ اور لوگوں کے قہر سے تیری حفاظت چاہتے ہیں۔

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين

والحمد لله رب العالمين

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★



فہرست مضامین

غم نہ کریں

صفحہ نمبر

۵

مضامین

۷

عرض ناشر

۸

مقدمہ ثانیہ

۹

کچھ اس کتاب کے بارے میں

۱۲

مقدمہ طبع اول

۱۳

یا اللہ

۱۴

سوچیں اور شکر بجالائیں

۱۵

جو گزر گیا سو گزر گیا

۱۷

آج پر نظر رکھیں

۱۸

مستقبل کو آنے دیجئے

۱۹

بے جا تنقید کا سامنا کیسے کریں

۲۰

کسی کے شکریہ کا انتظار نہ کریں

۲۱

دوسروں پر احسان سے انشراح صدر ہوتا ہے

۲۲

خالی نہ بیٹھیں

۲۳

نقال نہ بنیں

۲۴

قضا و قدر کو مانے بغیر چارہ نہیں

۲۶

عمر کے ساتھ یسر بھی ہے

۲۷

پریشان حال کی پکار کون سنتا ہے

۲۸

گھر میں رہا کریں

۲۹

بدلہ صرف اللہ دیتا ہے

ایمان ہی زندگی ہے

صفحہ نمبر

مضامین

۳۰

شہد لیجئے لیکن چھتا نہ توڑیئے

۳۱

اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے

۳۲

کیا لوگوں سے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر حسد کرتے ہیں

۳۲

زندگی جیسے ہے ویسی ہی قبول کریں

۳۳

مصیبت زدوں سے حوصلہ پائیئے

۳۵

نماز ۰۰۰ نماز

۳۵

کافی ہے اگر ایک خدا میرے لئے ہے

۳۶

قل سیر وانی الارض

۳۷

صبر جمیل اختیار کریں

۳۸

سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

۳۹

چھوٹی باتوں پر آپ ٹوٹ نہ جائیں

۴۰

قسمت پر راضی رہیں

۴۱

اس جنت کو یاد کرتے رہئے جس کا عرض زمین و آسمان ہے

۴۲

ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے

۴۳

رنج و غم نہ شرعاً مطلوب ہے نہ اصلاً مقصود

۴۸

ادعید ما ثورہ

۴۸

مسکرائیئے

۵۴

غم نہ کریں

۵۵

غم کی نعمت

۵۸

معرفت کی نعمت

۵۹

خوش رہتے کافرن

- غم نہ کریں
- مضامین
- خوش رہنے کے فن کا ایک اصول ۶۰
- خوش رہنے کا ایک اصول ۶۰
- یہ بھی سوچیں ۶۲
- جذبات پر قابو ۶۳
- صحابہ کرام کی محمد ﷺ کے ذریعہ خوش بختی ۶۴
- زندگی میں اکتاہٹ نہ آنے دیجئے ۶۶
- مضطرب ہونا چھوڑ دیں ۶۸
- اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے ۷۱
- غم نہ کریں کہ ہر چیز قضا و قدر سے ہوتی ہے ۷۳
- غم نہ کرو تنگی دور ہونے کی امید رکھو ۷۴
- غم نہ کیجئے، زیادہ سے زیادہ استغفار کیجئے ۷۶
- غم نہ کیجئے، بس ہمیشہ اللہ کا ذکر کیجئے ۷۷
- غم نہ کریں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں ۷۷
- دوسروں کی اذیت سے نہ گھبرا میں ۷۸
- جو کھو گیا اس پر افسوس نہ کریں ۷۸
- چھوٹی چیزوں پر افسوس نہ کیجئے ۷۹
- فکروں کو دور رکھئے ۸۰
- نیکی کر دو یا میں ڈال ۸۰
- لعنت ملامت اور اعتراضات پر رنج نہ کریں ۸۱
- جنگ دستی پر غم نہ کریں کیونکہ قلت مال میں سلامتی ہے ۸۱
- جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہو لہذا اس سے نہ ڈریئے ۸۲
- اہل باطل اور حاسدین کی تنقید سے غمگین نہ ہوں ۸۲

- ۸۵ جو اللہ نے آپ کے لئے مقدر کر دیا ہے اسی پر خوش رہئے
- ۸۶ لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر پریشان نہ ہوں
- ۸۶ جس چیز کی وجہ سے آپ غمگین ہیں اس کی قیمت تو جانئے
- ۸۷ حب تک آپ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں آپ کو رنج کی ضرورت نہیں
- ۸۹ کان میں بری بات پڑنے پر رنجیدہ نہ ہوں کیونکہ حسد ایک قدیم مرض ہے
- ۹۲ مصائب پر صبر کا میاںی کاراستہ ہے
- یہ نہ دیکھو کہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں
- ۹۳ یہ دیکھو کہ وہ اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں
- ۹۳ تنگئی رزق سے نہ گھبرائیے
- ۹۳ تندئی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب
- ۹۴ دوسروں کا لبادہ نہ اوڑھئے
- ۹۵ گوشہ نشینی اور بندے پر اس کا مثبت اثر
- ۹۷ شدائد سے نہ گھبرائیں
- ۹۸ خوش رہنے کے قاعدے
- ۱۰۰ رنج و غم کیوں ہو؟ جب کہ تمہارے پاس چھ چیزیں ہیں
- ۱۰۰ لوگوں کے ساتھ احسان کر کے نیک نامی کمائیے
- ۱۰۰ مشکلات میں صبر و تحمل سے کام لیں
- ۱۰۳ کتاب سب سے بہتر دوست ہے
- ۱۰۵ مطالعے کے فائدے
- ۱۰۶ جب آپ نے احسان سے لوگوں کے دل جیت لئے تو پھر کوئی غم نہیں
- ۱۰۷ ایک دوسرا سٹیج بھی ہے گا ایک نئی زندگی بھی برپا ہوگی اس لئے غم کی کوئی بات نہیں

غم نہ کریں

مضامین

صفحہ نمبر

۱۰۸

بعض فلسفیوں کے اقوال و اعتراضات

۱۰۹

گذشتہ دن آج اور کل کے بارے میں

۱۱۱

رنج قوت کو پاش پاش اور جسم کو توڑ دیتا ہے

۱۱۲

رنج و غم اور حسد کے اثرات

۱۱۳

رب تعالیٰ سے خوش گمان رہیں

۱۱۴

جب خیالات ستائیں

۱۱۴

مثبت اور تعمیری تنقید نہ گھبرائیں

۱۱۴

انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ

۱۱۵

اکثر افواہیں درست نہیں ہوتیں

۱۱۶

زہری آپ کو بہت سی مشکلات سے بچاتی ہیں

۱۱۶

جو فوت ہو اوہ واپس نہیں آئے گا

۱۱۷

زندگی رنج کے لائق نہیں

۱۱۸

اللہ پر ایمان کے ساتھ حزن جمع نہیں ہو سکتا

۱۲۰

چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنج نہ کریں

۱۲۱

تمہارے اوپر زیادتی ہو تب بھی رنجیدہ نہ ہو

۱۲۲

نیک لوگ عنقا نہیں ہوتے

۱۲۳

خاموشی اچھی غذا ہے

۱۲۳

بلاؤں سے نہ گھبرائے کہ وہ انعام و عطیہ بھی ہو سکتے ہیں

۱۲۴

انسان عالم اصغر ہے

۱۲۶

کتنی ہی مصیبتیں فائدہ مند ہوتی ہیں

۱۲۷

ایمان سے شفا ملتی ہے

۱۲۸

اللہ مجبور مشرک کی بھی سنتا ہے

۱۲۹

زندگی تصور سے بھی زیادہ چھوٹی ہے اس لئے غم نہ کیجئے

۱۳۰

بقدر کفاف حاصل ہے تو رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے

۱۳۱

جو ہوا اس پر رضا مندی سے حزن ختم ہوتا ہے

۱۳۲

ایک عضو کھوجانے کا کیا غم دوسرے اعضاء تو سلامت ہیں

۱۳۳

گردش ایام

۱۳۴

زمیں اور بھی آسماں اور بھی ہیں

۱۳۵

زندگی کے آخری لمحات میں حزن و ملال نہ کریں

۱۳۶

موت کا ایک اور قصہ

۱۳۷

حالات سے نہ گھبرائیے کیونکہ انجام سے آپ آگاہ نہیں

۱۳۸

دنیا اس سے بہت حقیر ہے کہ اس پر غم کیا جائے

۱۳۹

ایمان باللہ کے ساتھ حزن کی کیا گنجائش

۱۴۰

کسی آفت کا لاحق ہو جانا آپ کو تفوق سے نہیں روک سکتا

۱۴۱

اسلام کو پہچان لیا تو غم کی کوئی بات نہیں

۱۴۲

خوش بختی کے اسباب خوش بختی کے عناصر

۱۴۵

موت کا ایک دن معین ہے

۱۴۶

یا ذوالجلال والا کرام کا کثرت سے ورد کرو

۱۵۰

حاسد سے حفاظت کا نسخہ

۱۵۱

لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیے

۱۵۱

پریشان نہ ہوں اس پر عمل کریں

۱۵۲

معصیت کے برے نتائج

غم نہ کریں

مضامین

صفحہ نمبر

۱۵۳

روزی کی طلب میں حرص سے کام نہ لیں

۱۵۴

ہدایت کا راز

۱۵۵

جو خوش گوار زندگی چاہے وہ دس کام کرے

۱۵۷

امروا قحہ کو قبول کر لیں تو حزن نہ ہوگا

۱۵۹

اس قصہ سے یہ سبق ملتا ہے

۱۶۱

جس چیز کے لئے آپ عملیں ہیں

۱۶۲

افسردہ نہ ہوں یہ بد نصیبی کا راستہ ہے

۱۶۲

افسردگی خودکشی کا دروازہ ہے

۱۶۷

استغفار سے بندتالے کھل جاتے ہیں

۱۶۹

لوگ آپ کے لئے خطرہ مول نہیں لیں گے

۱۷۰

مال کے خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرو

۱۷۱

غیر اللہ سے تعلق نہ رکھیں

۱۷۲

انشراح صدر کے اسباب

۱۷۳

آزادی کا مزہ لطیف ہے

۱۷۴

سفیان ثوری نے مٹی کا تکیہ بنایا

۱۷۴

افواہ بازوں کی طرف کان نہ دھریں

۱۷۵

سب دشمن سے آپ کو نقصان نہ ہوگا

۱۷۵

کائنات کی کتاب جمال پڑھئے

۱۷۶

چمن میں ہر طرف بگھری ہوئی ہے داستاں میری

۱۷۷

حرص سود مند نہیں ہوتی

۱۷۷

پریشانیوں آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی

۱۷۸

ہمیں اللہ کافی ہے

۱۷۸

خوش نصیبی کے عناصر

۱۷۹

جاہ و منصب

۱۸۰

آؤ نماز کی طرف

۱۸۲

صدقہ سے سینہ میں کشادگی پیدا ہوتی ہے

صفحہ نمبر

۱۸۳

۱۸۴

۱۸۶

۱۸۷

۱۸۷

۱۸۸

۱۸۸

۱۹۰

۱۹۱

۱۹۲

۱۹۵

۱۹۷

۱۹۸

۱۹۸

۲۰۰

۲۰۰

۲۰۱

۲۰۲

۲۰۵

۲۰۶

۲۰۸

۲۰۹

۲۱۰

۲۱۱

مضامین

غصہ نہ کریں

صبح سویرے پڑھی جانے والی دعائیں

قرآن ایک بابرکت کتاب

شہرت کی حرص نہ کریں

اچھی زندگی

مصیبت سے فائدہ ہوتا ہے

عبودیت کا تقاضا

احقوں کی ہم نشینی سے حزن و ملال ہوتا ہے

مصیبت زدوں سے

توحید کی تجربہ گاہیں

ظاہر و باطن دونوں پر توجہ دیں

مشغولیت بہترین علاج ہے

اللہ ہی پناہ گاہ ہے

تین متفق علیہ چیزیں

جو آپ پر ظلم کرے اس کا معاملہ اللہ کے حوالہ کریں

کسریٰ اور ایک بڑھیا

احساس کمتری سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے

اعتراف کے بغیر چارہ نہیں

احقوں کے ساتھ چند لمحے

ایمان ہی راہ نجات ہے

کافروں میں بھی درجات ہیں

نولادی ارادہ

اللہ کی طرف

روزی میں تاخیر ہو جائے تو غم نہ کریں

	غم نہ کریں
	مضامین
۲۱۵	یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے
۲۱۹	ایچھے کاموں سے خوشی ملتی ہے
۲۲۰	علم را بردل زنی یارے بود
۲۲۱	معلومات بھی ہونی چاہئے اور غور و فکر بھی
۲۲۲	اپنا احتساب کیا کیجئے
۲۲۳	دفاع کا سامان کر لیں
۲۲۴	لوگوں کو اپنا بنائیے
۲۲۴	ملکوں ملکوں گھومئے اور قدرت کی نشانیاں دیکھئے
۲۲۵	کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی
۲۲۶	آپ کی قیمت جنت ہے
۲۲۷	حقیقی محبت
۲۲۹	شریعت سادہ اور آسان ہے
۲۳۰	راحت کی بنیادیں
۲۳۰	عشق ایک آفت ہے
۲۳۲	برادرانہ حقوق کی ادائیگی
۲۳۳	گناہ سے دور رہیں
۲۳۳	رزق ضرور تلاش کریں لیکن حرص نہ ہو
۲۳۵	آسان شریعت
۲۳۵	تم سر بلند ہو پھر ڈر کس کا؟
۲۳۶	چار چیزوں سے دور رہیں
۲۳۶	اللہ تعالیٰ سے لو لگائیے

صفحہ نمبر

۲۳۷

۲۳۷

۲۳۸

۲۳۸

۲۳۸

۲۳۹

۲۴۰

۲۴۲

۲۴۳

۲۴۴

۲۴۷

۲۴۹

۲۵۰

۲۵۱

۲۵۳

۲۵۵

۲۵۶

۲۵۷

۲۵۸

۲۵۹

۲۵۹

مضامین

دو بڑی باتیں

مصیبتوں کے فوائد بھی ہے

علم ہدایت اور شفا ہے

شر میں خیر ہو سکتا ہے

خوش بختی عطیہ ربانی ہے

یادگار سے آدمی امر ہو جاتا ہے

عظیم مرے

یہاں سے ہاتھ خالی کوئی بھی جایا نہیں کرتا

اپنی دنیا آپ پیدا کرا کر زندگیوں میں ہے

کلام الہی کو سنئے

خوشی کی تلاش ہر ایک کو ہے لیکن...

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا

خوشگوار زندگی کا مفہوم

خوش بختی کی حقیقت کیا ہے؟

اچھے کلمے اس کی طرف جاتے ہیں

اللہ کی پکڑ شدید ہے

مظلوم کی دعا

ترے درپہ میں کھڑا ہوں

دوست ضروری ہے

امن شرعاً و عقلاً مطلوب ہے

	غم نہ کریں
	مضامین
۲۶۰	دنیاوی بڑائی زائل ہو کر رہے گی
۲۶۲	فضائل کا آکتاب خوشحال زندگی کی معراج
۲۶۳	جنت اور نعمتیں وہاں ہے یہاں نہیں
۲۶۴	منہج ربانی کے دشمن
۲۶۷	سعادت کی کنجی
۲۶۸	کیسے تھے یہ لوگ
۲۶۹	صبر کے سلسلہ میں حکماء کے اقوال
۲۷۱	اللہ کے ساتھ حسن ظن رائگاں نہیں جاتا
۲۷۲	صبر کا پھل بیٹھا ہوتا ہے
۲۷۳	مصائب کو کم سمجھنے کے سلسلے میں اقوال
۲۷۴	جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں
۲۷۴	کتا ہیں بہترین ساتھی ہیں
۲۷۵	کتاب کائنات پڑھئے
۲۸۰	یا اللہ یا اللہ
۲۸۱	زمانہ الٹ پھیر کا نام ہے
۲۸۲	آپ کی غمی دشمن کے لئے شادمانی ہوگی
۲۸۳	نیک قالی اور بد قالی
۲۸۵	رنجور ہو کیوں مسرور رہو
۲۸۸	مصیبت زدوں سے حوصلہ لیجئے
۲۹۴	رضا جوئی کے خوشگوار اثرات
۲۹۴	رضا بالقضاء

۲۹۵

جو تقدیر پر راضی نہ ہو وہ بد بخت ہے

۲۹۵

رضامندی کے فائدے

۲۹۶

رب تعالیٰ سے جھگڑا نہیں

۲۹۶

حکم نافذ اور فیصلہ عادلانہ

۲۹۷

شکوہ تقدیر سے کوئی فائدہ نہیں

۲۹۷

رضا بالقضاء میں سلامتی ہے

۲۹۸

شکوہ تقدیر شک کا دروازہ ہے

۲۹۸

رضا غنا اور امن ہے

۲۹۹

رضا کا ثمرہ شکر ہے

۲۹۹

شکوہ کا ثمرہ کفر ہے

۳۰۰

ناراضگی شیطان کی شکار گاہ ہے

۳۰۰

رضامندی سے ہوائے نفس ختم ہوتی ہے

۳۰۱

دوستوں کی غلطیوں سے صرف نظر کرنا

۳۰۲

صحت اور فراغ اور اللہ کی اطاعت میں اس کو غنیمت سمجھنا

۳۰۲

اللہ ایمان والوں کا دوست ہے

۳۰۶

کامیابی چاہنے والوں کے لئے نشان راہ

۳۰۸

بڑا مرتبہ بھی ابتلا ہے

۳۰۸

باقی رہنے والے خزانے

۳۰۹

ہمالیائی ہمت اور حوصلہ

۳۱۰

بڑے لوگوں کی سوانح کا مطالعہ

۳۱۰

جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے

غم نہ کریں

مضامین

احتیاط برتنے

عزیمت کے ساتھ اقدام کرو

دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں

نہ کہیں جہاں میں اماں ملی

آپ کا معاملہ ارحم الراحمین سے ہے

نیک فال لیجئے

زندگی دھوپ چھاؤں ہے

اعتدال ہی میں راہ نجات ہے

آدمی اپنی غالب صفات کے ساتھ

آپ اسی طرح پیدا ہوتے ہیں

ذہانت کے لئے نیکی اور پاکیزگی بھی درکار ہے

صاحب جمال بننے کا نکتہ بھی حسین لگے گی

دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنگ تابانی

بغض و حسد سے بالاتر ہو جائیے

علم آسانی کی کلید ہے

یوں نہیں یوں

سب سے زیادہ شرح صدر والے نبی اکرمؐ تھے

تدریج برتیں

قلیل پر شکر نہیں کرتے تو کثیر پر کیسے کرو گے

تین باتیں

لوگو! مطمئن رہو

صفحہ نمبر

مضامین

۳۳۱

خیر کے کام برے نتائج سے بچاتے ہیں

۳۳۲

تفریح خاطر سے زندگانی کا سفر آسان ہو جاتا ہے

۳۳۵

ملکوت کا مشاہدہ کیجئے

۳۳۵

تجربے کی باتیں

۳۳۶

انتشارِ ذہنی کا شکار نہ ہوں

۳۳۷

ایمان و اخلاق سب سے گراں قدر ہیں

۳۳۹

کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ

۳۳۹

اور یہ کتنے بدنصیب تھے

۳۴۰

خواتین کا خیال رکھیں نرمی کا معاملہ کریں

۳۴۱

مسکراہٹ سے آغاز کیا جائے

۳۴۳

جذبہ انتقام غصہ کرنے والوں کے لئے زہر ہے

۳۴۵

اپنی شخصیت نہ کھو دیجئے

۳۴۵

صابرین لطف و کرم کے منتظر رہیں

۳۴۷

جس عمل میں راحت ملے اسے کیجئے

۳۴۷

ہم ان کو ان کو سب کو دیتے ہیں

۳۴۹

اللہ ایمان والوں کی رہنمائی کرتا ہے

۳۵۰

منج امتثال

۳۵۱

نہ یہ نہ وہ

۳۵۲

ولی کون ہیں؟

۳۵۳

اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے

۳۵۴

اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں کا گمان بھی نہیں ہوتا

غم نہ کریں

مضامین

وہی بارش برساتا ہے

نعیم البدل بھی وہی دیتا ہے

مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو

قیمتی لمحات

مصیبت میں کون ہمارے کام آتا ہے

موت کا ایک قصہ

موت میں نہ تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ تقدیم

جنہیں تم پکارتے ہو وہ گم ہو گئے سوائے اللہ کے

کبھی بیماری ہی شفا بن جاتی ہے

اولیاء کی کرامات

اللہ ہی بہترین مددگار ہے

حلال روزی کھائیں دعا قبول ہوگی

ہر چیز اس کی تسبیح پڑھتی ہے

اللہ سے راضی رہو

وادئ نخلہ میں

صحابہ کرام کو انعام سے نوازا گیا

ہر حال میں تسلیم و رضا

فیصلہ کرنا

احد پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہئے

جیسی کرنی ویسی بھرنی

فصیح و بلیغ کلام کا ٹیکس

۳۸۳

آرام و سکون تو بس جنت میں ملے گا

۳۸۵

نرمی مقصود کے حصول میں مدد دیتی ہے

۳۸۸

قلق کا کوئی فائدہ نہ ہوگا

۳۸۸

قدر کفاف میں راحت

۳۸۹

برے سے برے احتمال کی توقع

۳۹۱

عافیت کے ساتھ روزی روٹی ملے تو پھر دنیا کو سلام ہو

۳۹۲

عداوت کی آگ بھڑکنے سے پہلے ہی بھادو

۳۹۳

کس کا مقام نہ گراؤ

۳۹۷

جیسا کرو گے ویسا بھرو گے

۳۹۷

دوسروں کی محنتوں پر پانی نہ پھیریں

۳۹۸

دوسروں کی نقل نہ کیجئے

۳۹۹

جسے کرنے سکتے ہوں اسے چھوڑ دیں

۴۰۰

زندگی کا نظام تتر بتر نہ ہو

۴۰۰

زیادہ کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا ہے

۴۰۳

خوش رہنے کے قاعدے

۴۵۹

منتخب اشعار کا ترجمہ

۴۶۵

فہرست مضامین

